

بِذَكْرِ اللَّهِ تَسْتَرُّ

خزاں علمیہ برائین قاطعہ اور خطبات نادرہ کا ایک حسین مجموعہ،
علماء، خطباء اور عوام سمجھی کے لئے یکساں مفید۔

- سورہ جمہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر
- تماز جمہ اور خطبے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ
- جمہ کے عربی خطبوں کا خلاصہ
- خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں؟
- عدل کے تقاضے
- احسان کے کہتے ہیں؟
- عزیز واقارب کے حقوق ادا کریں
- فواحش اور منکرات سے بچیں
- علم کے بعد عمل ضروری ہے
- عید کا پیغام
- جمہ اور عیدین کے آداب احکام
- جمہ اور عیدین کے عربی خطبات

جلد اول

افتتاحی

مفتقر قرآن فقیر حضرت مولانا فضیل شاہ مجدد نواں الہمڈنگٹن مفتا مکالم
شیخ الحدیث دا اسلام شیخگرو و بانی رحمت عالم فاؤنڈیشن

بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

خزاں علمیہ برائین قاطعہ اور خطبات نادرہ کا ایک حسین مجموعہ
علماء، خطباء اور عوام سمجھی کے لئے یکساں مفید۔

- سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر
- نماز جمعہ اور خطبے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ
- جمعہ کے عربی خطبوں کا خلاصہ
- خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں؟
- عدل کے تقاضے
- احسان کسے کہتے ہیں؟
- عزیزو اقارب کے حقوق ادا کریں
- فواحش اور منکرات سے بچیں
- علم کے بعد عمل ضروری ہے
- عید کا پیغام
- جمعہ اور عیدین کے آداب احکام
- جمعہ، عیدین، نکاح اور استسقاء کے عربی خطبات



افلام

مُفْسِدُ قُرْآن فِي الْعِصْرِ حَضْرَمُونَ هُنْ فِي شَاهِ حَمْرَاءِ نَوَالِ الْجَمْرَنْ پُحْلَى بَكَاتِمْ
شیخ الحدیث داڑا العلام شاگرد و بنی رحمت عالم فاؤنڈیشن



تفصیلات کتاب

جملہ حقوق طباعت بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب	:	تذکیرات جمعہ
زیر سرپرستی	:	پیر طریقت رہبر شریعت عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
افادات	:	تفسیر قرآن نقیہ العصر حضرت مولانا مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
زیر اہتمام	:	رحمت عالم فاؤنڈیشن (شکاگو، امریکہ)
ناشر	:	شریعہ بورڈ آف انڈیا (حیدرآباد)
تعداد	:	۱۰۰۰
صفحات	:	۲۳۳
سن طباعت	:	شعبان المظہم ۱۴۳۷ھ مطابق مئی ۲۰۱۶ء
قیمت	:	۱۸۰

ملنے کے پتے

آستانہ صوفی، یوسف نگر، پہ چبوترہ، حیدرآباد، فون نمبر: 09989478786
 شریعہ بورڈ آف انڈیا، رضوان کالونی، شاستری پورم، حیدرآباد: 040-32925556
 مکتبہ کلیمیہ ناپلی، یوسفین چوراہا۔ 09885655591
 زم زم بکڈ پورو، برو جامع مسجد ملے پلی، حیدرآباد۔
 ہندوستان پیر ایکسپریم، محکمہ کمان حیدرآباد۔
 دکن ٹریڈرس چارینار حیدرآباد۔



صفحہ نمبر:	فہرست عنوانیں:
۲۰	* کلماتِ بارکات:
۲۱	* دعائیہ کلمات:
۲۳	* عرض مرتب:

سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر

۲۷	* سورہ جمعہ کے رکوع، آیات، کلمات اور حروف کی تعداد:
۲۸	* یوم جمعہ کی وجہ تسمیہ:
۲۸	* جمعہ کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی؟
۲۹	* سب سے پہلے جمعہ کس نے اور کہاں ادا کیا؟
۲۹	* آپ ﷺ نے سب سے پہلا جمعہ کب اور کہاں ادا کیا؟
۳۰	* نداء سے کیا مراد ہے؟
۳۰	* احکام جمعہ کو نسی اذان سے متعلق ہیں؟
۳۱	* اذان اول کی ابتداء کب اور کیوں ہوئی؟
۳۲	* اذان اول پر اجماع صحابہ ہے:
۳۲	* تعداد اذان حضرت عمر کے زمانے سے ثابت ہے:
۳۲	* تعداد اذان کی اصل حضور سے بھی ثابت ہے:
۳۳	* اذان اول خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی کی سنت ہے:
۳۳	* جمعہ کیلئے وقار اور اطمینان سے جائیں:
۳۴	* ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟
۳۴	* اذان سننے کے بعد شریعت کا حکم:

۳۴	* آیت میں صرف بیج چھوڑنے کا حکم کیوں؟
۳۵	* تجارت کے لئے ایک رخصت:
۳۶	* امت محمدیہ کی ایک خصوصیت:
۳۶	* عارضی نفع نہ دیکھیں:
۳۶	* نماز کے بعد فضل الہی تلاش کریں:
۳۷	* فضل الہی سے کیا مراد ہے؟
۳۷	* جمعہ کے بعد تجارت میں برکت:
۳۸	* کیا ہر حکم پورا کرنا ضروری ہے؟
۳۸	* دورانِ تجارت بھی اللہ کو نہ بھولیں:
۳۹	* ذکر اللہ کی تین صورتیں:
۳۹	* بازار میں کلمہ توحید پڑھنے کی فضیلت:
۴۰	* صحابہ کی لغزش اور اللہ تعالیٰ کی تشنبیہ:
۴۱	* اگر نبی تہہا ہو جاتے تو مدینہ پر عذاب آ جاتا:
۴۱	* لغزش کے اسباب:
	نمازِ جمعہ اور خطبہ سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ:
۴۵	* یومِ جمعہ کے چند فضائل:
۴۵	* ایک ہفتہ کے گناہوں کی بخشش:
۴۵	* ہر قدم پر ایک سال کا اجر اور رات بھر عبادت کا ثواب:
۴۶	* غسلِ جمعہ گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے کھینچ لیتا ہے:
۴۶	* جمعہ کی ہر ساعت میں جہنم سے چھ سو بندے آزاد کئے جاتے ہیں:

۳۶	* جمعہ کے دن موت کے فضائل:
۳۷	* بلاعذر نمازِ جمعہ چھوڑنے پر وعیدیں:
۳۸	* یومِ جمعہ افضل ہے یا یومِ عرفہ؟
۳۹	* معاشرہ کی چند بے اعتدالیاں:
۴۰	* تجیہ المسجد کی شرعی حیثیت:
۴۰	* کیا تجیہ المسجد بھول کر بیٹھنے سے ساقط ہو جاتی ہے؟
۴۱	* سنتوں کے ضمن میں تجیہ المسجد کی دائیگی:
۴۱	* تجیہ المسجد کا بدل:
۴۲	* دورانِ خطبہ تجیہ المسجد کا حکم:
۴۲	* دورانِ خطبہ خاموشی واجب ہے:
۴۳	* مخالف روایت کا جواب:
۴۳	* دورانِ خطبہ درودِ شریف پڑھنے کا حکم:
۴۶	* عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں خطبہ کا حکم:
۴۷	* غیر عربی میں خطبہ جائز قرار دینے والوں کی دلیل:
۴۷	* مخالفین کی دلیل کا جواب:
۴۸	* کیا آپ ﷺ نے کبھی صحابہ کو غیر عربی میں خطبہ دینے کا حکم دیا؟
۴۸	* کیا صحابہ عربی کے علاوہ دوسری زبانیں نہیں جانتے تھے؟
۴۹	* خطبہ جمعہ کی حقیقت اور مقصد:
۵۰	* خطبہ صحت جمعہ کے شرائط میں سے کیوں ہے؟
۵۰	* خطبہ کے اركان، شرائط، مستحبات اور مسنونات کیوں ہیں؟

۶۰	* کیا اذان کسی دوسری زبان میں دی جاسکتی ہے؟
۶۱	* خطبہ نماز کے مشابہ ہے:
۶۲	* عربی خطبہ سے قبل اردو خطبہ کی شرعی حیثیت:
۶۳	* عربی خطبہ سے قبل وعظ خلفاء راشدین سے ثابت ہے:
۶۴	* حضرت ابو ہریرہ کا عمل:
۶۵	* حضرت تمیم داری کا عمل:
۶۶	* عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ کا مناسب وقت:
۶۷	* ایک مسجد میں دو مرتبہ جمعہ ادا کرنے کا حکم:
۶۸	* نمازِ جمعہ اور شریعت کا منشاء:
۶۹	* زوال سے پہلے خطبہ یا نمازِ جمعہ کا حکم:
۷۰	* وقت سے پہلے عبادت ادا ہی نہیں ہوتی:
۷۱	* وقت سے پہلے جمعہ ادا کرنے والوں کی دلیل اور ان کا جواب:
۷۲	* آپ ﷺ نے عید اور جمعہ علاحدہ کیوں ادا فرمایا؟
۷۳	* جمعہ کو عید المومین کہنے کی وجہ:
۷۴	* تشیبیہ اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے ہے:
۷۵	* مسئلہ جمع بین الصلاتین:
۷۶	* نمازوں کے اوقات منصوص ہیں:
۷۷	* نمازوں میں سستی پر و عید:
۷۸	* آپ نے سوائے مزدلفہ کے کہیں جمع بین الصلاتین نہیں کیا:
۷۹	* جمع بین الصلاتین پر و عید:

۷۳	* جمع بین الصلاتین کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان:
۷۴	* جمع بین الصلاتین والی روایات قرآن کے معارض ہے:
۷۵	* روایات میں جمع صوری مراد ہے جمع حقیقی نہیں:
۷۶	جمعہ کے عربی خطبوں کا خلاصہ:
۷۶	* تمهید:
۷۷	* خطبہ اولیٰ کا خلاصہ:
۷۷	* سب سے بہترین کلام:
۷۷	* سب سے بہترین اسوہ:
۷۹	* خطبہ ثانیہ کا خلاصہ:
۷۹	* صحابہ سے بدگمانی ایمان کے تنزل کا سبب ہے:
۸۰	* ایمان کی سلامتی اسلام کو تحامنے میں مضر ہے:
۸۰	* آیت مبارکہ کی جامعیت:
۸۱	* اسلام کی ترجمانی کے لئے یہ آیت کافی ہے:
۸۱	* ابو جہل کا اقرار:
۸۲	* قبیلہ اکشم کے اسلام لانے کا واقعہ:
۸۳	* حضرت عثمان ابن مظعونؓ کا قبول اسلام:
۸۳	* ابو طالب کا حق کی دعوت دینا:
۸۵	* ولید ابن مغیرہ کا بے تامل اقرار:
۸۶	* خطبہ میں آیت مذکورہ کی ابتداء کب اور کیوں ہوئی؟

خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں؟

۹۰	* کیا خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر بدعوت ہے؟
۹۱	* خطبہ میں خلفاء راشدین کے ذکر کی ابتداء کب اور کیوں ہوئی؟
۹۲	* علامہ ابن تیمیہ <small>رحمۃ اللہ علیہ</small> کا فتویٰ:
۹۲	* خطبہ میں خلفاء کے ذکر کی ابتداء صحابہ سے ثابت ہے:
۹۳	* حضرت عمر <small>رضی اللہ عنہ</small> اور حضرت ضبلہ کا مکالمہ:
۹۳	* ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات عمر اور آل عمر سے بہتر ہے:
۹۳	* حضرت ابو بکر صدیق کی حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے لئے بے چینی:
۹۴	* تکلیف پہلے مجھے پہنچے:
۹۴	* حضرت ابو بکر کے لئے معیت الہی کا پروانہ:
۹۵	* حضرت ابو بکر کا دین میں تصلب:
۹۶	* خلفاء راشدین کے اجتماعی فضائل:
۹۶	* حضور کی سنت کے ساتھ صحابہ کی سنت بھی لازم پکڑنا ہے:
۹۶	* خلفاء راشدین کے لئے حضور کی دعا:
۹۷	* حدیث عشرہ مبشرہ:
۹۷	* فضائل حضرت ابو بکر صدیق <small>رضی اللہ عنہ</small> :
۹۷	* حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے سب سے زیادہ محبوب:
۹۸	* امت پر سب سے زیادہ مہربان:
۹۸	* حوض کو شرپر حضور <small>صلی اللہ علیہ وسلم</small> کے یار کون؟

۹۸	* ابو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرے کو امامت زیبا نہیں:
۹۸	* حضور ﷺ کے بعد کس سے رجوع ہوں؟
۹۹	* اہل جنت کے سردار:
۹۹	* انبیاء کے بعد سب سے بہتر کون؟
۱۰۰	* تمام زمین والوں کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے سامنے ہیچ ہے:
۱۰۰	* فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ:
۱۰۰	* شیطان حضرت عمر کو دیکھتا تو راستہ بدل دیتا:
۱۰۱	* حضرت عمر کا محل:
۱۰۱	* حضرت عمر کے دین کی شہادت:
۱۰۲	* حضرت عمر کا علم حضور کی زبانی:
۱۰۳	* حضرت عمر کی حق گوئی کی شہادت:
۱۰۳	* حضور ﷺ کے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے:
۱۰۳	* حضرت ابو بکر اور عمر نبی ﷺ کے دائیں اور بائیں سے اٹھیں گے:
۱۰۳	* حضور کے دو وزیر:
۱۰۴	* فضائل حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ:
۱۰۴	* فرشتے بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں:
۱۰۴	* جنت میں نبی ﷺ کے رفیق:
۱۰۴	* آج کے بعد عثمان کے لئے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں:
۱۰۴	* حضرت عثمان کی شہادت کی پیشیں گوئی:

۱۰۵	* خلفاءِ ثلاثة کے لئے جنت کی شہادت:
۱۰۶	* حضرت عثمان کی جانب سے حضور ﷺ کی بیعت:
۱۰۶	* تینوں خلفاء کی خلافت کی پیشین گوئی:
۱۰۶	* فضائل حضرت علیؓ:
۱۰۶	* حضرت علیؓ کا رتبہ:
۱۰۷	* حضرت علیؓ سے بعض نفاق کی علامت ہے:
۱۰۷	* حضرت علیؓ کے لئے اللہ اور رسول کی جانب سے محبت کا پروانہ:
۱۰۷	* حضرت علیؓ تمام مومنین کے مولیٰ ہیں:
۱۰۸	* حضرت علیؓ کے لئے حضور ﷺ کی دعا اور تمنا:
۱۰۸	* حضرت علیؓ کی شان میں افراط اور تفریط کی پیشین گوئی:
۱۰۹	* سیرت حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ:
۱۱۰	* حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے بارے میں علماء و محدثین کے اقوال
۱۱۱	* خلیفہ وقت اور احتیاج:
۱۱۱	* امیر المؤمنین اور فکر آخرت:
۱۱۲	* حضرت عمر بن عبد العزیز کی احتیاط کے دو واقعے:
عدل کے تقاضے:	
۱۱۳	* عدل کسے کہتے ہیں؟
۱۱۵	* عدل کی حقیقت
۱۱۵	* سعادت کے چار بنیادی امور:

۱۱۶	* عقائد میں اعتدال:
۱۱۶	* نبی ﷺ کو اعمال میں اعتدال کا حکم:
۱۱۷	* اعمال میں تفریط پر تنبیہ:
۱۱۷	* مال خرچ کرنے میں اعتدال:
۱۱۷	* مال خرچ کرنے میں اعتدال کا فائدہ:
۱۱۷	* امتِ محمدیہ کی خصوصیت:
۱۱۸	* حضرت موسیٰ ﷺ کی شریعت میں سختی:
۱۱۸	* حضرت عیسیٰ ﷺ کی شریعت میں نرمی:
۱۱۸	* امتِ محمدیہ کا اعتدال:
۱۱۹	* عدل کی ضد:
۱۱۹	* ظلم کی حقیقت:
۱۱۹	* سب سے بڑا ظلم:
۱۲۰	* شرک سب سے بڑا گناہ کیوں؟
۱۲۰	* اللہ کی نافرمانی اللہ کے ساتھ ظلم ہے:
۱۲۱	* حضرت آدم ﷺ کا نسیان بھی ظلم تھا:
۱۲۲	* اللہ ہی کی عبادت کیوں؟
۱۲۲	* پنج الوبہت:
۱۲۳	* اپنے نفس کی رعایت نہ کرنا بھی ظلم ہے:
۱۲۳	* حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاصی رضی اللہ عنہما کا قصہ:

۱۲۳	* ہماری معصیت سے اللہ بے نیاز ہیں:
۱۲۵	* جانوروں کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے:
۱۲۵	* نظام عالم کے عدل پر قائم ہونے کا مطلب:
۱۲۶	* عدل کا بھی وزن کیا جائے گا:
۱۲۶	* آخرت کا پل صراط دنیا میں دین ہے:
۱۲۷	* ایک دیہاتی کا قصہ:

احسان کسے کہتے ہیں؟

۱۲۹	* احسان کی ضرورت:
۱۳۰	* احسان کی تفسیر:
۱۳۰	* حضرت عیسیٰ اور احسان کی تفسیر:
۱۳۱	* عدل اور احسان میں فرق:
۱۳۱	* احسان، کیمت اور کیفیت دونوں میں ہوتا ہے:
۱۳۱	* احسان کی حقیقت:
۱۳۲	* احسان کا اعلیٰ درجہ:
۱۳۲	* احسان کا ادنیٰ درجہ:
۱۳۳	* حدیث جبریل اور احسان سے متعلق ایک غلط فہمی:
۱۳۳	* جانوروں میں بھی احسان مطلوب ہے:
۱۳۳	* قتل اور جانوروں کے ذبح میں بھی احسان کا حکم ہے:
۱۳۳	* احسان کے دس فضائل:

۱۳۶	* احسان ہر چیز میں مطلوب ہے:
۱۳۷	* احسان کے لئے دھیان ضروری ہے:
۱۳۷	* احسان میں اخلاص بھی داخل ہے:
۱۳۸	* احسان ہر جگہ مطلوب ہے:
۱۳۸	* دورانِ ملازمت نفل بھی جائز نہیں:
۱۳۹	* ڈرائیونگ کے وقت کا ذکر:
۱۳۹	* صحیح ڈرائیور کون؟
۱۴۰	* وہاں بے اصول ہی اصول ہے:
۱۴۰	* ایک امریکی ساختی کے روپیت سیکھنے کا واقعہ:
۱۴۱	* احسان کے حصول کا طریقہ:
۱۴۱	* لایعنی امور سے پچنا بھی احسان میں داخل ہے:
۱۴۱	* لایعنی امور کسے کہتے ہیں؟
۱۴۲	* خشوع کی حقیقت:

عزیز و اقارب کے حقوق ادا کریں:

۱۴۵	* ذوی القربی کون کون ہیں؟
۱۴۵	* حقوق کے تین بنیادی پہلو:
۱۴۶	* حقوق میں کس کو ترجیح دیں؟
۱۴۷	* اسلام میں انکل اور آنٹی کا تصور نہیں:
۱۴۷	* غیر وہ کی تہذیب نے رشتہوں کو بھلا دیا:

۱۳۸	* احادیث میں رشتتوں کو یاد رکھنے کا حکم کیوں؟
۱۳۸	* حضرت مریم <small>رضی اللہ عنہ</small> حضرت زکریا <small>علیہ السلام</small> کی پرورش میں کیوں؟
۱۳۹	* مشرقی اور مغربی تہذیب میں فرق:
۱۵۰	* صلہ رحمی نہ کرنا حق تعالیٰ کے اسم مبارک کا پاس و لحاظ نہ کرنا ہے:
۱۵۰	* رشتہ داروں کے کیا حقوق ہیں؟
۱۵۰	* صلہ رحمی کا ادنیٰ درجہ:
۱۵۱	* رشتہ داروں کا ایک اہم حق:
۱۵۱	* دعاء خیر کے ذریعہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کریں:
۱۵۱	* صلہ رحمی کا بدلہ دنیا میں بھی دیا جاتا ہے:
۱۵۲	* نیکی اور صلہ رحمی سے حساب آسان ہوتا ہے:
۱۵۲	* صلہ رحمی کے چار فوائد:
۱۵۳	* صدقہ سے غصب الہی ٹھنڈا ہوتا ہے:
۱۵۳	* صلہ رحمی کی پکار:
۱۵۳	* صلہ رحمی میں کوتاہی سے ڈرو:
۱۵۳	* صلہ رحمی نہ کرنے پر حق تعالیٰ کی لعنت:
۱۵۵	* یہ صلہ رحمی نہیں ہے:
فواحش اور منکرات سے بچیں:	
۱۵۸	* شریعت کا مجموعہ دو چیزیں ہیں:
۱۵۹	* شریعت میں مامورات زیادہ ہیں یا منہیات؟:

۱۵۹	* فواحش سے کیا مراد ہے؟
۱۵۹	* فحش کا ایک وسیع مفہوم:
۱۶۰	* حلت و حرمت کا اختیار کسی کو نہیں:
۱۶۰	* حلال و حرام کا اختیار نبی کو بھی نہیں:
۱۶۱	* آپ ﷺ کی قسم کا واقعہ:
۱۶۲	* مولوی حرام کرتے نہیں حرام بتاتے ہیں:
۱۶۳	* مامورات اور منکرات کا مقابل:
۱۶۳	* منکر کسے کہتے ہیں؟
۱۶۴	* منکر اور فحش میں فرق:
۱۶۵	* منکر میں علماء کا اختلاف نہیں ہوتا:
۱۶۵	* ناجائز پر اتفاق بھی منکر میں داخل ہے:
۱۶۵	* ناجائز چیز میں حمایت بھی منکر میں داخل ہے:
۱۶۶	* منکر کی دو قسمیں:
۱۶۷	* منکر کے درجات:
۱۶۷	* بغی کی حقیقت:
۱۶۸	* ظلم کی سزادنیا میں بھی ملے گی:
۱۶۹	* بغاوت بھی بغی میں داخل ہے:
۱۶۹	* کیا ہر امر میں امیر کی اطاعت کی جائے گی؟
۱۷۰	* فحش، منکر اور بغی سے کیسے بچا جائے؟
۱۷۰	* انسان کی چار قوتیں اور ان کا اثر:

علم کے بعد عمل ضروری ہے

۱۷۵	* سننے کے بعد اس کا اثر لیں:
۱۷۵	* بے عمل بہرے ہیں:
۱۷۶	* بے عمل کو قیامت میں افسوس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں:
۱۷۷	* کثیر معلومات مقصود نہیں:
۱۷۷	* صحابہ کا معلوم معمول تھا:
۱۷۷	* حضرت والد صاحب حَمْدُ اللّٰهِ كَا ایک مفہوظ:
۱۷۸	* بے عمل سے جانور بہتر ہیں:
۱۷۸	* زمین و آسمان کی ہر شی ذکرِ خدا میں مشغول ہے:
۱۷۸	* زمین و آسمان کی تسبیح حالی یا قابی:
۱۷۹	* پہاڑوں کی تسبیح اور ان پر خوفِ خدا کا اثر:
۱۷۹	* کھانے کی تسبیح:
۱۸۰	* اللہ کا ذکر کثرت سے کریں:
۱۸۰	* ذکرِ اللہ کی حقیقت:
۱۸۱	* احکام الٰہی پر عمل نہ ہو تو ذکر و تسبیح کے باوجود انسان گنہ گار ہے:
۱۸۱	* نماز کا مقصد:
۱۸۲	* ذکر کی اتنی کثرت کرو کہ لوگ یا گل کہنے لگیں:
۱۸۳	* ذکرِ اللہ اور حضور ﷺ کا معمول:
۱۸۳	* زبان کے ایک بول کی اہمیت:
۱۸۴	* چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاء ضروری ہے:

۱۸۳	* تسبیح، تحمید اور تکبیر کی فضیلت:
۱۸۵	* ہمارے اعضاء ریموٹ کنٹرول کی طرح ہیں:
۱۸۶	* ذکر اللہ کے فوائد:
۱۸۶	* اعمال کا محاسبہ کریں:
عید کا پیغام:	
۱۹۰	* عید کی حقیقت:
۱۹۰	* اصل غلام کون؟
۱۹۱	* عید و عید سے بچنے کا نام ہے:
۱۹۲	* آخرت کی ذلت سے پناہ مانگیں:
۱۹۳	* احکام الٰہی یسپر مبنی ہیں:
۱۹۴	* عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا بھی یسپر میں داخل ہے:
۱۹۴	* روزوں کی تعداد اور وقت کا تعین بھی یسپر ہے:
۱۹۵	* رمضان کی تکمیل بھی نعمتِ خدا اندی ہے:
۱۹۶	* روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا مدار رؤیت ہلال پر ہے:
۱۹۷	* عید کے دن تکبیرات کا اہتمام کریں:
۱۹۷	* تکبیرات کا حکم کیوں؟
۱۹۸	* توفیق الٰہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں:
۱۹۸	* محض علم کافی نہیں:
۱۹۸	* عمل کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری ہے:

۱۹۹	* مسلم اور غیر مسلم کی عید میں فرق:
۲۰۰	* شکر کس چیز کا ادا کریں؟
۲۰۰	* شکر کی دو صورتیں:
۲۰۰	* صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟
۲۰۱	* زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا نصاب:
۲۰۱	* صدقہ فطر کتنا ادا کیا جائے؟
۲۰۲	* غیر منصوص اشیاء کے صدقہ فطر کا حکم
۲۰۲	* صدقہ فطر اتنا کم کیوں؟
۲۰۳	* صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟
۲۰۳	* زکوٰۃ اور صدقات کا اولین مصرف:
۲۰۳	* صدقہ فطر کی ادائیگی میں غریب کا احترام ملحوظ رکھیں:

جمعہ اور عیدین کے آداب و احکام

۲۰۶	* صحتِ جمعہ کے شرائط:
۲۰۷	* جمعہ کن پر فرض ہے اور کن پر نہیں؟
۲۰۸	* جمعہ کے سنن، آداب اور مستحبات:
۲۰۸	* یوم جمعہ مسجد جلد جانے کی فضیلت:
۲۰۹	* جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی فضیلت:
۲۱۰	* آپ ﷺ کے خطبہ کی کیفیت:
۲۱۲	* خطبہ کے اركان:

۲۱۳	* خطبہ کے سنن اور آداب:
۲۱۴	* خطبہ کے مکروہات اور خلافِ ادب امور:
۲۱۶	* عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مسنونات اور مستحبات:
۲۱۸	* عید کے دن مصافحہ اور معانقہ کا حکم:
	جمعہ، عیدین، نکاح اور استسقاء کے عربی خطبات:
۲۲۱	* اسلام کا پہلا خطبہ:
۲۲۱	* آپ ﷺ کا خطبہ ثانیہ:
۲۲۲	* جمعہ کا خطبہ اولیٰ:
۲۲۳	* جمعہ کا خطبہ ثانیہ:
۲۲۵	* عید الفطر کا پہلا خطبہ:
۲۲۷	* عید الفطر کا دوسرا خطبہ:
۲۲۸	* عید الاضحیٰ کا پہلا خطبہ:
۲۳۰	* عید الاضحیٰ کا دوسرا خطبہ:
۲۳۱	* خطباتِ عیدین کے آغاز و اختتام پر تکبیرات کی تحقیق:
۲۳۲	* تکبیرات کے درمیان تہلیل و تحریم مستحب ہے:
۲۳۳	* خطبہ نکاح:
۲۳۴	* خطبہ استسقاء:



کلماتِ بابرکات

مفسر قرآن عارف باللہ حضرت مولانا شاہ محمد کمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم

الحمد لله والصلوة والسلام على اهلها۔ اما بعد!

کتاب موسوم بـ ”تذکیرات جمعہ“ کہ چیدہ چیدہ گوشے باصرہ نواز ہوئے، بڑی فرحت محسوس ہوئی، ”تذکیرات جمعہ“ دراصل برادر مکرم مفتی محمد نوال الرحمن عم اللہ ظلہ کے خطبات جمعہ کے علمی خزانے و نوادرات کا حسین فنگم ہے، جس میں تقریباً ۲۶۹ رذیلی عنوانوں کے تحت جمعہ اور خطبہ جمعہ کے احکام و فضائل اور ان کے نہایت اہم متعلقات، بہ اہتمام تخریج دلنشیں پیرائے میں جمع ہیں، برادر محتشم دیقیقہ رس ہیں، اللہ جل شانہ نے انہیں دینی فراست، فقہی بصیرت اور فکری ارتقاء سے خوب نوازا ہے، اس لئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ کتاب باعتبار استناد و اعتماد خود ہی اپنی ضمانت کی حامل ہے، اور اپنی اہمیت و ضرورت کی بناء پر عوام و خواص ہر دو کے لئے مفید تر ہے، نیز قابل تحسین ہیں اس کتاب کے مرتب عزیزم مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد سلمہ اور وہ تمام بھی جو طباعت کے آخری مرحلہ تک شریک معاونت رہے، اللہ جل شانہ ان سب کی مخلصانہ کاوشوں کو قبول فرمائے، اس کتاب کی نافیعیت کو عام و تام فرمائے، اور کما حقہ اس استفادہ اور عملی طور پر جامہ پوشی مقدر فرمائے۔

ع ایں دعا از من و از جملہ جہاں آمین باد۔

دعائیہ کلمات

پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا شاہ محمد جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، و بعد۔

جمعہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس میں عامۃ المسلمين بڑے اہتمام سے جمع ہوتے ہیں، ایسے موقع پر ضروریاتِ دین، مسائل و احکام، زندگی کے ہر شعبے میں دینی رہنمائی اور قرآن و سنت سے لوگوں کو آگاہ کرنے کا ایک بہترین موقع میسر آتا ہے، ایسے موقع پر اکثر جگہ تو صرف عربی میں خطبہ ہوتا ہے، اور بیشتر جگہوں پر عربی سے نا آشنا لوگ ہی بکثرت پائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے خطبہ عربی کے ذریعہ کسی پیغام حق سے باخبر نہیں ہوتے، بہت سی جگہوں پر عربی خطبہ سے پہلے اردو میں کچھ خطاب ہوتا ہے، اور زیادہ تر ایسا ہی ہوتا ہے، جس میں حالاتِ حاضرہ، لوگوں کے اذہان اور ان کے احوال کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو نہیں کی جاتی، اہل حق علماء امت کی صحیح رہنمائی کی فکر رکھنے والے اہل علم اور عوام میں پائی جانے والی خرابیوں کی اصلاح اور درستی کی اہمیت سمجھنے والے خطباء اس خصوصی موقع سے بھر پور فائد اٹھاتے ہوئے ایک عظیم خدمت انجام دے رہے ہیں، انہیں میں ایک مفتی محمد نوال الرحمن مد ظله العالی ہیں، جن کی فقہی بصیرت، اہل زمانہ پر گہری نظر، لوگوں کے مختلف شعبہ جات میں پائی جانے والی خرابیوں اور اس پر فتن دور میں اعتقادی فکری بگاڑ کو خوب سمجھنے کی صلاحیت سے واقف ہیں، موصوف محترم کے جو جمعہ کے خطبات عزیزم مفتی عطاء الرحمن ساجد سلمہ کو مہیا ہو سکے اس کی جلد اول ”تذکیرات جمعہ“ کے نام سے مرتب فرمائی، جو تقریباً سو اسوسیاتیں پر مشتمل ہے، جس میں

سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر، جمعہ کے احکام و فضائل، موجودہ دور میں خطبہ جمعہ وغیرہ کے بارے میں نقل شرعی کے مقابلہ میں عقل کو ترجیح دینے والوں کی آراء کا ابطال، خلفاء اربعہ وغیرہ کے فضائل و مناقب، خطبہ کے اخیر میں پڑھی جانے والی آیت کی وضاحت، عربی خطبہ جمعہ وعیدین وغیرہ، الغرض بہت سے اہم امور پر کافی وافی روشنی ڈالی گئی۔

ویسے اس کتاب کا ابتدائی کچھ حصہ ہی دیکھ سکا، لیکن اندازہ ہوا کہ اتنی مفصل گفتگو ایک جگہ پر بہت کم دیکھنے کو ملتی ہے، دیگر موصوف محترم کے سابقہ کتب درس قرآن کے عنوان سے تین کتابیں اور درس عقیدۃ الطحاوی جس طرح گرانقدر اور مفید ترین ثابت ہوئیں، اسی طرح یہ کتاب بھی اپنی افادیت کے اعتبار سے بڑی وقیع کتاب ہے، عوام و خواص سب کے لئے انشاء اللہ مفید ثابت ہو گی، لائق ستائش ہے عزیزم ساجد سلمہ اور ان کے اعوان جنہوں نے یہ قابل قدر کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی اشاعت کو قبول فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو استفادہ کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)

عرض مرتب:

نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، و علی آله و اصحابہ اجمعین۔
 محترم و معظمی، مخدومی و مطاعی، مشفقی و مربی والدِ محترم حضرت مولانا مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دام ظلہم العالی کی شخصیت مبارکہ محتاج تعارف نہیں، اللہ پاک نے حضرت کو علوم ظاہرہ اور علوم باطنہ دونوں میں ممتاز مقام سے نوازا ہے، ایک طرف آپ شیخ الحدیث ہیں تو دوسری طرف پیر طریقت بھی ہیں، ایک طرف طالبان علوم نبوت آپ کے درس و تدریس اور بحر علم سے اپنی علمی پیاس بجھاتے ہیں تو دوسری طرف احسان و تصوف اور اصلاح باطن کے لئے سالکین آپ سے روحانی فیض بھی پاتے ہیں، نیز دعوت و تبلیغ کے ساتھی بھی حضرت کے مواعظ کے بے چینی سے منتظر رہتے ہیں۔ اور یہ اللہ پاک کا حضرت پر بے انتہاء فضل و کرم اور اللہ پاک کی خصوصی دین اور رحمت ہے کہ درس و تدریس، اصلاح باطن کی مجالس، کئی اداروں کی ذمہ داریاں اور اصلاح معاشرہ اور دعوت و تبلیغ سے متعلق اسفار کی کثرت کے باوجود تقریباً ۳۵ سال سے حضرت کا چہل روزہ دعویٰ سفر کبھی ترک نہیں ہوا، گویا تعلیم، تزکیہ اور تبلیغ کے لئے اللہ پاک نے ہمیں آپ کی شکل میں ایک بہترین تحفہ عطا فرمایا ہے، آپ کے مواعظ و خطبات کی اہمیت اور اس کی لذت و مٹھاں کا صحیح اندازہ وہی کر سکتے ہیں جو اس میخانہ سے جام شرابِ محبت نوش کر چکے ہوں۔

اس سے قبل حضرت کے دروسِ قرآن سورہ فاتحہ، سورہ رحمن اور آیۃ الکرسی اور درسِ عقیدۃ الطحاوی زیور طبع سے آراستہ ہو کر منظر عام پر آپکے ہیں، اور قارئین اس کو پڑھنے کے بعد جان گئے ہوں گے کہ حضرت کے دروس و مواعظ علوم و معارف سے لبریز اور کتنی اہمیت کے حامل اور کتنے دلکش اور دل موجہ ہوتے ہیں؟

زیرِ نظر کتاب ”تذکیرات جمعہ“ (جلد اول) بھی دراصل حضرت کے خطباتِ جمعہ کا مجموعہ ہے جس سے سینکڑوں کی تعداد میں عوام اور خواص بذریعہ انٹرنیٹ مستفید ہو رہے ہیں۔

ضرورت تھی اور عوام و خواص کا اصرار تھا کہ انہیں بھی زیور طبع سے آراستہ کیا جائے، تاکہ حضرت کے علوم کی خوب نشر و اشاعت ہو اور عوام و خواص زیادہ سے زیادہ مستفید ہوں، اور خطیب حضرات کے لئے بھی ایک مستند اور محقق مواد مل جائے۔ چنانچہ اس کام کی ذمہ داری حضرت ہی کی سرپرستی میں چلنے والے ایک ادارہ شریعہ بورڈ آف انڈیا کے سپرد کی گئی۔

چنانچہ اس مجموعے کو ترتیب دینے میں چند باتیں مد نظر رکھی گئیں:

(۱) پہلی جلد میں بالخصوص جمعہ سے متعلق ہی حضرت کے افادات کو جمع کیا گیا ہے، اور کوشش کی گئی ہے کہ مختصر، اور منظم انداز میں ان افادات کو قارئین کی نذر کیا جائے۔

(۲) قرآنی آیات، احادیث مبارکہ، واقعات و تفاسیر کی المکتبۃ الشاملۃ کے ذریعے حتی الامکان تخریج کی گئی۔ اور بالخصوص نصوص کے عربی متن کو بھی نقل کرنے کا اهتمام کیا گیا۔

(۳) عربی عبارات پر اعراب کا اهتمام کیا گیا۔

(۴) ربط و ترتیب کا اهتمام کیا گیا۔

(۵) تصحیح املاء کی بھی حتی الامکان کو شش کی گئی ہے۔

(۶) ممکنہ طور پر تحریری قالب میں ڈھانے کے ساتھ ساتھ اس بات کی بھی کوشش کی گئی ہے کہ ان خطبات کا انداز خطابی بھی رہے، تاکہ قارئین ایک طرف حضرت والا کے خطابی انداز سے محظوظ ہوں تو دوسری طرف الہامی کلمات کی برکت سے بھی مستفید ہوں۔

(۷) موضوع سے متعلق عوام کی استعداد کے مطابق مواد باقی رکھا گیا۔

(۸) کہیں کہیں حضرت کے ایماء پر موضوع سے متعلق کچھ مواد کا اضافہ کیا گیا۔

(۹) چونکہ اس مجموعہ میں جمعہ ہی سے متعلق مواد باقی رکھا گیا، اس لئے بحکم حضرت جمعہ اور خطبه کے فضائل، اركان، شرائع، سنن، مستحبات، آداب، اور مکروہات سے متعلق ضروری مواد، اور اخیر میں خطبات جمعہ و عیدین بھی قارئین کی نظر کئے گئے۔

چونکہ یہ ایک بشری کاوش ہے، جس میں لغزش و خطاكا امکان بہر صورت باقی ہے، اس لئے اہل علم سے درخواست ہے کہ اگر اس میں کوئی بات قابلِ اصلاح نظر آئے تو اس کو احقر کی کوتاہ دستی اور نااہلی سمجھیں، اور احقر کو معدود و سمجھ کر اس کی نشاندہی فرمाकر عند اللہ ماجور ہوں۔

اس موقع پر راقم الحروف شریعہ بورڈ آف انڈیا کے اسٹاف میں سے برادر محترم مفتی محمد حمید الرحمن حامد صاحب قاسمی، مفتی احمد عبد الرؤوف صاحب قاسمی، اور مولانا عتیق الرحمن صاحب فاروقی کا بے حد ممنون و مشکور ہے کہ جن کا تصحیح و پروف ریڈنگ اور اہم مشوروں کے ذریعہ قابلِ قدر تعاون شامل رہا، نیز محترم جناب سید نذیر احمد صاحب قادری کا بھی بے حد ممنون ہے کہ انہوں نے کمپوزنگ اور کتاب کی زیب وزینت کے تمام مراحل بحسن و خوبی انجام دئے۔

بڑی ناسپاسی ہو گی اگر اس موقع پر محترم جناب عارف اقبال صاحب (مقیم شکاگو) کا شکریہ ادا نہ کیا جائے کہ جنہوں نے سفر و حضر میں حضرت کے تقریباً سبھی خطبات کو تواریخ کے ساتھ ریکارڈ کیا، اور اس مجموعہ کو کتابی شکل دینے میں مفید مشوروں سے نوازا۔

اور اخیر میں برادر کلاں مفتی محمد رضاۓ الرحمن عابد قاسمی سابق ناظم شریعہ بورڈ آف انڈیا کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے، احقر اگرچہ کہ اب ان کی رفاقت میں نہیں ہے لیکن دورانِ رفاقت ان خطبات کی ترتیب اور دیگر امور میں آپ کا خاص تعاون شامل رہا۔

دعا ہے کہ اللہ پاک حضرت کا سایہ تادیر ہم پر قائم رکھے، اور حضرت کو صحت عطا فرمائے، اور حضرت کے ان خطبات کو عوام و خواص ہر دو کے لئے مفید بنائے کہ شرفِ قبولیت سے نوازے، اور زیادہ سے زیادہ حضرت کے علوم و معارف کی اشاعت کی ہم کو توفیق نصیب فرمائے، اور ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت اور ذریعہ نجات بنائے۔ (آمین) مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی

(مرتب و ناظم: شریعہ بورڈ آف انڈیا)



سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع

کی تفسیر

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تخریج: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بقام شریعہ بورڈ آف امریکہ، ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

سورہ جمعہ کے دوسرے رکوع کی تفسیر:

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهَ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهَ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً أَبْنَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اَمَّا بَعْدُ۔

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ يُسَمِّ اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذِلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔

”اے ایمان والوجب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لئے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد (یعنی نماز و خطبہ) کی طرف (فوراً) چل پڑا کرو اور خرید و فروخت (اور اسی طرح دوسرے مشاغل جو چلنے سے مانع ہوں) چھوڑ دیا کرو۔ یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھو ہو (کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بیع وغیرہ کافی)“

سورہ جمعہ کے رکوع، آیات، کلمات اور حروف کی تعداد:

یہ سورہ جمعہ کا دوسری رکوع ہے، مدینہ منورہ میں یہ سورت نازل ہوئی۔ علامہ عینی حجۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اس میں ۲ رکوع ہیں، ۱۱ آیتیں، ۲۰۷ حروف اور ۱۸۰ کلمات ہیں۔ (عمدة القاري: ۱۹/۲۳۳)

آپ ﷺ نماز جمعہ میں سورہ منافقون اور سورہ جمعہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۸/۱۱۵)

اور اس کے علاوہ سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ بھی پڑھا کرتے تھے۔ (تفسیر قرطبی: ۱۸/۸۶)

یوم جمعہ کی وجہ تسمیہ:

اس سورت میں اللہ پاک نے یوم جمعہ سے متعلق چند احکام بیان فرمائے ہیں، پہلی بات یہ ہے اس دن کو یوم جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو یوم جمعہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ جمعہ کے معنی ہیں، جمع ہونا، اکٹھا ہونا، چونکہ اس دن مسلمان ایک جگہ جمع ہوتے ہیں اور اکٹھے ہوتے ہیں اس لئے اس کو جمعہ کہا جاتا ہے، اہل عرب یوم جمعہ کو پہلے یوم العروہ کہتے تھے، عروہ کے معنی رحمت کے یا بڑے دن کے آتے ہیں، بعد میں کعب ابن لوی نے اس دن کا نام جمعہ رکھا۔ یہ آپ ﷺ کے اجداد میں سے ہیں، ان کے درمیان اور آپ ﷺ کی بعثت کے درمیان ۵۶۰ سال کا وقفہ ہے، ان کے جمعہ نام رکھنے کی وجہ یہ بنی کہ اس دن قریش ان کے پاس جمع ہوتے تھے، وہ ان کو خطبہ دیتے تھے، اور وعظ و نصیحت کرتے تھے، اور آپ ﷺ کی بعثت کی خبر دیتے تھے، اور آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کی تعلیم دیتے تھے، اس لئے اس دن کا نام انہوں نے جمعہ رکھا تھا۔ مفسرین نے اس کے علاوہ اور بھی وجوہات بیان کی ہیں کہ اس کو جمعہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس دن حضرت آدم ﷺ کی مٹی جمع کی گئی تھی، یا اس وجہ سے کہ حضرت آدم ﷺ اور حضرت حوا ﷺ کو اس دن زمین میں جمع کیا گیا تھا۔ (روح المعانی: ۲۱/۵۵ و ۹۰/۲۷)

و تفسیر مظہری: ۹/۸۷)

جمعہ کی ابتداء کب اور کیسے ہوتی؟

اب سوال یہ ہے کہ ہم جس طریقے پر باضابطہ جمعہ ادا کرتے ہیں، اس کی ابتداء کب ہوتی اور کس نے کی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ نبی ﷺ کے مدینہ آنے سے پہلے انصار نے ایک مرتبہ مشورہ کیا اور آپس میں کہنے لگے کہ یہودیوں کے ہاں عبادت کے لئے ہفتہ کا دن متعین ہے، جس میں وہ جمع ہوتے ہیں، نصاریٰ کے ہاں عبادت کا ایک دن اتوار متعین ہے جس میں وہ جمع ہوتے

ہیں، اس لئے ہمیں بھی ایک دن متعین کر کے اس میں جمع ہو کر اللہ کو یاد کرنا چاہیے، اور اس کا شکر بجالانا چاہیے۔

سب سے پہلے جمعہ کس نے اور کہاں ادا کیا؟

چنانچہ وہ سب اسعد بن زرارہ کے مکان پر جمع ہوئے، بکری ذبح کی، اور سب نے کھایا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں دور کعت نماز ادا کی۔ اور اس کو جمعہ کا نام دیا۔ یہ نمازان لوگوں نے حضور ﷺ کے آنے سے پہلے ادا کی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی۔ (روح المعانی: ۵۱/۲۱)

اس تفصیل سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جمعہ کے دن اسعد بن زرارہ نے لوگوں کو جمع کیا اور دور کعت نماز ادا کی لیکن بعض دوسری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جمعہ نماز مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ادا کی، اس کی تفصیل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں مذکور ہے کہ آپ ﷺ نے جمعہ کے لئے اذان دی لیکن لوگوں کو جمعہ کے لئے جمع نہیں کر پائے، تو آپ نے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ جمعہ کے دن زوال کے وقت اپنی بیویوں اور اپنی اولاد کو جمع کرو، اور دور کعت نماز ادا کر کے اللہ کا قرب حاصل کرو، تو انہوں نے آپ کے فرمان کے مطابق عمل کیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جمعہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ادا کی۔

اس اختلاف کو دور کرتے ہوئے علماء نے لکھا ہے کہ دراصل اسعد بن زرارہ نے سب سے پہلے نماز ادا کی تو وہ نبی ﷺ کے حکم سے نہیں، بلکہ اپنی طرف سے ادا کی۔ اور اللہ کے نبی کے حکم سے سب سے پہلے جنہوں نے نماز ادا کی وہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہیں۔

آپ ﷺ نے سب سے پہلا جمعہ کب اور کہاں ادا کیا؟

یہ نماز تو ان حضرات نے آپ ﷺ کے ہجرت کرنے سے قبل ادا کی تھی۔ اس میں آپ شریک نہیں تھے، بعد میں جب آپ مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لارہے تھے تو بنی عمرو بن

عوف کے پاس مقام قبائلیں پیر کے دن آپ ٹھرے، مسجد کی بنیاد رکھی، منگل، چہارشنبہ، اور جمعرات وہیں قیام کیا، اس کے بعد جمعہ کے دن آپ مدینہ منورہ کے لئے روانہ ہوئے، درمیان میں جمعہ کا وقت ہوا تو بنو عمرو بن عوف کے پاس بطن وادی میں آپ ﷺ نے خطبہ دیکر نماز ادا کی۔ یہ اسلام کا سب سے پہلا جمعہ تھا جس میں آپ ﷺ نے نفس نفیس خطبہ دیکر لوگوں کو نماز پڑھائی تھی۔ (روح المعانی: ۲۱/۷)

نداء سے کیا مراد ہے؟

یہ چند باتیں تو جمعہ کی ابتداء کب اور کیسے ہوئی اس ضمن میں بیان کی گئیں، اس کے بعد جو آیات مبارکہ میں نے خطبہ میں پڑھی ہے اور اس میں جو مضامین اور احکام اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں ان کی مختصر سی تشریح بھی سن لیں۔

اللہ پاک فرماتے ہیں:

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاصْبِرُوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ“

”اے ایمان والوجب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لئے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد (یعنی نمازوں خطبہ) کی طرف (فوراً) چل پڑا کرو۔

اس آیت میں اللہ پاک نے ایک حکم امت کے لئے یہ بیان فرمایا ہے کہ جب نماز کے لئے ندادی جائے نماز کے لئے دوڑ پڑو، اس نداء سے کیا مراد ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد اذان ہے۔

احکام جمعہ کو نسی اذان سے متعلق ہیں؟

اب سوال یہ ہوتا ہے کہ اذان سے کو نسی اذان مراد ہے؟ اور بیج وغیرہ کو چھوڑنے کا حکم کس اذان سے متعلق ہے؟ کیونکہ آپ ﷺ کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی جو نبی ﷺ کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی، بعد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوسری اذان

شروع ہوئی، تو نماز کے لئے دوڑنے کا حکم اور بیع و شراء اور دیگر مشغولیات کو چھوڑنے کا حکم کس اذان سے متعلق ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں پہلی اذان مراد ہے، اور یہ احکام پہلی اذان ہی کے ساتھ متعلق ہیں، یعنی پہلی اذان سنتے ہی مسجد کی تیاری کرنا ضروری ہے، اور جتنی مصروفیات نماز کے علاوہ ہیں ان کو ترک کرنا ضروری ہے، اور منبر پر جو اذان دی جاتی ہے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو ند اذان کے اعلان کے لئے ہواں کے سنتے ہی نماز کے لئے دوڑ پڑو، اور پہلی اذان ہی لوگوں کے اعلان کے لئے ہوتی ہے، اس لئے سعی الی اللہ اور دیگر احکام بھی اسی سے متعلق ہوں گے۔ اگر آیت میں وہ اذان مرادی جائے جو منبر کے سامنے دی جاتی ہے تو اس اذان کے بعد لوگوں کا سارے معاملات چھوڑ کر جمعہ کے لئے حاضر ہونا مشکل ہو جائے گا، اور ان کے آنے تک خطبہ کے چھوٹن جائے گا، نیز نماز سے قبل کی جو سنتیں وہ بھی چھوٹ جائیں گی، اس لئے علماء نے لکھا ہے صحیح قول یہی ہے کہ آیت میں پہلی اذان مراد ہے، اس کے سنتے ہی سارے معاملات کو چھوڑ کر جمعہ کی تیاری کرنا ضروری ہو گا۔ (البحر الرائق: باب صلاة الجمعة: ۱۲۸/۲)

اذان اول کی ابتداء کب اور کیوں ہوئی؟

رہی یہ بات کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اس اذان کی ابتداء کیوں کی؟ اور کب کی؟ کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ کیونکہ حضور سے ﷺ یہ ثابت نہیں ہے، جیسا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں؟ اس کی مختصر تفصیل اور جواب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانے میں دیکھا کہ منبر کے سامنے جو اذان دی جا رہی ہے اس سے اعلان حاصل نہیں ہو رہا ہے، آبادی کافی بڑھ گئی ہے، لوگوں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، اور لوگوں کا مسجد آناد شوار ہو رہا ہے تو حکم دیا کہ باہر مقام زوراء پر اذان دی جائے تاکہ لوگوں تک آواز پہنچ سکے، اور ان کو وقت پر نماز اور خطبہ کے لئے آنے میں آسانی ہو، اس پس منظر میں دو اذانیں مشروع ہوئیں۔ (صحیح بخاری: کتاب الجمعة: ۹۱۲ و روح المعانی: ۲۱/۳) ایک تو منبر پر جو خطبہ سے پہلے دی جاتی ہے اور ایک لوگوں کے اعلان کے

لئے، اس لئے اذان جو لوگوں کے اعلان کے لئے ہو اس کو سنتے ہی نماز کی تیار کرنا چاہیے، اس کے بعد کسی اور کام کا کرنا جائز نہیں ہے۔

اذانِ اول پر اجماعِ صحابہ ہے:

چونکہ سارے صحابہ کی موجودگی میں اس کی ابتداء ہوئی، اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا، اس لئے اس پر صحابہ کا اجماع بھی ہے، اور اجماعِ ججتِ شرعیہ ہے، اور پھر یہ اجماعِ صحابہ کا اجماع ہے، اس لئے اس اذان کی مشروعیت میں اختلاف کا کوئی سوال ہی نہیں۔

تعددِ اذان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے ثابت ہے:

دوسری دلیل یہ ہے:

”عَنْ شَعْلَبَةَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ الْقُرْطَبِيِّ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُمْ كَانُوا فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يُصَلُّونَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَخْرُجَ عُمَرٌ فَإِذَا خَرَجَ عُمَرٌ وَجَلَسَ عَلَى الْمِسْبَرِ وَأَذْنَ الْمُؤْذِنُونَ قَالَ . . . فَإِذَا سَكَتَ الْمُؤْذِنُونَ وَقَامَ عُمَرٌ يَخْطُبُ أَنْصَثَنَا فَلَمْ يَتَكَلَّمْ مِنَّا أَحَدٌ“ (مؤطمالک: النداء للصلوة، ۳۲۳)

حضرت شعبہ ابن ابی مالک قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جمعہ کے دن نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر نکلتے، پھر جب حضرت عمر نکلتے تو منبر پر بیٹھ جاتے اور موذین اذان دیتے، شعبہ کہتے ہیں کہ پھر جب موذین خاموش ہو جاتے اور حضرت عمر خطبہ دینے کے لئے کھڑے ہوتے تو ہم بھی خاموش ہو جاتے اور ہم میں سے کوئی بات نہ کرتا۔

حضرت انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے پیش نظر کہا ہے کہ تعددِ اذان خود حضرت عمر کے زمانے سے بھی ثابت ہے۔ (انوار الباری: ۷/۱۰۹) اس لئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اگر اس کی باضابطہ ابتداء کی تو یہ کوئی نئی بات نہیں۔

تعددِ اذان کی اصل حضور ﷺ بھی سے ثابت ہے:

بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت بلاں رضی اللہ عنہ کے اذان دینے کے بعد حضرت عبد اللہ بن زید رضی اللہ عنہ کو بھی تلقی کا حکم دیتے تھے ان کی آواز بڑی ہونے کی وجہ سے۔ (الجز المصالک: کتاب الصلاۃ: ۱۸۷)

جب خود آپ ﷺ سے اس کی اصل ثابت ہے اور جس مقصد کے پیش نظر آپ ﷺ حضرت عبد اللہ بن زید کو تلقی کا حکم دیتے تھے، اس مقصد کے پیش نظر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے باضابطہ اذان اول کی ابتداء کی تو کیسے یہ بدعت ہو گی؟

اذان اول خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سنت ہے:

اس کے علاوہ یہ خلیفہ راشد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سنت ہے، اور خلفاء کی سنتوں کے بارے میں نبی ﷺ نے فرمایا:

”عَلَيْكُمْ بِشَرِيكَيْ وَسُنْتَةِ الْخُلُفَاءِ الْمَهْدِيَيْنَ الرَّاشِدِيَيْنَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُّوْ اعْلَمَهَا بِالنَّوْاجِزِ“ (سنن

ابی داؤد: کتاب السنۃ: ۲۶۰۹)

تم میری اور ہدایت یافہ خلفاء راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لو، اور اس کو تحام لو، اور ڈاڑھوں کے ذریعہ اس کو مضبوط پکڑ لو۔

اس حدیث کی رو سے اس اذان کا اضافہ خلفاء راشدین کی سنت میں بھی شامل ہے، جس کو مضبوطی سے لازم پکڑنے کا حکم ہے، اس لئے یہ بدعت نہیں بلکہ اجماع صحابہ اور خلیفہ راشد کی سنت ہے، اس پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔ یہ چند باتیں تو نداء صلاۃ یعنی اذان سے متعلق تھیں، اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں:

جمعہ کیلئے وقار اور اطمینان سے جائیں:

”فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ“ یعنی اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، سعی کے معنی دوڑنے کے آتے ہیں، لیکن یہاں حقیقت میں دوڑنا مراد نہیں ہے، بلکہ وقار اور اطمینان کے ساتھ چلنا مراد ہے، کیونکہ ایک حدیث میں نبی ﷺ نے مسجد دوڑ کر آنے سے منع کیا ہے، اور وقار اور اطمینان کے ساتھ آنے کا حکم دیا۔ (روح المعانی: ۱۹) تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں کیوں دوڑنے کا حکم دیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جیسا دوڑنے والا کسی دوسرے امر کی طرف توجہ نہیں دیتا، جو مقصود ہوتا ہے اس کا ذہن اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ایسے ہی جب جمعہ کے لئے اذان

دی جائے تو ہم اور ہمارا ذہن بھی جمہ کی تیاری کی طرف مرکوز ہونا چاہیئے، کسی اور طرف دھیان نہیں رکھنا چاہیئے، اس کو بتانے کے لئے اللہ پاک نے یہ اسلوب اختیار فرمایا۔
ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟

غرض اللہ پاک نے ذکر اللہ کی طرف دوڑنے کا حکم دیا، اور یہاں ذکر اللہ سے مراد نماز اور خطبہ ہے، آیت کا ظاہر تو یہ بتارہا ہے کہ اس سے نماز مراد ہے، لیکن خطبہ بھی چونکہ ذکر اللہ ہے، اور پھر نماز جمہ کے شرائط میں داخل ہے، اس لئے ذکر اللہ سے نماز اور خطبہ دونوں کا مجموعہ مراد لینا بہتر ہے۔ (روح المعانی: ۹۱)

اذان سننے کے بعد شریعت کا حکم:

اس کے بعد دوسرا حکم اللہ پاک یہ بیان فرمار ہے ہیں:
”وَذَرُوا الْبَيْعَ“ اذان جمہ کو سنتے ہی بیع کو چھوڑ دو، لیکن یہاں صرف بیع مراد نہیں ہے، بلکہ پیچنا، خریدنا اور ہر ایسا فعل اس سے مراد ہے جو جمہ کی تیاری کے خلاف ہو، اور جس کی وجہ سے جمہ کی تیاری میں خلل واقع ہوتا ہو۔ (تفسیر قرطبی: ۱۸/۸۶)

آیت میں صرف بیع چھوڑنے کا حکم کیوں؟

جب اس آیت میں ہر اس عمل کو چھوڑنا مراد ہے جو جمہ کی تیاری کے خلاف ہو اور جس کی وجہ سے جمہ کی تیاری میں خلل واقع ہو تو اللہ پاک نے اذان سننے ہی بالخصوص بیع کو چھوڑنے کا کیوں حکم دیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بیع یہ ایسا فعل ہے جو آدمی کو ذکر اللہ سے بہت زیادہ غافل بنادیتا ہے، اس میں لگنے کے بعد وہ نماز اور دوسری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اس لئے بطور خاص اللہ پاک نے اس فعل کا ذکر کیا، نیز یہ لوگوں کو مسجد اور دربار الہی میں بلانے کا آسان طریقہ بھی ہے، کیونکہ بیچنے والے جب پیچنا چھوڑ دیں گے، اور اپنی دکانیں بند کر دیں گے تو اس کی وجہ سے خریدار خود بخود رک جائیں گے، ہوٹل والے جب اپنی ہوٹلیں بند کر دیں گے تو لوگ اس وقت ہوٹل آنا چھوڑ دیں گے، سواری لے جانے والے سواری بند کر دیں گے تو سوار خود

بخود رک جائیں گے، پڑول والے پڑول پمپ بند کر دیں گے تو پڑول لینے والے خود بخود رک جائیں گے، چونکہ خریدنے والوں کی تعداد بہت ہوتی ہے ان سب کے روکنے کا انتظام آسان نہیں ہوتا، اس لئے جب فروخت کرنے والے اپنی دکانیں ہی بند کر دیں تو باقی سب خریدار خود بخود رک جائیں گے کہ یہ وقت دکانیں بند ہو جاتی ہیں، سواریاں چلتی نہیں ہیں، پڑول پمپ بند ہو جاتے ہیں، اس لئے بازار جانے کا کوئی فائدہ نہیں، نہ سواری ملے گی، نہ پڑول ڈلو اکر جاسکیں گے، نہ کھانے پینے کا سامان ملے گا، نہ کوئی اور چیز بازار سے خرید سکیں گے، اس طرح وہ بازار جانے سے رک جائیں گے اور جمعہ کی تیاری کر کے مسجد میں وقت پر آسانی سے آسکیں گے۔ اس لئے اللہ پاک نے بالخصوص بیع چھوڑ دینے کا حکم دیا ہے۔

تجار کے لئے ایک رخصت:

ایک مسئلہ اس موقع پر ہے جن میں رکھیں کہ اگر کاروبار کرنے والے دو آدمی ہوں اور جمعہ متعدد جگہ ہوتا ہو تو ایک آدمی دکان پر بیٹھ جائے اور ضرورت مندوں کو بیچے اور ایک جمعہ پڑھنے کے لئے جائے، اور دوسرا آدمی اس کے آنے تک انتظار میں بیٹھا رہے، جب وہ آجائے تو یہ نماز کے لئے چلا جائے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن بہتر نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ سب ہی دکان بند کر کے جائیں، اور نماز کے بعد کھول لیں، رزق دینے والا تو اللہ ہے، گھنٹہ دو گھنٹہ میں ایسا کو نسا خسارہ ہوتا ہے، بلکہ حکم رب کو مانتے میں ہی فائدہ اور برکت ہوتی ہے۔ نیز اس سے جمعہ کی اجتماعی شان میں بھی کمی محسوس ہوتی ہے، اگر غیر مسلم دکان کھلی رکھیں تو ٹھیک ہے وہ ان احکام کے مکف نہیں ہیں، لیکن مسلمان کے لئے کھلار کھنا جائز نہیں ہے۔ چاہے اس کے پاس غیر مسلم گاہک آئیں یا مسلمان، کیونکہ وہ خود بیع کر رہا ہے۔ اور آیت مبارکہ کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔

غرض جمعہ کی اذان سننے کے بعد معاملات کرنا حرام ہے، حرام صرف اس کا نام نہیں ہے کہ سود یا رشتہ کا معاملہ کرے، یا کسی کامال غصب کر لے، بلکہ اس وقت بیع کرنا بھی حرام ہے، یہ بھی حرام کی شکلوں میں سے ایک شکل ہے۔ اس سے بھی پچنا چاہیے۔

امت محمدیہ کی ایک خصوصیت:

اس حکم خداوندی میں ہمارے لئے بہت آسانی بھی ہے، پچھلی امتوں میں یہ حکم سخت تھا، ان کے مذہب میں یہ تھا کہ جو دن عبادت کیلئے مقرر ہوتا اس دن ان کے لئے بیع وغیرہ جائز نہ تھی، ان کے لئے کاروبار پورے دن منوع ہوتا تھا، لیکن اللہ پاک نے ہم کو یہ سہولت بھی دی ہے کہ جو خاص وقت عبادت کا متعین ہے اس وقت تو بیع وغیرہ منوع ہے، لیکن اس کے بعد نہیں، بلکہ اس کے بعد بیع و شراء اور اللہ کے فضل کو تلاش کرنا جائز بلکہ اس کا حکم ہے، جس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

عارضی نفع نہ دیکھیں:

اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں: ”ذِلِّكُمْ خَيْرٌ لِّكُمْ لَّا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“

”یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم کچھ سمجھ رکھتے ہو“

یعنی بیع چھوڑ کر جمعہ ادا کرنے کیلئے چلے جانا تمہارے لئے بہتر ہے، لیکن تم تو اپنی دکانوں میں لگے رہتے ہو، دنیا کا عارضی اور فانی نفع وہ بھی ایک گھنٹے کا تمہارے پیش نظر ہے، جب کہ آخرت کا نفع اور اجر باقی ہے، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور وہ بھی اتنا عظیم الشان ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، ذرا سی دیر میں دنیا کا نفع اٹھانے کے لئے آخرت کا اتنا بڑا خسارہ سوائے بے وقوف کے اور کوئی نہیں کر سکتا، اس لئے اللہ پاک فرمادی ہے ہیں کہ ذرا اس میں غور کرو، یہ تمہارے لئے بہتر ہے، اور تم فانی دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، جیسے اس میں آخرت کا فائدہ ہے ایسے ہی اس میں ہمارے لئے دنیا کا بھی بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کی وجہ سے تنظیم امت اور اجتماعیت آشکار ہوتی ہے، اور غیر وہ پر اس کا بہترین اثر اور رعب پڑتا ہے، اور اسلام کی شان ظاہر ہوتی ہے۔

نماز کے بعد فضل الہی تلاش کریں:

اس کے بعد تیسرا حکم اللہ پاک ذکر فرمادی ہے ہیں:

”فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَأَنْتُشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَإِذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا“

”لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ“

”پھر جب نماز (جمعہ) پوری ہو چکے تو (اس وقت تم کو اجازت ہے کہ) تم زمین پر چلو پھر و اور خدا کی روزی تلاش کرو۔ اور (اس میں بھی) اللہ کو بکثرت یاد کرتے رہو، تاکہ تم کو فلاح ہو“ سابقہ آیات میں اذان جمعہ کے بعد بیع و شراء و غیرہ کے تمام دنیوی امور کو منوع کر دیا گیا تھا، اس آیت میں اس کی اجازت دے دی گئی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد تجارت، کاروبار اور رزق حاصل کرنے کے لئے نکل سکتے ہیں۔

فضل الہی سے کیا مراد ہے؟

چنانچہ فرماتے ہیں کہ نماز کے بعد اللہ کا فضل تلاش کرو، فضل سے کیا مراد ہے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فضل کو تلاش کرنے سے علم کا حاصل کرنا مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ مریض کی عیادت کرنا مراد ہے، بعض کہتے ہیں کہ جنازہ میں حاضر ہونا مراد ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ اپنے بھائی سے ملاقات کرنا مراد ہے، لیکن عام طور پر مفسرین نے فضل سے روزی مراد لی ہے۔ جیسا کہ حضرت عراک بن مالک رحمۃ اللہ علیہ جب نماز جمعہ سے فارغ ہو کر باہر آتے تو مسجد کے دروازہ پر کھڑے ہو کر یہ دعا کرتے تھے:

”اللَّهُمَّ إِنِّي أَجَبْتُ دَعْوَتَكَ وَصَلَيْتُ فِرِيضَتَكَ وَأَنْتَشَرْتُ كَمَا أَمْرَتَنِي فَأُرْزُقْنِي مِنْ فَضْلِكَ وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ“ (تفسیر ابن کثیر: ۱۲۳/۸)

”اے اللہ میں نے تیری دعوت کو قبول کیا، اور تیرے فریضہ کو ادا کیا اور میں رزق کی تلاش میں نکل پڑا جیسا کہ تو نے حکم دیا ہے بس تو اپنے فضل سے مجھے رزق عطا فرما اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے“

جمعہ کے بعد تجارت میں برکت:

اور بعض سلف صالحین سے منقول ہے کہ جو شخص نماز جمعہ کے بعد تجارت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے ستر مرتبہ برکتیں نازل فرماتے ہیں۔ (تفسیر ابن کثیر: ۱۲۳/۸)

اور بعض بزرگوں سے یہ بھی منقول ہے، وہ کہتے تھے کہ آیت مبارکہ پر عمل کرنے کے لئے بہتر یہ ہے کہ نماز جمعہ کے بعد آدمی تھوڑی دیر بازار میں نکلے اور بھاؤ تاؤ کرے، اگرچہ

نہ خریدے لیکن کچھ بھاؤ والی شکل اختیار کر لے، (روح المعانی: ۱۲/۲۱) تاکہ اس حکم خداوندی پر عمل کرنے کی وجہ سے برکت حاصل ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو کرنا ہی ہے، بلکہ اس میں اباحت بیان کی گئی ہے کہ اب یہ چیز تمہارے لئے مباح ہے۔ اگر رزق حاصل کرنے کے لئے جانا چاہو تو تم جاسکتے ہو، اس کی اجازت ہے، اگر نہیں جانا چاہتے ہو تو مت جاؤ، مسجد میں بیٹھ کر عبادت کرو۔ (روح المعانی: ۱۲/۲۱ اور تفسیر قرطیبی: ۹۶/۱۸)

کیا ہر حکم پورا کرنا ضروری ہے؟

یہاں ایک علمی نکتہ ذہن میں رکھیں کہ ”فَانْتَشِرُوا“ امر یعنی حکم کا صیغہ ہے اور ”وَابْتَغُوا“ بھی حکم کا صیغہ ہے، اور قرآن و حدیث میں جو امر یعنی حکم کا صیغہ ہوتا ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، ایسے ہی یہاں مسجد سے نکل کر رزق تلاش کرنے کا حکم ہے، لیکن یہ حکم ضروری نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ ہر حکم کا کرنا ضروری نہیں ہوتا، کچھ احکام ایسے ہوتے ہیں بظاہر ان کو کرنے کا حکم ہوتا ہے لیکن ان کو کرنا ضروری نہیں ہوتا، علماء اس کی باریکی کو جانتے ہیں کہ کس حکم کو کرنا ضروری ہوتا ہے اور کس کو نہیں؟ ایسے ہی حج کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا: ”فِإِذَا حَلَّتُمْ فَاصْطَادُوا“ (المائدہ: ۲) ”اور جس وقت تم احرام سے باہر آجائو تو شکار کیا کرو“

اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر آدمی احرام کھولتے ہی شکار کرے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب شکار تمہارے لئے حلال ہے، جو پابندی تم پر احرام کی وجہ سے لگی ہوئی تھی اب وہ ختم کر دی گئی، ایسے ہی جمعہ کے بارے میں یہ حکم ہے کہ جمعہ کی اذان کی وجہ سے جو پابندی تم پر عائد کر دی گئی تھی جمعہ کی نماز کے ختم ہو جانے کے بعد وہ پابندی اٹھادی گئی ہے، اب تمہیں اجازت ہے کہ باہر جا کر تجارت کرنا چاہو تو تجارت کرو اور اگر مسجد میں عبادت کرنا چاہو تو عبادت کرو۔

دورانِ تجارت بھی اللہ کو نہ بھولیں:

اس کے بعد فرماتے ہیں: ”وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا أَعْلَمُ تَفْلِحُونَ“

یعنی نماز جمہ سے فارغ ہو کر کسب معاش تجارت وغیرہ میں لگو، مگر کفار کی طرح خدا سے غافل ہو کرنہ لگو، عین خرید و فروخت، مزدوری اور ملازمت کے وقت بھی اللہ کی یاد جاری رکھو، اس فریضہ کو ادا کرنے سے اللہ پاک حق ادا نہیں ہوتا، بلکہ ہر جگہ اس کا حق یاد رکھنا ضروری ہے، اس کے حدود کو یاد رکھنا ضروری ہے، اس کی ذات کو یاد رکھنا ضروری ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ خصوصیت تھی کہ تجارت، ملازمت وغیرہ میں بھی وہ اللہ کو نہیں بھولتے تھے، اور یہ بات قرآن مجید میں اللہ پاک نے بیان فرمائی:

”رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَيْعَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ“ (النور: ٢٧)

(پچھے لوگ ایسے ہیں) جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ فروخت۔

ذکر اللہ کی تین صورتیں:

اس آیت میں اللہ پاک اسی کا حکم دے رہے ہیں کہ تجارت میں، ملازمت میں یا کسی بھی کام میں اللہ کو نہ بھولنا چاہیے، ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے، اس کے ذکر کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ جس کام کو انجام دیا جا رہا ہو یا جو ملازمت اور تجارت کی جا رہی ہے اس میں اللہ کے حکم کو یاد رکھا جائے کہ اس میں اللہ پاک کا کیا حکم ہے؟ نبی ﷺ کا طریقہ اس میں کیا ہے؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس تجارت اور ملازمت کے دوران جب بھی نماز کا وقت آجائے تو اس کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑیں، اور اس فریضہ کو انجام دیں، تیسرا مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان سے اللہ کی تعریف، تحمید، تکبیر اور تسبیح بیان کرتے رہیں۔ (تفسیر قرطبی: ٢٥٧، ١٢)

بازار میں کلمہ توحید پڑھنے کی فضیلت:

ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”مَنْ دَخَلَ شَوَّاقَ مِنَ الْأَشْوَاقِ قَقَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَقِيدَةُ، كُتِبَتْ لَهُ أَلْفُ أَلْفٍ حَسَنَةٍ، وَمُحِيَ عَنْهُ أَلْفُ أَلْفٍ سَيِّئَةٍ“ (تفسیر ابن کثیر: ٨/ ١٢٣)

جو کسی بازار میں داخل ہو اور یہ کلمہ پڑھے ”نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور اسی کے لئے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اس کے لئے ایک لاکھ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ایک لاکھ گناہ معاف کئے جاتے ہیں۔“

بازار میں ذکر اللہ کی یہ فضیلت بیان کی گئی ہے، اس کلمہ کی پڑھنے کی اتنی اہمیت بیان کی گئی ہے، ذکر کی ان تین صورتوں میں سے پہلی اور دوسری صورت اختیار کرنا ضروری ہے، تیسرا کی اگر سہولت ہو تو اچھی بات ہے، اور اگر اس کا موقع نہ ہو تو ان دونوں کا دھیان ضرور رکھے۔ کیونکہ بعض کام ہی ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں آدمی کو زبان ہی استعمال کرنا پڑتا ہے، کوئی ٹیلفون آپریٹر ہے، یا کوئی اس طرح کی نوکری ہے کہ اس میں زبان ہی کو استعمال کرنا پڑتا ہے تو اس وقت زبان ہی کو صحیح استعمال کرے، یہی اس کا ذکر ہے، اگر کوئی امر و دوala ہے اور صحیح سے شام تک امر و دلینے کی رٹ لگا رہا ہے کہ ”امر و دلے لو“، ”امر و دلے لو“ تو اس کی یہ پکار غفلت نہیں ہے، یہ اس کیلئے منع نہیں ہے، لیکن جب خرید و فروخت کرے تو اس وقت اللہ کے احکام کو یاد رکھے۔ اس آیت میں اسی کی تعلیم ہے۔ کیونکہ اللہ کے احکام پر عمل کرنے ہی میں ہمارے لئے کامیابی رکھی گئی۔

صحابہ کی لغزش اور اللہ تعالیٰ کی تنبیہ:

اس کے بعد فرماتے ہیں:

”وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهُوا النَّفْصُو إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهِ هُوَ وَمِنْ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ“

”اور (بعض لوگوں کا یہ حال ہے کہ) وہ لوگ جب کسی تجارت یا مشغولی کی چیز کو دیکھتے ہیں تو وہ اس کی طرف دوڑنے کیلئے بکھر جاتے ہیں اور آپ کو کھڑا ہوا چھوڑ جاتے ہیں، آپ فرمادیجئے کہ جو چیز (از قسم ثواب و قرب) خدا کے پاس ہے وہ ایسے مشغله اور تجارت سے بدر جہا بہتر ہے۔ اور اللہ سب سے اچھا روزی پہنچانے والا ہے“

اس آیت میں اللہ پاک نے بعض صحابہؐ کرام پر تنقیہ فرمائی ہے، اس کا واقعہ یہ تھا کہ پہلے نبی کریم ﷺ خطبہ جمعہ نماز جمعہ کے بعد دیا کرتے تھے، جیسا کہ عیدین میں آج تک یہی معمول ہے، ایک جمعہ یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ ﷺ نماز جمعہ سے فارغ ہو کر خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک ایک تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ کے بازار میں پہنچا اور طبلہ وغیرہ کے ذریعہ شور کرنے لگا، یہ تجارتی قافلہ دحیہ بن خلیفہ کلبی کا تھا، جو ملک شام سے آیا تھا، اور یہ وہ زمانہ تھا جبکہ مدینہ میں ضروری اشیاء کی کمی تھی، (تفسیر طبری: ۳۸۷، ۱۲۳) اور نبی ﷺ خطبہ دے رہے تھے، اور سب اس وقت نمازِ جمعہ سے فارغ ہو چکے تھے، اس تجارتی قافلہ کو دیکھ کر بہت سے صحابہ بازار چلے گئے اور آپ ﷺ کے ساتھ تھوڑے سے صحابہ رہ گئے، مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کی تعداد بارہ تھی، اور بعض روایات میں ان کی تعداد کم و بیش بھی مروی ہے۔ (تفسیر قرطبی: ۹۷، ۱۲۸)

اگر نبی تھنا ہو جاتے تو مدینہ پر عذاب آ جاتا:

جب تقریباً صحابہ چلے گئے اور نبی ﷺ اور چند صحابہ رہ گئے تو رسول اللہ ﷺ نے اس موقع پر فرمایا: ”وَالَّذِي نُفْسِي بِيَدِهِ، لَوْ تَتَابَعْثُمْ حَتَّى لَمْ يَقِنَّ مِنْكُمْ أَحَدٌ لَسَأَلُ بِكُمُ الْوَادِيَ نَارًا“ (تفسیر ابن کثیر: ۱۲۳/۸)

”اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر تم سب کے سب چلے جاتے تو مدینہ کی ساری وادی (عذاب کی) آگ سے بھر جاتی“

لغزش کے اسباب:

یہاں سوال ہوتا ہے کہ صحابہؐ کرام اللہ کے نبی کو چھوڑ کر کیسے چلے گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک تو نمازِ فرض ادا ہو چکی تھی، اور خطبہ کے متعلق بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ بھی فرض کا جز ہے اور ضروری ہے، (تفسیر قرطبی: ۹۷، ۱۲۸) نیز وہ وقت تنگی اور قحط سالی کا تھا، اور پھر لوگوں کا اس قافلہ پر متوجہ ہونے اور چیزوں کے خریدنے سے ایک بشری خیال اپنی اور اپنے اہل و عیال کی ضرورت کے پوری کرنے کا ان کے ذہن میں آیا، اس لئے اس تقاضے کی تکمیل کے لئے وہ نکلے،

لیکن ظاہر ہے کہ اس میں نبی ﷺ کو چھوڑ دینے اور بظاہر دین کے مقابلے میں اور رسول اللہ ﷺ کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینے کی لغزش ان سے صادر ہوئی، اس لئے اللہ پاک نے بطور تنبیہ یہ آیت نازل فرمائی، اور نبی ﷺ نے وعید سنائی کہ اگر سب کے سب چلے جاتے تو اللہ کا عذاب آجاتا، اس کے بعد نبی ﷺ نے خطبہ دینے میں اپنا طرز بدل دیا، اور پہلے خطبہ دینے لگے اور بعد میں نماز پڑھانے لگے۔ (تفسیر قرطبی: ۱۸/۹۷، و تفسیر ابن کثیر: ۸/۱۲۳)

غرض اللہ پاک نے آیت مذکورہ میں رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا کہ آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس دنیا کی تجارت اور ملازمت سے بہتر ہے، کیونکہ تھوڑی دیر اپنے کو عبادت میں مشغول رکھنے سے اور تھوڑی دیر تجارت اور ملازمت ترک کر دینے سے آخرت کا غیر متناہی اور باقی رہنے والا ثواب ملتا ہے، یہ تجارت اور یہ ملازمت تو ختم ہو جائے گی، اس کا نفع عارضی ہے، جو چند دن میں ختم ہو جائے گا، لیکن آخرت کا ثواب ختم ہونے والا نہیں ہے، وہ یقینی ہے، اور یہ غیر یقینی ہے، وہ دائمی ہے، اور یہ فانی ہے، ظاہر ہے کہ دائمی اور یقینی اجر بہتر ہے، اور اس کے حصول کی فکر کرنا سعادت مندی اور عقل مندی کی بات ہے، اس لئے فرمایا کہ آخرت کا اجر اور بدله بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے، اور یہ بات بھی بعید نہیں ہے کہ جیسے آخرت میں اس کا اجر ملنے والا ہے، ایسے ہی دنیا میں بھی اس کا اجر ملنے، اور دنیا میں بھی اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ یہ چند باتیں اس رکوع کی تفسیر سے متعلق عرض کی گئیں، اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)



نماز جمعہ اور خطبہ سے متعلق

چند غلط فہمیوں کا ازالہ

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نواں الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تحریق: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بمقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، منی ۲۰۱۲ و اگسٹ ۲۰۰۹
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

نمازِ جمعہ اور خطبہ سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ

(حصہ اول)

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ امَّا بَعْدُ۔

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ

ذِلِّكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (الجمعة: ۹)

”اے ایمان والوجب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لئے اذان کی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد (یعنی نماز و خطبہ) کی طرف (فوراً) چل پڑا کرو اور خرید و فروخت (اور اسی طرح دوسرے مشاغل جو چلنے سے منع ہوں) چھوڑ دیا کرو۔ یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھو ہو (کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بیع وغیرہ کافی نہیں)“

برادرانِ اسلام!

یومِ جمعہ کے چند فضائل:

اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یومِ جمعہ سے متعلق ایک حکم ارشاد فرمایا ہے، اس دن کی اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے، اور احادیث میں نبی ﷺ نے اس کی بہت فضیلتوں بیان فرمائی ہیں، ایک حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا:

(۱) ”خَيْرٌ يَوْمٌ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ“ (سنن ابی داؤد: باب فضل یوم الجمعة والیلة الجمعة، ۱۰۳۶) ”بہترین دن جس میں سورج طلوع ہو وہ جمعہ کا دن ہے۔

اور ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا کہ جو لوگ حج کونہ جا پار ہے ہوں تو یومِ جمعہ ان کے لئے یوم حج ہے۔ (کنز العمال: الباب السادس: فی صلاۃ الجمعة و مَا يتعلّق بها، ۲۱۰۳۱)

ایک ہفتہ کے گناہوں کی بخشش:

(۲) حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مردی ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”لَا يَغْتَسِلُ رَجُلٌ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَطْهَرُ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهُورٍ وَيَدْهُنُ مِنْ دُهْنِهِ أَوْ يَمْسُّ مِنْ طِيبٍ بَيْتَهُ ثُمَّ يَرْوُحُ فَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ اثْنَيْنِ ثُمَّ يُصْلِي مَا كُتِبَ لَهُ ثُمَّ يُنْصِتُ إِذَا تَكَلَّمَ الْإِمَامُ إِلَّا عُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى“ (صحیح بخاری: کتاب الجمعة: ۸۲۳)

”جو آدمی جمعہ کے دن غسل کرے، اور اپنی استطاعت کے مطابق پاکی حاصل کرے، تیل اور خوبیوں کا نگارے، اس کے بعد جمعہ کے لئے گھر سے نکلے اور دو بیٹھنے والوں کے درمیان تفریق نہ کرے یعنی زبردستی نہ گھسے، پھر نماز پڑھے اور جب امام خطبہ دے تو خاموش رہے، تو یقیناً اس کے اگلے جمعہ تک کے سارے (صغریہ) گناہ بخش دئے جائیں گے“

ہر قدم پر ایک سال کا جر اور رات بھر عبادت کا ثواب:

(۳) ایک روایت حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ سے مردی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ غَسَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاعْتَسَلَ وَبَكَرَ وَابْتَكَرَ وَمَشَى وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَانَ مِنَ الْأَمَامِ فَاسْتَمَعَ وَلَمْ يَلْعُجْ كَانَ لَهُ لِكُلِّ خُطُوٰةٍ عَمِلُ سَنَةً أَجْزُ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا“ (سنن ترمذی: باب ما جاء فی فضل غسل يوم الجمعة، ۲۹۸)

”جو شخص جمعہ کے دن خود بھی غسل کرے اور (اپنی بیوی کو بھی) غسل کرائے (یعنی اس سے حاجت پوری کرے) اور صحیح سویرے اٹھے اور جلد مسجد جائے، اور پیدل چل کر مسجد جائے سوارنہ ہو، اور غور سے خطبہ سنے اور لغوح رکت نہ کرے تو اس کو ہر ہر قدم کے بدلہ ایک سال کا روزہ رکھنے اور راتوں کو جانکے کا ثواب دیا جائے گا۔

غسل جمعہ گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے کھینچ لیتا ہے:

(۴) حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مردی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ الْغُشْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَيَغْشِلُ الْخَطَايَا مِنْ أُصُولِ الشَّعْرِ اسْتِلَالًا“ (کنز العمال: کتاب الصلاۃ: الفصل الخامس: فی غسلیل يوم الجمعة، ۲۱۲۲۶)

”جمعہ کے دن غسل کرنا گناہوں کو بالوں کی جڑوں سے اچھی طرح کھینچ لیتا ہے۔“
جمعہ کی ہر ساعت میں جہنم سے چھ سو بندے آزاد کئے جاتے ہیں:

(۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعُ وَعِشْرُونَ سَاعَةً، لَيَسْ فِيهَا سَاعَةٌ إِلَّا وَلِلَّهِ فِيهَا سُتُّ مِائَةٍ عَتِيقٍ مِنَ النَّارِ“ (کنز العمال: کتاب الصلاۃ: الباب السادس: فی صلاۃ الجمعة و مایتعلقاتها، ۲۰۷۹)

نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”جمعہ کی رات اور دن میں ۲۲ گھنٹے ہوتے ہیں ان میں سے کوئی گھنٹہ ایسا نہیں جاتا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھ سو جہنم کے مستحق لوگ جہنم سے آزاد نہ کئے جاتے ہوں“

جمعہ کے دن موت کے فضائل:

ایسے ہی اس دن مرنے کی بھی بڑی فضیلتیں آئی ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ جو آدمی جمعہ کے دن مرتا ہے تو ”جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهِ طَابُ الشُّهَدَاءِ“ (کنز العمال: ۲۰۸۳) قیامت میں اس حال میں آئے گا کہ اس پر شہید کی مہر لگائی گئی ہوگی۔

”مَنْ مَاتَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ أُجِيرَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ“

جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرتا ہے تو اسے عذاب قبر سے پناہ دی جاتی ہے۔

اور ایک حدیث میں ہے ”مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ إِلَّا وَقَاهُ اللَّهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ“ (سنن الترمذی: باب ماجاء فی من مات یوم الجمعة، ۱۰۹۵) جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات مرتا ہے، اللہ پاک اسے عذاب قبر سے محفوظ فرمادیتے ہیں۔

اتنی بڑی فضیلت اور اتنی عظیم الشان بشارتوں کے باوجود اگر کوئی شخص جمعہ کا اہتمام نہ کرے، اور اپنی سستی اور غفلت کی بناء پر جمعہ چھوڑ دے تو اس سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا، اور ایسے شخص کے بارے میں نبی ﷺ نے سخت و عیدیں بیان فرمائی ہیں۔

بِلَا عَذَرٍ نَمَازِ جَمَعَةٍ چَحُورٌ نَّبَرُونَ نے پرو عیدیں:

ایک حدیث میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”سَمِعْنَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُسْلِمَ عَلَيْهِ يَقُولُ عَلَى أَعْوَادِ مِنْبَرِهِ: لَيَتَتَّهِيَنَّ أَقْوَامٌ عَنْ وَدْعِهِمُ الْجُمُعَاتِ أَوْ

لَيَخْتِمَنَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ثُمَّ لَيَكُونَنَّ مِنَ الْغَافِلِينَ“ (صحیح مسلم: کتاب الجمعة: ۲۰۳۹)

کہ ہم نے رسول ﷺ کو منبر کے تختوں پر بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنائے کہ: یا تو لوگ جمعہ چھوڑ نے سے باز آ جائیں ورنہ اللدان کے دلوں پر ضرور مہر لگادیں گے پھر وہ غافلین میں سے ہو جائیں گے۔

اور ایک روایت میں ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ: ”جو لوگ (بلا عذر) جمعہ میں شرکت سے پچھے رہ جاتے ہیں، ان کے بارے میں میرا دل یہ چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو جمعہ پڑھانے کا حکم دوں، پھر جو لوگ جمعہ سے رہ گئے ہیں ان کو ان کے گھر سمیت آگ لگادوں“

(مشکاة المصابیح: کتاب الصلاۃ: ۸۷)

بعض روایات میں مسلسل ترکِ جمعہ پر یہ وعید ہے: ”كُتِبَ مُنَافِقًا فِي كِتَابٍ لَا يُمْلِحُ وَلَا

يُبَدِّلُ“ (کنز العمال: ۲۱۱۲۳)

کہ ایسے آدمی کا نام اس کتاب میں منافق لکھ دیا جاتا ہے جس کونہ مٹایا جائے گا، اور نہ جس میں تبدیلی کی جائے گی۔

اللہ پاک ہم سب کو اس عظیم الشان نعمتِ خداوندی کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان وعیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

انہیں فضائل کی بنیاد پر آپ ﷺ نے اسے عید المومنین بھی کہا ہے۔ (المستدرک علی

الصحیحین: ۱۵۹۵)

اور بعض روایات میں فرمایا: "أَفْضَلُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ" (شعب الایمان للبیهقی: ۳۷۶۰) "ایام میں سب سے افضل اللہ کے نزدیک یوم جمعہ ہے"، حتیٰ کہ یہ یوم الاضحیٰ اور یوم الفطر سے بھی افضل ہوتا ہے۔

یوم جمعہ افضل ہے یا یوم عرفہ:

یہاں کسی کو یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ بعض روایات میں یوم عرفہ کو سب سے افضل دن قرار دیا گیا ہے، اور اس حدیث میں جمعہ کو سب سے افضل دن قرار دیا گیا، ان دونوں میں بظاہر اختلاف نظر آ رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کی اس سلسلہ میں دونائیں ہیں، بعض علماء جمعہ کو بشمول عرفہ سارے ایام سے افضل مانتے ہیں، اور بعض علماء کہتے ہیں کہ یوم عرفہ بشمول جمعہ سب سے افضل ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں روایتوں میں تطبیق دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اگر هفت کے سات دنوں کو دیکھا جائے تو ان میں یوم جمعہ سب سے افضل ہے، اور اگر تمام سال کے ایام دیکھے جائیں تو یوم عرفہ افضل ہے۔ (حاشیۃ ابن قیم: ۱۸۵/۵)

لیکن علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نفس ایام میں توسب برابر ہیں، البتہ ان میں فضیلت الگ الگ اعتبار سے اور امر زائد کی وجہ سے ہے، چنانچہ جمعہ کو جو افضل قرار دیا گیا ہے وہ اس

وجہ سے کہ اس دن نمازِ جمعہ مشروع ہے، جس میں لوگ عرفہ کی طرح جمع ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، مغفرت طلب کرتے ہیں۔ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، بندوں کے اعمال کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور احادیث میں نبی ﷺ نے اسے مسکین کا حج قرار دیا ہے، اور اس دن انسان اور سارے انبیاء، اولیاء اور صلحاء کی اصل حضرت آدم ﷺ کو پیدا کیا گیا، اور اسی دن انہیں جنت سے جہاں انہیں اللہ پاک کی معرفت اور بندگی حاصل ہوئی تھی دنیا میں بھیجا گیا، نیز اور بھی فضائل ہیں اس اعتبار سے یوم جمعہ کو افضل قرار دیا گیا۔ اور یوم عرفہ کو دوسرے اعتبارات سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ (شرح السیوطی لسن النسائی: ۱۳۷۳)

معاشرہ کی چند بے اعتدالیاں:

بہر حال یہ دن مسلمانوں کے لئے بہت خاص ہے، اس دن ایک اہم عبادت صلاۃ جمعہ ہے، شریعت نے اس کی ادائیگی کے لئے ایک خاص وقت مقرر کیا ہے اور اس وقت میں اسے ادا کرنے کا حکم دیا، نہ اس سے قبل ادا کرنے کی گنجائش دی ہے، اور نہ اس کے بعد۔ دیگر عبادات مثلًا تلاوت، تسبیح، درود شریف، استغفار اور صدقہ خیرات کے لئے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لیکن نماز کے لئے وقت مقرر ہے، ایسے ہی اس دن نماز اور خطبہ سے متعلق اور بھی احکام ہیں، لیکن کچھ لوگوں میں ان کا کوئی پاس و لحاظ نہیں ہے، ابھی چند ہفتے پہلے میں نے بعض علاقوں کا سفر کیا تو وہاں لوگوں کو کئی گمراہیوں اور غلط فہمیوں میں مبتلا دیکھا، جن کا آہستہ آہستہ رواج بڑھ رہا ہے، اور یہاں بھی وہ غلط فہمیاں دیکھنے میں آرہی ہیں، اس لئے مناسب سمجھتا ہوں کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ان کی وضاحت کی جائے۔ ان میں سے چند یہ ہیں:

(۱) دورانِ خطبہ تجیۃ المسجد ادا کرنا۔

(۲) دورانِ خطبہ باواز بلند درود شریف کا پڑھنا۔

(۳) خطبہ جمعہ عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں دینا۔

(۴) عربی خطبہ سے قبل اردو زبان میں خطبہ دینا۔

(۵) ایک ہی مسجد میں دو مرتبہ نمازِ جمعہ ادا کرنا۔

(۶) نمازِ جمعہ کا قبل از وقت ادا کرنا۔ (۷) وقت سے پہلے جمعہ کا خطبہ دینا۔

(۸) نمازِ جمعہ کی ادائیگی کے فوراً بعد نمازِ عصر ادا کرنا۔

ہمارے ہندوستان، پاکستان سے جو بھائی آئے ہوتے ہیں اولاً تو وہ مغربی لوگوں سے مرعوب ہوتے ہیں، اور دینی مسائل میں علماء کے بجائے جاہلوں پر ان کا اعتماد زیادہ ہوتا ہے۔ جس کی وجہ سے ان لوگوں کے گمراہ عمل کو صحیح سمجھتے ہوئے ان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اس پس منظر میں چند باتیں ذہن میں رکھیں۔

تحیۃ المسجد کی شرعی حیثیت:

پہلی بات یہ ہے کہ خطبہ کے دوران تحیۃ المسجد ادا کرنا کیسا ہے، اس کو سمجھنے سے قبل اس کی شرعی حیثیت کا جانا بھی ضروری ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہی بیٹھنے سے قبل دور کعت تحیۃ المسجد ادا کرنا سنت ہے، اس کی بڑی فضیلیتیں احادیث میں وارد ہوئی ہیں، اور یہ حق تعالیٰ کے عالی دربار کے شاہی آداب میں سے ہے، اس لئے دور کعت ادب اس کی بارگاہ میں پہلے ادا کرنا چاہئے۔

کیا تحیۃ المسجد بھول کر بیٹھنے سے ساقط ہو جاتی ہے؟

اگر کوئی مسجد میں داخل ہونے کے بعد دور کعت ادا کرنے بغیر بیٹھ جائے تو اب اس کا وقت گزر چکا، کیونکہ اس کا وقت یہی ہے کہ بیٹھنے سے قبل اسے پڑھا جائے، بغیر پڑھے اگر کوئی بیٹھ جائے تو وہ ساقط ہو جائے گی، اور اس کا حق ختم ہو جائے گا۔ (تبیین الحقائق: ۱۹/۲: ۱۹) لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ بیٹھنے سے اس کا حق ختم نہ ہو گا بلکہ اٹھ کر اس کو ادا کرنا چاہیے، ہاں بیٹھنے سے پہلے ہی اسے ادا کرنا افضل تھا، لیکن جب وہ ادا نہ کر سکے تو اٹھ کر ادا کر لے۔

”وَلَا تَقُوْثُ تَحْيِيَةُ الْمَسْجِدِ بِالْجُلُوْسِ بَلِ الْأَفْضَلُ أَنْ يُصَلِّيَهَا بَعْدَ أَنْ يَجْلِسَ“ (فقہ العبادات: ۱۰۳، مراقبی الفلاح: ۱۷۳)

سننوں کے ضمن میں تحریۃ المسجد کی دائرگی:

اور اگر کوئی مسجد میں داخل ہوتے ہی فرائض میں یا سنن میں مشغول ہو جائے تو فرائض اور سنن کے ساتھ اس کی تحریۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی، اور وہ دونوں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی، کیونکہ نوافل کی خصوصیت یہ ہیکہ وہ دوسری چیزوں میں شامل ہو جاتی ہیں، اور تحریۃ المسجد بھی نوافل میں سے ہے، اس لئے وہ بھی دوسری سننوں کے ضمن میں ادا ہو جائے گی، کیونکہ تحریۃ المسجد سے مقصود مسجد اور باری تعالیٰ کی تعظیم ہے اور آدمی کے مسجد میں داخل ہو کر فرائض یا سنن میں مشغول ہو جانے کی وجہ سے تعظیم پائی گئی، اس لئے تحریۃ المسجد بھی ساتھ ہی ساتھ ادا ہو جائے گی۔ (بدائع الصنائع: ۱۹۰ - ورد المختار: باب الوتر والنوافل، ۵/۱۵۹) (واضح رہے کہ اصطلاح میں نوافل اور سننوں میں فرق نہیں ہے بلکہ سننوں پر بھی نفل کا اطلاق ہوتا ہے، اس لئے تحریۃ المسجد پر بھی نفل کا اطلاق صحیح ہے) کیونکہ اختلاف کہتے ہیں کہ یہ واجبات میں سے نہیں ہے، بلکہ سنن میں سے ہے، حصولِ فضیلت کے لئے ہے، اور اسی وجہ سے اس کو مکروہ اوقات جیسے عصر یا فجر کے بعد یا جمعہ کے بعد پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، اگر یہ مستقلًا واجب ہوتی تو پھر ان اوقات میں بھی اسے پڑھنا ضروری ہوتا، معلوم ہوا کہ یہ واجب نہیں ہے، بلکہ سنت ہے۔ (البحر الرائق: کتاب الصلاۃ: ۲۶۵) اس لئے یہ سننوں کے ضمن میں بھی ادا ہو جائے گی۔

تحریۃ المسجد کا بدل:

ایک مسئلہ یہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض دفعہ آدمی ایسے موقع پر مسجد میں داخل ہوتا ہے کہ اسے تحریۃ المسجد ادا کرنے کا موقع نہیں ملتا، جماعت کھڑے ہونے کا وقت بالکل قریب ہوتا ہے، یا آدمی کو بھول ہو جاتی ہے، یا فجر یا عصر کے بعد وہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اس موقع پر کیا کرنا چاہئے، آیا ان کو چھوڑ دیا جائے، یا اس کا کوئی نعم البدل بھی ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ اس موقع پر آدمی درود شریف، تسبیح، تحمید، اور تکبیر چار مرتبہ کہہ لے، انشاء اللہ اس سے تحریۃ المسجد کا حق ادا ہو جائے گا اور اس کا ثواب مل جائے گا۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے:

”مَنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْهَا حَدِيثٍ أَوْ عَيْرِهِ يَقُولُ نَدِبًا كَلِمَاتٍ التَّسْبِيحِ الْأَرْبَعَ أَرْبَعًا“ (رد المحتار: باب الوترو والنوافل، ۱۵۹/۵)

دورانِ خطبہ تجیہۃ المسجد کا حکم:

تجیہۃ المسجد کا یہ حکم تو علماء احناف کے یہاں ہے، لیکن جو حضرات اسے واجب قرار دیتے ہیں تو ان کے نزدیک یہ نوافل کے ضمن میں ادا نہیں ہو گی، بلکہ اسے مستقلًا ادا کرنا پڑے گا، اور اسی وجہ سے وہ اس کے بھی قائل ہیں کہ تجیہۃ المسجد دورانِ خطبہ بھی ادا کی جائے گی۔ مگر ہمارے پاس جائز نہیں ہے، بلکہ ہمارے یہاں یہ گناہ ہے۔ اگر پہلے سے پڑھ رہے ہوں اور خطبہ شروع ہو جائے تو گناہ نہیں ہے، جلدی سے اس کو مکمل کر کے خطبہ سننے میں مشغول ہو جائے۔ لیکن اگر خطبہ شروع ہو چکا ہے اور کوئی تجیہۃ المسجد اس کے بعد شروع کرے تو وہ گنہگار ہو گا۔

دورانِ خطبہ خاموشی واجب ہے:

کیونکہ ہمارے یہاں خطبہ خاموشی کے ساتھ سنتا واجب ہے، آپ ﷺ نے خاموش رہنے کا بھی حکم دیا ہے اور نماز پڑھنے سے بھی منع فرمایا ہے:

”إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةً“ اور ایک روایت میں ہے: ”إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلَا صَلَاةً وَلَا كَلَامٌ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ“ (مصنف ابن ابی شیبة: ۵۲۱۳ و کنز العمال: ۲۱۲۱۲ بحوالہ المعجم للطبرانی)

جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

”إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَنْصِثُ، وَالْإِمَامُ يُخْطُبُ فَقَدْ لَغُوتَ“ (صحیح بخاری: ۹۳۲)

جب تو نے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہا کہ خاموش ہو جا، اس حال میں کہ امام خطبہ دے رہا ہو تو اس نے بے کار عمل کیا۔

”إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةً وَلَا كَلَامٌ“ (کنز العمال: ۲۱۲۱۲ بحوالہ معجم طبرانی)

جب امام خطبہ کے لئے نکل جائے تو اب نہ نماز ادا کی جائے گی، اور نہ بات کی جائے گی۔

ان احادیث میں آپ ﷺ نے نماز کی صراحتاً نفی فرمائی ہے نیز خاموش رہنے کا بھی حکم دیا ہے، اور بعض روایات میں آپ ﷺ نے بناع پر فرمایا کہ اس کا جمعہ ہی نہیں ہوگا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ کے دوران خاموش رہنا اور خطبہ سننا واجب ہے، اور دوران خطبہ نماز پڑھنا خطبہ سننے کے بھی منافی ہے اس لئے دوران خطبہ نہ نماز پڑھی جائے گی، اور نہ بات کی جائے گی۔

مخالف روایت کا جواب:

البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے ایک صحابی کو خطبہ کے دوران تجیہ المسجد ادا کرنے کا حکم دیا تھا، اور جس کی بناء پر انہمہ گرام دوران خطبہ تجیہ المسجد ادا کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں، اس کا جواب یہ ہے کہ ان صحابی کی یہ نماز خطبہ سے پہلے تھی، (تبیین الحقائق: ۱۹/۲) اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ خطبہ سے قبل آدمی سنتیں ادا کر لے، لیکن خطبہ شروع ہونے کے بعد تجیہ المسجد ادا نہ کرے، ورنہ پھر آپ ﷺ کی ان احادیث صریحہ کی مخالفت لازم آئیگی۔

دوران خطبہ درود شریف پڑھنے کا حکم:

اسی اصول کی بناء پر یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھیں کہ خطبہ کے دوران جب خطیب آیت کریمہ: ”إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا“ (الاحزاب: ۵۶) کی تلاوت کرے تو اس وقت سامعین کو جھرآ درود شریف پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، آہستہ دل ہی دل میں اسے پڑھنے کی گنجائش ہے ”لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلُّوا عَلَيْهِ بِالْجَمْهُرِ بَلْ بِالْقُلُبِ وَعَلَيْهِ الْفُتُوْى“ (رد المحتار: باب الجمعة: ۱۱۳/۶)

کیونکہ اس وقت خطیب درود شریف پڑھوانے کیلئے وہ آیت نہیں پڑھتا ہے، بلکہ دوران خطبہ جیسے دوسرے احکام سناتا ہے اسی طرح اس آیت کے ذریعہ حضور پاک ﷺ پر درود شریف اہتمام کے ساتھ پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ جیسے خطبہ میں یہ حکم سنایا جاتا ہے کہ نماز پڑھو،

زکوٰۃ دو، رشته داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، انصاف قائم کرو، احسان کرو، صلحہ رحمی کرو، فخش اور منکر سے بچو، ایسے ہی درود شریف پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ خطیب منبر پر درود شریف پڑھتا ہے تو وہ سب لوگوں کے لئے کافی ہوتا ہے، سب کا پڑھنا ضروری نہیں ہوتا، اگر پڑھنا ہو تو دل ہی دل میں پڑھا جائے، کیونکہ آپ ﷺ نے اس وقت خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، نیز جب آپ ﷺ نے اس وقت نماز پڑھنے سے منع کیا ہے تو درود شریف کی کیسے اجازت ہو گی؟
کیونکہ حدیث شریف میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ وَالْإِمَامُ عَلَى الْمُنْبِرِ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ حَتَّى يَفْرُغَ الْإِمَامُ“ (مصنف

ابن ابی شیبة: ۵۲۱۳ و کنز العمال: ۲۱۲۱۲ بحوالہ المعجم للطبرانی)

جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو نہ کوئی کلام کیا جائے اور نہ کوئی نماز پڑھی جائے۔ ظاہر ہے کہ درود شریف بھی اسی میں شامل ہے، اس لئے درود شریف بھی با آواز پڑھنا منوع ہو گا۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)



نماز جمعہ اور خطبہ سے متعلق

چند غلط فہمیوں کا ازالہ

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نواں الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تحریق: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بمقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، منی ۲۰۱۲ و اگسٹ ۲۰۰۹
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

نمازِ جمعہ اور خطبہ سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ

(حصہ دوم)

بعد از خطبہ مسنونہ:

برادرانِ اسلام!

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ!

عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں خطبہ کا حکم:

اس سے قبل جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے لوگوں میں پائی جانے والی چند غلط فہمیاں اور ان کی اصلاح سے متعلق چند باتیں عرض کی گئی تھیں، آج بھی انہیں میں سے چند باتوں کے مذاکرہ کا ارادہ ہے، ان میں سے ایک مسئلہ جمعہ کے عربی خطبہ کا ہے، جمعہ میں ایک خطبہ تو عربی خطبہ کے علاوہ اردو یا انگلش میں دیا جاتا ہے، اس میں لوگوں کی دینی رہنمائی اور ترغیب و ترہیب سے متعلق مضامین بیان کئے جاتے ہیں، جس کو ہم تقریر اور وعظ وغیرہ کہتے ہیں، دوسری خطبہ وہ ہوتا ہے جو عربی میں دیا جاتا ہے، آج کل کچھ لوگ اس خطبہ کے بارے میں یہ غلط فہمی پیدا کر رہے ہیں کہ اس کو بھی عربی کے علاوہ انگلش یا اردو یا دوسری اور زبانوں میں دیا جا سکتا ہے، عربی اس کے لئے ضروری نہیں ہے، اب اگر ہم شریعت میں اس کا ثبوت دیکھیں گے تو کہیں ہم کو خطبہ کے غیر عربی میں ہونے کا ثبوت نہیں ملے گا۔ بس نفس پرستی اور خواہشات کی اتباع ہے۔ اور پھر لوگوں کی تفہیم ہی مقصود ہو تو ساتھ میں اردو یا کسی اور زبان میں اس کو بیان بھی کیا جاتا ہے، اس کے باوجود خطبہ ہی کی زبان کو تبدیل کر دینا بالکل نامناسب ہے، اگر آپ کو

غیر عربی میں خطبہ دینا ہے تو اس کا ثبوت دیں، کیا نبی ﷺ نے اس کی اجازت دی ہے، یا کہیں ذخیرہ احادیث میں اس کا ثبوت ملتا ہے کہ خطبہ غیر عربی میں دے سکتے ہیں، قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والے اب کہاں گئے؟ دراصل ان کا مقصد اتباعِ نبوی کے مقابلے میں عقل پرستی کو ترجیح دینا ہے۔

غیر عربی میں خطبہ جائز قرار دینے والوں کی دلیل:

جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ غیر عربی میں خطبہ دے سکتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ حضور ﷺ اور صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں سب لوگ عربی جانتے تھے اس وجہ سے اُس زمانے میں خطبہ بھی عربی زبان میں دیا جاتا تھا، آج لوگ عربی سے واقف نہیں، دوسری زبان میں جانتے ہیں، اور خطبہ کا مقصود لوگوں کی رہنمائی اور دین سے واقف کروانا ہے، اور ظاہر ہے کہ عربی خطبہ دے کر یہ مقصود حاصل نہیں کیا جاسکتا، اس وجہ سے آج خطبہ عربی کے بجائے دوسری زبانوں میں بھی دیا جاسکتا ہے۔

مخالفین کی دلیل کا جواب:

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات ہی صحیح نہیں ہے کہ اس زمانے میں لوگ عربی زبان ہی جانتے تھے، اس وجہ سے خطبہ بھی عربی میں دیا جاتا تھا، کیونکہ حضور ﷺ کے پاس مختلف قبائل کے لوگ آتے تھے، اور عربی کے علاوہ دوسری زبان جاننے والے بھی آتے تھے، لیکن کبھی آپ ﷺ نے ان کی رعایت میں عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ نہیں دیا، نہ آپ یا خطبہ ان کی زبان میں دیدو، جب کہ آپ کے پاس کئی قبائل اور کئی ممالک کے لوگ آتے تھے، لیکن کسی ایک جگہ بھی آپ نے ان کی رعایت کرتے ہوئے غیر عربی میں خطبہ دینے کی بات نہیں فرمائی۔

کیا آپ ﷺ نے کبھی صحابہ کو غیر عربی میں خطبہ کا حکم دیا؟

دوسری بات یہ ہے کہ آپ ﷺ نے صحابہ کو تعلیم اور تبلیغ کے لئے دوسرے ممالک میں بھی بھیجا، بلکہ صحابہ نے دنیا کے گوشے گوشے میں اسلامی تعلیمات اور اسلامی احکامات کو پھیلایا، اور وہاں عربی کے علاوہ دوسری زبانیں راجح تھیں، لیکن آپ ﷺ نے کسی صحابی کو عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ دینے کا حکم نہیں دیا، اور پھر آپ ﷺ کے بعد صحابہ کے زمانے میں اسلام عجم میں کافی پھیل گیا، اور اہل عرب کے علاوہ عجمیوں کی تعداد بھی کم نہ تھی، بلکہ عجمی ہی زیادہ تھے، اور پھر اسلام کی تبلیغ آج کے مقابلہ میں اس موقع پر زیادہ اہم تھی، اور آج سے زیادہ ضرورت اُس وقت تھی، لیکن کسی صحابی نے عربی کے علاوہ کسی دوسری زبان میں خطبہ نہیں دیا۔ کیا اس ضرورت کا نبی ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو احساس نہیں تھا؟ ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ احساس انہیں تھا، بلکہ وہ اس کے لئے وقف تھے! اس لئے آج اس فلسفہ کو پیش کرنا، سراسر غلط فہمی، جہالت اور گمراہی ہے۔

کیا صحابہ عربی کے علاوہ دوسری زبانیں نہیں جانتے تھے؟

اگر یہ کہا جائے کہ صحابہ دوسری زبانیں نہیں جانتے تھے تو یہ بھی غلط ہے، کیونکہ کئی صحابہ رضی اللہ عنہم عربی کے علاوہ دوسری زبانیں جانتے تھے اور اس زبان میں تقریر کرتے تھے، جیسا کہ کتابوں میں ان کے بارے میں فارسی رومی جبشی زبانیں جاننے کا ذکر ملتا ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فارس کے رہنے والے تھے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ جبشه کے رہنے والے تھے، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ روم کے رہنے والے تھے، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کئی زبانیں جانتے تھے، مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ کون کون صحابہ کو کونسی کوئی زبانیں اور کتنی زبانیں آتی تھیں، یہ سارے صحابہ لوگوں سے خطاب کرتے تھے، جمعہ پڑھاتے تھے، لیکن کسی ایک صحابی نے بھی دوسری زبان کی ضرورت ہونے کے باوجود اور

دوسری زبان سے واقفیت کے باوجود کبھی عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں خطبہ نہیں دیا، جو خود اس بات کی میں دلیل ہے کہ خطبہ جمعہ عربی ہی میں دینا چاہیے، کسی اور زبان میں اس کی اجازت نہیں ہے۔

خطبہ جمعہ کی حقیقت اور مقصد:

تیسرا بات یہ ہے کہ خطبہ کا مقصد سمجھنے سے لوگ اندھیرے میں ہیں، کیونکہ خطبہ کا اصل مقصد ذکر اللہ، اللہ کی تعظیم اور اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے۔

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ جمعہ کی آیت ”فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ“ کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس سے مراد خطبہ اور نماز ہے۔

”وَالْمُرَادُ بِذِكْرِ اللَّهِ الْخُطْبَةُ وَالصَّلَاةُ“

اور مراد ذکر اللہ سے خطبہ اور نماز ہے۔ (روح المعانی: ۹/۲۱)

عام مفسرین نے ذکر اللہ سے خطبہ ہی مراد لیا ہے، اس لئے خطبہ کی حقیقت دراصل ذکر اللہ ہے، اور اسی وجہ سے خطبہ میں صرف اللہ کی تعریف اور تحمید کی جائے تو خطبہ ادا ہو جاتا ہے۔

چنانچہ فتاویٰ ہندیہ میں ہے:

وَالثَّانِي ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى كَذَافِي الْبُحْرِ الرَّأْقِ وَكَفْتُ تَحْمِيدَةً أَوْ تَهْلِيلَةً أَوْ تَسْبِيحةً كَذَافِي الْمُتُوْنِ
هذَا إِذَا كَانَ عَلَى قَصْدِ الْخُطْبَةِ“ (فتاویٰ ہندیہ: الباب السادس عشر فی صلاة الجمعة، ۱/۳۶)

”جمعہ میں دو چیزیں فرض ہیں (۱) خطبہ کا زوال کے بعد نماز سے پہلے ہونا، اگر کسی نے زوال سے پہلے یا نماز کے بعد خطبہ دیا تو جائز نہیں ہے۔ دوسرا فرض خطبہ میں ذکر اللہ کا ہونا ہے، اور اس میں صرف تحمید، تہلیل اور تسبیح کافی ہے“

خطبہ میں اگر کوئی ذکر بالکل نہ کرے، اللہ کی حمد و شنبایان نہ کرے، صرف وعظ و نصیحت کرتا رہے تو اس کا خطبہ ادانہ ہو گا۔ اس سے پتہ چلا کہ خطبہ کا مقصد ذکر اللہ ہے، وعظ و تذکیر نہیں۔

خطبہ صحتِ جمعہ کے شرائط میں سے کیوں ہے؟

جو تھی بات یہ ہے کہ خطبہ صحتِ جمعہ کے شرائط میں سے ہے، اگر خطبہ نہ دیا جائے تو جمعہ صحیح نہیں ہو گا، نیز نماز کی طرح اس کا قبل از وقت دینا بھی صحیح نہیں ہے، اگر کوئی وقت سے قبل خطبہ دیدے تو اس کا اعادہ بھی ضروری ہے۔ (البحر الرائق: ۱۵۸/۲)

اگر مقصود وعظ ہوتا تو اعادہ کی ضرورت کیوں ہے؟ اگر مقصود وعظ ہے تو وقت سے پہلے دینا کیوں ناجائز ہے؟ اگر مقصود وعظ ہے تو حاضرین اگر سور ہے ہیں تب بھی خطبہ کیوں ادا ہو جاتا ہے؟ اس سے پتہ چلا کہ خطبہ کا مقصود اصلی ذکر اللہ ہے۔

خطبہ کے اركان، شرائط، مستحبات اور مسنونات کیوں ہیں؟

پانچویں بات یہ ہے کہ ابتداء میں خطبہ کے اركان، شرائط، سنن، مستحبات، اور مکروہات وغیرہ بیان کئے گئے ہیں، جو اس بات کو بتلاتے ہیں کہ خطبہ کا مقصود اصلی وعظ و تذکیر نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصود اصلی ذکر اللہ ہے، یہ اور بات ہے کہ خطبہ میں وعظ و تذکیر ہونی چاہیے، اور آپ ﷺ اس کا لحاظ فرماتے تھے، لیکن وہ خطبہ کی حقیقت اور خطبہ کا رکن نہیں ہے۔ غرض اس تفصیل سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ خطبہ کا حقیقی مقصد ذکر اللہ ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی ثابت گیا کہ آپ ﷺ اور صحابہ کرام نے ہمیشہ خطبہ عربی ہی میں دیا ہے، کسی ملک یا کسی قبیلہ کے لوگوں کے لئے کسی اور زبان میں خطبہ دینے کا ذکر موجود نہیں، اگرچہ کہ سامعین میں بھی بھی ہوتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی دوسری زبان میں خطبہ دینا ثابت نہیں ہے، اس لئے خطبہ جمعہ صرف عربی ہی میں دینا جائز ہو گا، کسی اور زبان میں دینا جائز نہیں ہو گا۔ اور یہ کہنا کہ افہام و تفہیم اور وعظ و تذکیر اس کا مقصد ہے، اور لوگ عربی زبان نہیں جانتے، جس کی وجہ سے خطبہ کا مقصد فوت ہو رہا ہے، اس لئے خطبہ کسی اور زبان میں دینے کی گنجائش ہو گی، یہ غلط ہے۔

کیا اذان کسی دوسری زبان میں دی جاسکتی ہے؟

چھٹی بات یہ ہے کہ ان کا یہ مدعی اٹھانا بھی جہالت پر مبنی ہے، جیسے اگر کوئی کہے کہ اذان کا مقصد لوگوں کو نماز کے لئے بلانا ہے، اور لوگ اذان کا ترجمہ نہیں جانتے، اس لئے اذان کا ترجمہ

پکارا جائے، اور اسے انگریزی یا کسی اور زبان میں دیا جائے تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں تو جیسے ان کی یہ بات بے وقوفی اور جہالت پر مبنی ہے ایسے ہی خطبہ کو غیر عربی میں دینے کی بات کرنا بھی بے وقوفی اور جہالت پر مبنی ہے۔

خطبہ نماز کے مشابہ ہے:

ساتویں بات یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ خطبہ نماز ظہر کی دور کعت کے قائم مقام ہے کیونکہ ظہر میں چار رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اور جمعہ میں دور کعت پڑھی جاتی ہے اور دور کعت کے قائم مقام خطبہ ہے، اس لئے جیسے نماز عربی میں ادا کرنا ضروری ہے، ایسے ہی خطبہ بھی عربی میں دینا ضروری ہے۔ اگر خطبہ سمجھ میں نہ آنے کی وجہ سے اس کو غیر عربی میں دے سکتے ہیں تو پھر نماز میں قرآن نہ سمجھ میں آنے کی وجہ سے اور اذان کا ترجمہ نہ معلوم ہونے کی وجہ سے ان کا بھی غیر عربی میں ادا کرنے کا جواز نکلے گا۔

اسی وجہ سے خطبہ کے کچھ احکام وہ ہیں جو نماز کے مشابہ ہیں، جیسے آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا قَعَدَ الْإِمَامُ عَلَى الْمِسْبِرِ فَلَا صَلَاةٌ“ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۲۱۳ و کنز العمال: ۲۱۲ بحوثۃ المعجم للطبرانی)

جب امام منبر پر بیٹھ جائے تو کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔

ایسے ہی ایک روایت میں فرمایا:

”إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَنْصِثْ، وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ فَقَدْ لَغُوتَ“ (صحیح بخاری: ۹۳۳)

جس نے اپنے ساتھی سے جمعہ کے دن کہا کہ خاموش ہو جاؤ اور امام اس وقت خطبہ دے رہا ہو تو اس نے لغو کیا۔

ان احادیث میں آپ ﷺ نے نماز کی صراحتاً نفی فرمائی ہے اور خاموش رہنے کا حکم دیا ہے، اور بعض روایات میں بات کرنے کی بناء پر آپ نے فرمایا کہ اس کا جمعہ ہی نہیں ہو گا، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ خطبہ کے دوران خاموش رہنا واجب ہے، اور دوران خطبہ نماز پڑھنا بھی خطبہ سننے کے منافی ہے اس لئے خطبہ کے دوران نہ نماز پڑھنے کی اجازت ہے اور نہ بات

کرنے کی اجازت ہے، نہ تلاوت کی اجازت ہے، نہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اجازت ہے، اگر خطبہ کا مقصد وعظ و تذکیر اور اپیشیح ہو تو جیسا کہ آج کے لوگ سمجھ رہے ہیں تو اس کا حکم اتنا سخت کیوں ہے؟ بات کرنے کی تک اجازت نہیں ہے، کسی کو خاموش کہنے تک کی اجازت نہیں ہے۔

اس لئے میرے دوستو! ذرا اس مضمون کو سمجھیں، اگر کسی کو خطبہ کا مضمون سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو نہ آنے دو، کیونکہ اس کا مقصود ذکر اللہ ہے اور وہ ادا ہو رہا ہے، جیسے نماز سمجھ میں نہ آنے کے باوجود اس کو ادا کرنا صحیح ہے، ایسے ہی چاہے یہ بھی سمجھ میں نہ آئے لیکن یہ عبادت ہے، اس لئے اس کو ادا کرنا ہے۔

آج ہمارے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، دین کے جو کام ہیں ان میں نماز سب سے اہم فرض ہے، اب اس میں خود آدمی کو یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں پھر بھی اس کو پڑھتا ہے، اس نماز میں اس کو اعتراض نہیں ہو رہا ہے تو اس میں کیوں ہو رہا ہے؟ اس لئے چاہے ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے خطبہ کو عربی ہی میں دیا جائے گا۔ دوسری کسی اور زبان میں اس کا دینا جائز نہیں ہو گا۔

یہ کچھ تفصیل تو میں نے ذکر کر دی، اس کے علاوہ علماء نے باضابطہ اس پر کلام کیا ہے، بالخصوص حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے متعلق ایک استفتاء کا بڑا تشفی بخش اور مفصل جواب دیا ہے، اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہو تو وہاں دیکھ لیں۔

عربی خطبہ سے قبل اردو خطبے کی شرعی حیثیت:

اسی سے متعلق ایک مسئلہ بلکہ اعتراض اور اس کا جواب ذہن میں رکھیں، جس سے جو ساتھی عربی خطبہ کے سمجھ میں نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں اور دوسری زبانوں میں خطبہ کے جائز ہونے کا ہنگامہ کھڑا کرتے ہیں، ان کی بھی شکایت دور ہو جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن عربی خطبہ سے پہلے اردو زبان میں خطیب حضرات کچھ دیر بیان کرتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت کیا

ہے؟ کیا شرعاً اس کا کافی ثبوت ہے؟ کیا یہ خلاف سنت اور بدعت نہیں ہے؟ مسئلہ صحنه سے پہلے بدعت کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے، جو اس سے پہلے کئی بار آپ کو بتائی گئی کہ بدعت ہر نئی چیز یا بعد میں پیدا شدہ چیز نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ بدعت کہتے غیر ثابت کو ثابت اور غیر سنت کو سنت قرار دینا اور اس کو دین کا ضروری حصہ قرار دینا، اگر کوئی ایسا فعل جو حضور ﷺ یا صحابہ یا تابعین کے زمانے میں نہیں تھا، بعد میں لوگوں نے اسے اپنایا، لیکن اسے سنت قرار نہیں دیا اور اسے آپ ﷺ سے ثابت نہیں مانا بلکہ وقت کی ضرورت کی وجہ سے یا کسی مصلحت کی وجہ سے اسے کیا جا رہا ہے تو وہ بدعت نہیں کہلاتے گی، اگر اس کو دین کا حصہ سمجھ رہے ہیں یا آپ ﷺ سے ثابت مان رہے ہیں یا اس کو سنت سمجھ رہے ہیں تو وہ بدعت ہو گا۔ اس پس منظر میں اردو خطبہ کی شرعی حیثیت کو سمجھیں۔

عربی خطبہ سے قبل و عظ خلفاء راشدین سے ثابت ہے:

پہلی بات یہ ہے کہ کیا اس کا ثبوت قرن اول میں ہمیں ملتا ہے یا نہیں؟ یہ بات تو متعین ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں عربی خطبہ ہوتا تھا، کوئی اور ععظ اس سے قبل نہیں ہوتا تھا، لیکن حضرت عمر کے زمانے میں اس کی ابتداء ہوئی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا عمل:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن خطبہ سے پہلے منبر کے پاس کھڑے ہو کر احادیث سنایا کرتے تھے۔

”فَإِذَا سِمِعَ حَرَكَةً بَابِ الْمَقْصُورَةِ بِخُرُوفِ الْإِمَامِ جَلَسَ“
پھر جب امام کے نکلنے کی آواز وغیرہ سنتے تو بیٹھ جاتے۔

چنانچہ مستدرک حاکم میں محمد بن زید کی یہ روایت ہے، اس روایت کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم فرماتے ہیں، ”انما الغرض فيه استحباب رواية الحديث عند المنبر قبل خروج

الإمام“ (المستدرک على الصحيحين: كتاب العلم، ۳۶۷، تعلیق الذہبی قی التلخیص: فیه انقطاع)

اس حدیث میں امام کے نکلنے سے قبل منبر کے پاس ٹھہر کر حدیث بیان کرنے کا استحباب ثابت ہوتا ہے۔

حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کا عمل:

اسی طرح حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں خطبہ سے پہلے وعظ فرمایا کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سائب بن یزید رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ سب سے پہلے مسجد نبوی میں تمیم داری ہی نے وعظ کیا۔ ”وَكَانَ أَوَّلُ مَنْ قَصَّ تَمِيمًا الَّذِي أَسْتَأْذَنَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَنْ يَقْصَ عَلَى النَّاسِ قَائِمًا فَأَذِنَ لَهُ عُمَرُ“ (مسند احمد: ۱۲۱۶) او إسناده ضعیف من أجل بقیة بن الولید الحمصی، فهو مدلس، لیکن حسین سلیم اسد الدارانی موارد الظماء کے حاشیہ میں لکھتے ہیں: تقول: هذا إسناد صحيح، فقد صرحاً بحقيقة بالتحديث فانتفت شبهة تدليسه. والزيدي هو محمد بن الوليد (موارد الظماء: ۱/۲۱۷، ۲۱۷)، اگر بالفرض ضعف تسلیم بھی کیر لیا جائے تو متعدد طرق سے مروی ہونے کی وجہ سے اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے)

غرض وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے وعظ کے لئے اجازت مانگتے رہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ انکار فرماتے رہے، انکار کی وجہ غالباً یہ ہو سکتی ہے کہ صحابہ و تابعین کے زمانہ میں عربی خطبہ ہی وعظ کے لئے کافی ہوتا تھا، کیونکہ عربی سمجھتے تھے، دوبار وعظ بے ضرورت تھا نیز ضبط و نظم کے لئے بھی انکار مناسب تھا۔ لیکن جب وہ بار بار اجازت چاہئے لگے تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کیا چیزیں بیان کرو گے؟ کہنے لگے کہ میں ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کروں گا، وعظ و نصیحت کی باتیں کروں گا، خیر کا حکم دوں گا اور شر سے روکوں گا، تو حضرت عمر نے ان کو اجازت دیدی، کیونکہ ہو سکتا ہے بعد میں اس کو مناسب سمجھا، اور فرمایا: ”عَظْ قَبْلَ أَنْ أَخْرُجَ لِلْجُمُعَةِ“ کہ میرے جمعہ کو نکلنے سے پہلے تم وعظ و نصیحت کرو، چنانچہ وہ ہفتہ میں ایک دن وعظ کرتے تھے، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اجازت چاہی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی

اجازت دیدی، پھر اس کے بعد حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ نے ایک اور دن وعظ کرنے کی اجازت چاہی، تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایک اور دن کی اجازت دیدی۔ (تاریخ اسلام للذہبی: ۲۱۶/۳ تاریخ مدینۃ دمشق: ۸۸/۱۱)

معلوم ہوا کہ صحابہ و خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں بھی جمعہ کے خطبہ سے پہلے وعظ کرنا ثابت ہے۔

اس لئے اگر کوئی آج جمعہ سے قبل کسی اور زبان میں جمعہ کے عربی خطبہ کی وضاحت کرے تو وہ بھی جائز ہو گا، کیونکہ خلفاء راشدین سے یہ ثابت ہے، اور ان کی اس پر نکیر نہیں بلکہ اجازت ہے، اور متعدد طرق سے مروی ہے، اگر بالفرض روایات کی سندی حیثیت پر کلام کر کے اس کو ثابت نہ مانے تو تب بھی یہ بدعت نہیں ہے، کیونکہ بدعت کا مطلب ابھی اوپر لکھا گیا، غیر ثابت یا غیر سنت کو سنت قرار دینا، اور اس کو ضروری سمجھنا، اور ہم اسے نہ سنت کہتے ہیں اور نہ حضور ﷺ سے ثابت مانتے ہیں، بلکہ عوام کے لئے اصلاحی باتیں سننے سے، کچھ ترغیب اور تربیت مضمایں سننے سے عمل کا داعیہ پیدا ہوا اور دین پر چلنے آسان ہو، اس پس منظر میں اس کی اجازت دیتے ہیں اس لئے یہ صرف جائز بلکہ مددوح بھی ہو گا۔

عربی کے علاوہ دوسری زبانوں میں خطبہ کا مناسب وقت:

رهی یہ بات کہ عربی کے علاوہ دوسری زبان میں خطبہ یا تقریر یا وعظ کب کیا جائے تو اس کا ایک بہتر وقت یہ ہے کہ نمازِ جمعہ کے بعد یہ وعظ کیا جائے، لیکن اگر ایسا دشوار ہو یا مناسب سمجھ میں نہ آئے یا لوگ نہ ٹھہر رہے ہوں تو جمعہ کے عربی خطبہ اور نماز سے قبل ممبر کے بجائے نیچے ٹھہر کر اسے بیان کیا جائے اور لوگوں کو سنتوں کا موقع دیا جائے اس کے بعد امام منبر پر جائے اور اذان کے بعد عربی خطبہ دے اور نماز پڑھادے، یہ صورت بھی مناسب ہے، اور عام طور پر اسی کاروائج ہے۔

ایک مسجد میں دو مرتبہ جمعہ ادا کرنے کا حکم:

ایک غلطی نمازِ جمعہ سے متعلق یہ دیکھنے میں آرہی ہے کہ ایک ہی مسجد میں دو مرتبہ نمازِ جمعہ ادا کی جارہی ہے، وقتِ ضرورت ایک ہی مسجد میں دو مرتبہ جمعہ ادا کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے، لیکن اس کے لئے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پہلے جمعہ میں لوگ اتنے جمع ہو جائیں کہ تمام لوگوں کے لئے جگہ ناکافی ہو، اور اس کے علاوہ کوئی اور مسجد بھی نہ ہو تو پھر اس میں دو مرتبہ نماز جمعہ ادا کی جاسکتی ہے، لیکن بعض جگہوں پر میں نے دیکھا کہ پہلی جماعت میں دو صفیں پڑھیں، اور بقیہ چھ آٹھ صفیں خالی ہیں، اس طرح دو مرتبہ کسی مسجد میں نمازِ جمعہ ادا کی جائے، تو پھر یہ صحیح نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اتحاد اور ان کی جمیعت کی شان میں افتراق پیدا کرنا، اور جماعت اور نماز کی اہمیت کو ختم کرنا ہے۔

نمازِ جمعہ اور شریعت کا منشاء:

اس مسئلہ میں شریعت کا منشاء کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کی حقیقت کیا ہے؟ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا، نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ ”الصلوٰۃ جَامِعَۃ“ (صحیح بخاری: کتاب الکسوف: ۱۰۵۱) نماز لوگوں کو جمع کرنے والی ہے، جمعہ کو جمعہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ سب لوگ اس دن جمع ہوتے ہیں، لیکن لوگ شریعت کے اس منشاء کی پرواہ ہی نہیں کرتے، اس لئے دو دو تین تین جماعتوں ایک ہی مسجد میں بنائی جارہی ہیں، ہاں اگر مسجد مختصر ہو اور لوگ بہت زیادہ آتے ہوں، اور جگہ ان سب کے لئے ناکافی ہو اور وہاں دیگر مساجد بھی نہ ہوں، تو اس مسجد میں متعدد جمیع ادا کئے جاتے ہوں تو علماء نے ضرورتاً اس کی گنجائش دی ہے، لیکن اگر نمازِ جمعہ میں کئی صفیں خالی ہوتی ہوں اور پھر اسی مسجد میں کئی جماعتوں ہوتی ہیں تو یہ ناجائز ہے، اس میں نہ دین کا کوئی پاس و لحاظ ہے اور نہ شریعت کے منشاء کی رعایت، بس نفس اور خواہشات کی پیروی ہے۔

زوال سے پہلے خطبہ یا نمازِ جمعہ کا حکم:

ایک غلط فہمی لوگوں میں اوقاتِ نماز سے متعلق بھی پائی جاتی ہے، جس کا شروع میں ذکر کیا جا چکا ہے، مسلمان آہستہ آہستہ نمازِ جمعہ یا خطبہ جمعہ وقت سے پہلے ہی ادا کر رہے ہیں، اس وجہ سے اس مسئلہ سے متعلق بھی کچھ وضاحت ضروری ہے۔

یاد رکھئے! کہ جو خطبہ اور جمعہ قبل از وقت ادا کیا جا رہا ہے، وہ صحیح نہیں، اور اس جمعہ میں امام کی اقتداء بھی صحیح نہیں ہے۔ اسی وجہ سے کتب فتاویٰ میں خطبہ جمعہ کے بارے میں لکھا ہے:

”فَالْفَرْضُ شَيْئًا... الْوَقْتُ وَهُوَ بَعْدُ الزَّوَالِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ حَتَّى لَوْ خَطَبَ قَبْلَ الزَّوَالِ أَوْ بَعْدَ الصَّلَاةِ لَا يُجُوزُ هكذا فِي الْعِيَّنَى شَرِحُ الْهِدَايَةِ“

”خطبہ جمعہ میں دو چیزیں فرض ہیں (۱) خطبہ کا زوال کے بعد نماز سے پہلے ہونا، اگر کسی نے زوال سے پہلے یا نماز کے بعد خطبہ دیا تو جائز نہیں ہے۔

وقت سے پہلے عبادت ادا ہی نہیں ہوتی:

اس لئے اگر کسی امام نے جمعہ وقت سے پہلے پڑھائی اور لوگوں نے اس کی اقتداء کی تو پھر ان سب کو دوبارہ جمعہ ادا کرنا ہو گا۔ کیونکہ نماز وقت سے پہلے فرض ہی نہیں ہوتی، اس لئے اگر اسے قبل از وقت ادا بھی کر لیا جائے تب بھی وہ کا عدم ہو گی، جیسے اگر کسی نے زکوٰۃ فرض ہونے سے قبل، ہی دیدی تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہو گی۔ اسی طرح کسی بچہ نے نابالغی کی حالت میں حج کر لیا تو بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت ہو تو دوبارہ اس کو حج ادا کرنا ضروری ہو گا، بچپن میں کئے ہوئے حج سے اس کا فریضہ ادا نہیں ہو گا، کیونکہ جو حج اس نے ادا کیا ہے وہ وقت سے پہلے ہوا ہے، ابھی اس پر حج فرض نہیں ہوا تھا، اس لئے دوبارہ اسے حج ادا کرنا ہو گا، اسی طرح اگر کسی نے رمضان کے بجائے کسی دوسرے مہینے میں روزہ رکھ لیا، تاکہ گرمائے زمانے میں تپتی ہوئی دھوپ اور پیاس کی شدت میں روزہ رکھنے سے بچ سکے، اور آسانی سے روزے مکمل ہو سکیں تو

اس کے روزے ادا نہیں ہوں گے؟ کیونکہ روزوں کا وقت مقرر ہے، اس وقت سے قبل یا اس کے بجائے کسی دوسرے وقت میں جس وقت وہ واجب نہ ہو اگر روزہ رکھا جائے تو وہ ادا نہیں ہو گا، یہی حال نماز کا ہے، اگر وقت سے قبل نماز ادا کی جائے، یا خطبہ دیا جائے تو نہ اس خطبہ کا اعتبار ہو گا اور نہ اس نماز کا اعتبار ہو گا۔ کیونکہ کبھی نہ آپ ﷺ نے زوال سے قبل اسے ادا فرمایا، اور نہ کسی صحابی نے۔

وقت سے پہلے جمعہ ادا کرنے والوں کی دلیل اور ان کا جواب:

جو لوگ وقت سے پہلے جمعہ ادا کرتے ہیں وہ اس طرح استدلال کرتے ہیں کہ جمعہ کو مسلمانوں کی عید کہا گیا ہے، اور عید کی نماز کا وقت اشراق کے بعد شروع ہوتا ہے اس لئے جمعہ کا وقت بھی اشراق کے بعد شروع ہو جائے گا، اشراق کے بعد اس کو ادا کرنا صحیح ہو گا۔ اس کے ثبوت کے لئے نہ کوئی قرآن کی آیت پیش کرتے ہیں، نہ کوئی حدیث شریف، بلکہ ایک واهیات قسم کا قیاس پیش کرتے ہیں، جس کی تصریح علماء امت میں سے آج تک کسی نے نہیں کی۔

ان کی اس جہالت کا جواب بشكل سوال یہ ہے کہ بقول آپ کے جمعہ کو عید کہا گیا ہے، اور عید کی نماز طلوع شمس کے بعد ہوتی ہے، اس لئے جمعہ بھی طلوع شمس کے بعد ادا کیا جاسکتا ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا عید کے دن نماز عید کے بعد ظہر ادا کی جاتی ہے یا نہیں؟ اب جب کہ آپ نے جمعہ کو عید کہہ کر طلوع کے بعد ادا کر لیا اور عید کے دن نماز ظہر ہوتی ہے، تو جمعہ کے دن کی ظہر کہاں گئی؟ کیونکہ عید کے دن بھی ظہر ادا کی جاتی ہے۔

آپ ﷺ نے عید اور جمعہ علاحدہ کیوں ادا فرمایا؟

روایات میں صراحت ہے کہ آپ ﷺ نے جمعہ کے دن عید آنے پر عید کی نماز الگ پڑھی ہے، اور جمعہ کی نماز الگ پڑھی ہے، (صحیح مسلم: باب ما یقرأ فی صلۃ الجمعة: ۲۰۶۵) اگر جمعہ اور عید ایک ہی ہوتے تو پھر جمعہ کی ضرورت ہی نہیں تھی، سرکار دو عالم ﷺ نے اسے کیوں پڑھا؟

آپ کو بھی اسے ترک کرنا چاہئے تھا، پتہ چلا کہ دونوں کا حکم الگ ہے، جمعہ الگ ہے، اور عید الگ ہے، اس لئے یوم جمعہ کو عید پر قیاس کرنا صحیح نہیں ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ دراصل ظہر کی جگہ میں ہے، اسی لئے دونوں کا وقت بھی ایک ہی ہے، اور اسی وجہ سے اگر کسی کا جمعہ چھوٹ جائے تو اس کو ظہراً دا کرنے کا حکم ہے، اس لئے اگر اس کو قیاس کرنا تھا تو ظہر کی نماز پر مناسب تھا نہ کہ عید کی نماز پر۔

جمعہ کو عید المومین کہنے کی وجہ:

رتی یہ بات کہ اسے مومنین کی عید کہا گیا تو وہ اس کی فضیلت کے پیش نظر کہا گیا، جیسا کہ اس کی کچھ فضیلتوں اس سے قبل بھی بیان کی گئیں کہ ”اللہ پاک“ کے نزدیک سب سے افضل دن جمعہ کا دن ہے، اور جمعہ کے دن جس کی موت ہوتی ہے تو اس کا نام شہیدوں میں لکھا جاتا ہے، اور عذاب قبر سے اس کو محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور جو لوگ حج ادا کرنے سے محروم ہیں تو اس دن کو ان کے لئے حج کا دن قرار دیا جاتا ہے، نیز حضور پاک ﷺ نے فرمایا کہ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوتی، اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہ زمین پر تشریف لائے، اور قیامت بھی اسی دن آنے والی ہے، ان فضیلتوں کے پیش نظر اسے مومنین کی عید کہا گیا ہے۔

تشبیہ اہمیت اور فضیلت کے اعتبار سے ہے:

تشبیہ سے مسائل میں تشبیہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کی فضیلت، اہمیت، عظمت اور خوشی کے اعتبار سے تشبیہ دینا مراد ہے۔ جیسے تمام مساجد کو بیت اللہ یعنی اللہ کا گھر کہا گیا ہے، تو کیا ہر مسجد کا طواف کیا جائے گا؟ کیونکہ وہ سب بیت اللہ ہیں، ظاہر ہے کہ یہ مساجد کی اہمیت اور فضیلت بتانے کے لئے ہے، ایسے ہی یہاں بھی اسی اعتبار سے تشبیہ دی گئی ہے، خلاصہ یہ ہے کہ اوقات وغیرہ سے متعلق مسائل توقیفی ہیں، ان کے ثبوت کے لئے صریح نص کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک اللہ اور اسکے رسول اس بارے میں صراحةً نہ کریں اس وقت تک محض رائے کے

ذریعہ اس کو ثابت نہیں کیا جاسکتا، اگر اس میں قیاس اور اجتہاد سے کام لیا جائے تو وہ محض گمراہی، ضلالت اور قرآن و حدیث پر عمل کے بجائے خواہشات اور نفس کی پیروی ہے، اس لئے جو ظہر کا وقت ہے وہی جمعہ کا بھی وقت ہے، اس لئے وقت سے پہلے خطبہ دینا یا جمعہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔

لوگوں نے آج دین کا کھیل اور تماشہ بنارکھا ہے، دین کے تعلق سے بالکل بے لگام ہو چکے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو اغراض دنیویہ کی خاطر ٹھکر رہے ہیں، گمراہی اور ضلالت کو مذہب کارنگ دے کر امت میں انتشار پیدا کر رہے ہیں۔ اس طرح گویا وہ دین اور شریعت کو چیخ کر کے نفس پرستی اور دنیا پرستی کی بنیاد پر بگاڑ اور امت مسلمہ میں تفرقہ پیدا کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس ضلالت اور گمراہی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔

مسئلہ جمع بین الصالاتین:

اسی طرح ایک اور گمراہی یہ پھیلائی جا رہی ہے کہ لوگ نمازِ ظہر اور جمعہ کی ادائیگی کے بعد فوراً عصر کی نماز ادا کر رہے ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑی گمراہی ہے۔ آج اس حقیر سی دنیا اور اس کے مال و دولت کے پیچھے اپنے اعمال کو بگاڑا جا رہا ہے اور اپنی آخرت کو سنوارنے کے بجائے خراب کیا جا رہا ہے، اور اپنی ملازمت اور جاب (Job) کے بہانے نمازوں کو تباہ و بر باد کیا جا رہا ہے اور وقت سے پہلے ہی ان کو ادا کیا جا رہا ہے، دراصل یہ دین اور شریعت سے دوری اور دلوں میں اس کی اہمیت اور عظمت نہ ہونے کا نتیجہ ہے، جب لوگوں کے دلوں میں مال و دولت کی محبت رچ بس گئی تو اللہ اور اس کے رسول کی اہمیت اور عظمت دلوں سے رخصت ہو گئی۔ اور ان کے نازل کردہ احکام کی کوئی اہمیت نہیں رہی، یہ غلط فہمیاں دراصل اوقاتِ نماز سے ناواقفیت کا نتیجہ ہیں، اس لئے اوقات کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں اس کی کچھ وضاحت ضروری ہے، اس تعلق سے چند باتیں ذہن میں رکھیں۔

نمازوں کے اوقات منصوص ہیں:

پہلی بات یہ ہے کہ نمازوں کے اوقات قرآن و حدیث میں وضاحت کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں، ان میں کسی قسم کی تقدیم و تاخیر جائز نہیں ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا ہے:

”إِنَّ الصَّلَاةَ كَائِنَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا“ (النساء: ١٠٣)

”بے شک نماز مسلمانوں پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض ہے“

اس کی ابتدا کا بھی ایک وقت ہے اور اس کے ختم ہونے کا بھی ایک وقت ہے، اور یہ وقت سب نمازوں کیلئے ہے، چاہے وہ فجر ہو، یا ظہر ہو، یا عصر ہو، یا مغرب ہو، یا عشاء ہو، یا جمعہ ہو۔

نمازوں میں سستی پر و عید:

”فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ - الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ“ (الماعون: ٥٢)

”پھر بڑی خرابی ہے ان نمازوں کے لئے جو اپنی نماز سے غفلت بر تھے ہیں“

نمازوں میں سستی کی ایک صورت یہی ہے کہ ان کو وقت پر ادا نہ کیا جائے، اور اوقات میں تقدیم و تاخیر کر کے اس اعتبار سے نمازیں ادا کی جائیں، اور نمازوں کو قبل از وقت ہی ادا کر لیا جائے، یہ اس آیت کے عموم میں داخل ہے، گویا اس اعتبار سے یہ وعید ایسے لوگوں کو بھی شامل ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ احادیث میں آپ ﷺ کا دائری عمل یہی بتایا گیا ہے کہ آپ ہمیشہ جمعہ کی نماز سورج کے زائل ہونے کے بعد یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد ادا فرماتے تھے۔

آپ ﷺ نے سوائے مزدلفہ کے کہیں جمع بین الصلاتین نہیں کیا:

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَّى صَلَّى بِغَيْرِ (الغیر) مِيقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ وَصَلَّى الْفَجْرَ قَبْلَ مِيقَاتِهَا“ (صحیح بخاری: باب من يصلی الفجر بجمع: ۱۶۸۲)

میں نے نبی کریم ﷺ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے کوئی نماز اس کے وقت کے علاوہ میں پڑھی ہو، مگر دونمازیں یعنی مغرب اور عشاء (مزدلفہ میں) آپ نے جمع فرمائیں اور فجر کو اس کے وقت مقررہ سے پہلے ادا کیا ہو ہے۔ (تحفۃ الاحوڑی: باب ماجاء فی الاسفار بالفجر، ومرقاۃ: ۱۵۷/۹)

نیز خلافے راشدین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عمل بھی یہی تھا، اور اسی پر مواظبت کے ساتھ وہ عمل پیرا تھے۔

اور پھر اوقات کا مسئلہ ایسا ہے کہ کبھی اس میں تبدیلی نہیں کی گئی، شریعت کے بہت سے احکام منسوخ ہیں، ابتداء میں حکم کچھ اور تھا، بعد میں اللہ پاک نے اس حکم کو منسوخ کر دیا، اور اس کی جگہ دوسرا حکم نازل فرمایا، لیکن اوقات میں کبھی تبدیلی نہیں کی گئی، کبھی اس میں تقدیم و تاخیر نہیں کی گئی۔

ان آیات مبارکہ اور احادیث شریفہ سے قطعی طور پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ دو نمازوں کو ان کے وقت مقررہ پر ادا کیا جائے گا، ان میں تقدیم و تاخیر جائز نہیں ہوگی۔ اب ان ارشادات نبوی پر بھی روشنی ڈالتے ہیں جس میں نبی ﷺ نے دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں جمع کرنے کا ذکر کیا ہے۔

جمع بین الصالاتین پر وعید:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے:

”مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ مِنْ عَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَثْلَى بَابَ امْنٍ أَبْوَابَ الْكَبَائِرِ“ (سنن الترمذی: باب ماجاء فی الجمع بین الصالاتین فی الحضر: ۱۸۸)

”جو آدمی بغیر عذر کے دو نمازوں کو (ایک ہی وقت میں) جمع کرے (پڑھے) گا تو وہ کبیرہ گناہوں کے دروازوں میں سے ایک دروازے پر پہونچ چکا۔

اس حدیث میں نبی ﷺ نے دو نمازوں کو ایک ہی وقت میں پڑھنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا ہے، ظاہر ہے کہ جو عمل گناہ کبیرہ ہو وہ کیسے جائز ہو سکتا ہے، اس لئے ان نصوص میں لازماً تاویل کرنی پڑے گی جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ﷺ نے یا صحابہؓ کرام نے دو نمازوں کو صرف ایک ساتھ جمع کیا ہے۔

جمع بین الصلاتین کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان:

دوسری روایت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جس کی بنیاد بھی خود حدیث مبارکہ ہے، جس میں انہوں نے شاہی فرمان کے طور پر یہ شرعی حکم جاری فرمایا تھا، اور گورنزوں اور امراء کو یہ خط لکھا تھا کہ:

”يَنْهَا هُمْ أَنْ يَجْمِعُوا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ وَيُخْبِرُهُمْ أَنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ كَبِيرٌ مِّنَ الْكَبَائِرِ۔ أَخْبَرَ نَابِذِلَّكَ الْقِنَاقُ“۔ (مؤطراً محمد: باب الجمع بین الصلاتین فی السفر: ۲۰۵)

کہ امراء لوگوں کو جمع بین الصلاتین سے روکیں، اور ان کو بتا دیں کہ جمع بین الصلاتین ایک ہی وقت میں کبیرہ گناہ ہے۔ اس روایت کو ثقہ روایوں نے ہم سے بیان کیا ہے۔

اگر اس کی اجازت ہوتی تو پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیوں روکتے؟ اور اللہ اور اسکے رسول کی طرف سے اجازت شدہ عمل کو کیوں ختم کرتے؟ پتہ چلا کہ جمع بین الصلاتین جائز نہیں ہے۔

جمع بین الصلاتین والی روایت قرآن کے معارض ہے:

(۱) اب رہی وہ احادیث جن میں سفر یا کسی اور عذر کی بناء پر دونمازوں کو جمع کرنے کا ذکر ہے تو اس کا ایک جواب یہ ہے کہ وہ قرآن سے متعارض ہے، کیونکہ قرآن مجید میں نماز کو اس کے وقت مقررہ پرداز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس حدیث میں وقت سے پہلے یا وقت کے بعد دونمازوں کو ایک ساتھ پڑھنے کا ذکر ہے، اور ظاہر ہے کہ قرآن اور حدیث میں ٹکراؤ ہو تو قرآن کو ترجیح دی جاتی ہے، اس لئے ظہر اور عصر کی نماز کا جو وقت مقرر ہے اسی پر عمل کیا جائے گا، اور نمازیں اسی وقت میں ادا کرنا ضروری ہو گا، اور دونمازوں کو جمع کرنے والی روایات کو ترک کر دیا جائے گا۔

روایات میں جمع صوری مراد ہے جمع حقیقی نہیں:

(۲) دوسرا جواب یہ ہے کہ ان روایات میں جمع کرنے سے صورتاً جمع کرنا مراد ہے حقیقتاً نہیں، اس کی وضاحت یہ ہے کہ ظہر کی نمازاً تی دیر سے پڑھی جائے کہ اس کا وقت ختم ہونے لگے، جیسے ہی ظہر کی نماز سے فراغت ہوئی، کچھ دیر انتظار کیا جائے، پھر جب عصر کا وقت شروع

ہو جائے تو عصر بھی پڑھ لی جائے، اسی طرح مغرب اور عشاء میں کیا جائے، اس صورت میں ظہر اپنے وقت میں پڑھی جائے گی، اور عصر اپنے وقت میں پڑھی جائے گئی۔ لیکن بظاہر ایسا محسوس ہو گا کہ دونوں ایک ہی ساتھ پڑھی گئیں۔ آپ ﷺ نے دونمازوں کو اس طرح جمع فرمایا تو راویوں نے کہہ دیا کہ آپ نے دونمازوں کو جمع فرمایا ہے۔ جب کہ اس کی حقیقت کچھ اور ہی تھی، جیسا کہ تفصیلی روایات میں اس کی وضاحت ملتی ہے۔

چنانچہ عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں:

”رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَعْجَلَهُ السَّيْرُ فِي السَّفَرِ يُؤْخِرُ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ حَتَّىٰ يَجْمِعَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ“ (صحیح مسلم: باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر: ۱۶۵۹)

”میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ جب آپ کو سفر پر جانے میں عجلت ہوتی تو مغرب کی نماز کو موخر کرتے یہاں تک کہ مغرب اور عشاء کو جمع فرماتے“

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ:

”كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إِذَا أَرَتَ حَلَقَةً قَبْلَ أَنْ تَرِيلَ الشَّمْسَ أَخْرَى الظُّهُرِ إِلَىٰ وَقْتِ الْعَصْرِ ثُمَّ نَزَّلَ فَجَمَعَ“ (صحیح مسلم: باب جواز الجمع بین الصلاتین فی السفر، ۱۶۵۹)

رسول اللہ ﷺ جب سورج کے زائل ہونے سے قبل سفر فرماتے تو ظہر کو موخر فرماتے عصر تک، پھر (سواری سے) اترتے، اور دونوں نمازوں کو جمع فرماتے، ان روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دونمازوں کو جمع فرمانا صورتاً تھا حقیقتاً نہیں۔ جس کی وضاحت ہم اس سے قبل کر چکے ہیں۔

اگر ہم ان روایات کو جمع صوری پر محمول کرتے ہیں تو تمام آیات اور روایات میں کوئی تعارض نہیں ہوتا ہے، اور اگر حقیقت پر محمول کرتے ہیں تو پھر آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ کو ترک کرنا لازم آتا ہے، اس لئے اس کو جمع صوری پر محمول کیا جائے گا۔ تاکہ قرآن اور حدیث پر مکمل طور پر عمل ہو، اور ان میں باہم تضاد اور ٹکراؤ نہ ہو، اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)



جمعہ کے عربی خطبوں کا خلاصہ

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نواں الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تحریق: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، ربیع الثانی ۱۴۳۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

جمعہ کے عربی خطبوں کا خلاصہ:

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا امَّا بَعْدُ۔

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (النحل: ٩٠)

”بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“

السلام عليکم ورحمة الله وبركاته

تمہید:

آج کے اس خطبے میں خطبہ کے مضامین اور اس آیت سے متعلق جو خطیب حضرات خطبہ میں پڑھتے ہیں اور جس کی تلاوت میں نے ابھی کی ہے چند باتیں ذکر کرنی ہیں، عام طور پر ہم عربی خطبہ تو سن لیتے ہیں لیکن اس میں بنیادی طور پر کیا کیا کیا مضامین ہوتے ہیں اور کیا کیا باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کا علم نہیں ہوتا، اور پھر بعض حضرات کو خطبہ کے بارے میں چند باتوں کا خلجان ہوتا ہے، اور بعض باتوں کو وہ بدعت سمجھنے لگتے ہیں اس لئے ارادہ ہوا کہ کچھ باتیں عربی

خطبوں سے متعلق بالترتیب کچھ تفصیل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائیں، تاکہ خطیب جب خطبہ دے تو ان مضامین کا خلاصہ ہمارے ذہنوں میں آجائے۔ اور بار بار کے تکرار سے ہمارا ذہن بھی اسی طرح کا بن جائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنا ہمارے لئے آسان ہو جائے۔ اور اس بارے میں ہمارے اشکالات اور اعتراضات اور خلجانات بھی دور ہو جائیں۔

خطبہ اولیٰ کا خلاصہ:

خطبہ اولیٰ میں تو عام و عظ و نصحت کی باتیں ہوتی ہیں، اولاً مسنون خطبہ جو آپ ﷺ سے منقول ہے پڑھا جاتا ہے، جس میں اللہ پاک کی تعریف اور اللہ پاک سے استعانت، طلبِ مغفرت اور اللہ پاک پر توکل، نفس اور برے اعمال کے شر سے اللہ کی پناہ چاہی جاتی ہے، پھر اللہ کی وحدانیت اور رسول پاک ﷺ کی رسالت کی گواہی اور نبی ﷺ پر درود مبارکہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد لوگوں کو خطاب کر کے توحید کی تعلیم دی جاتی ہے، کیونکہ آدمی کی کامیابی کا مدار توحید ہی پر ہے، اسکے بغیر نہ عقائد کا اعتبار ہوتا ہے اور نہ اعمال کا۔ اس کے بعد تقویٰ کا حکم ہوتا ہے، کیونکہ جب تک خوفِ خدادول میں نہ آئے اس وقت تک عبادات اور طاعات پر عمل مشکل ہوتا ہے، اور منکرات اور محمرات سے بچنا مشکل ہوتا ہے۔

سب سے بہترین کلام:

اس کے بعد ظاہر ہے کہ آدمی کو دنیا میں زندگی گزارنا ہے تو زندگی گزارنے کے لئے اسے رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کیسے زندگی گزارے؟ اور کن اصول و قواعد کے تحت وہ زندگی گزارے، تو بتایا جاتا ہے کہ سب سے بہترین چیز کلام اللہ ہے، فضیلت کے اعتبار سے بھی اور ہدایت اور رہنمائی کے اعتبار سے بھی۔

سب سے بہترین اسوہ:

لیکن اس کو بتانے کے لئے، اس کو سمجھانے کے لئے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کے لئے ایک نمونہ، ایک اسوہ اور ایک رہنمائی ضرورت ہوتی ہے، تو بتایا جاتا ہے کہ وہ بہترین رہنماء، اور

بہترین اسوہ حضور ﷺ کی سنت اور سیرت ہے، پوری دنیا میں انسانوں کی رہنمائی رہنمائی کے لئے سب سے بہترین کتاب اور سب سے بہترین دستور اور بہترین نظام حیات وہ اللہ کی کتاب اور حضور ﷺ کی احادیث مبارکہ اس کی تفسیر اور توضیح میں ہے۔ گویا قرآن کا عملی نمونہ حضور پاک ﷺ کی ذات مبارکہ اور آپ کی سیرت مبارکہ ہے:

”إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثٍ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدُىٰ هَدَىٰ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“

سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین راستہ حضور ﷺ کا راستہ اور حضور کا طریقہ ہے، کھانے پینے میں، پہنچنے اور ٹھنڈنے میں، رہنے سہنے میں، عادت اور عبادت میں، خوشی اور غم میں، سب چیزوں میں، ہر جمیع خطیب یہی باتیں پڑھ کر سناتا ہے، تاکہ مسلمانوں میں تقویٰ اور پرہیز گاری آئے، اور خوفِ خدا پیدا ہو، اور حضور پاک کی سیرت مبارکہ کو وہ اپنا سکے، کیونکہ لوگوں میں حضور ﷺ کی سنتوں اور طریقوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی، وہ حضور ﷺ کے طریقے اور حضور ﷺ کی تہذیب کے بجائے غیروں کے طریقے اور غیروں کی تہذیب کو ترجیح دے رہے ہیں، اور آج مسلمانوں کے تنزل، ان کی ذلت، ان کی رسوانی اور ان کی تباہ و بر بادی کا سب سے بڑا سبب یہی ہے، کیونکہ عزت اور کامیابی حضور ﷺ ہی کے طریقے کو اپنانے میں ہے، اور ذلت و رسوانی غیروں کے طور طریقوں اور ان کی تہذیب میں ہے۔ اس لئے حضور ﷺ کی سیرت، حضور ﷺ کی تہذیب اور حضور ﷺ کی سنتوں اور ان کے طریقوں کو اپنانے کا حکم دیا جاتا ہے۔

اس کے علاوہ سچ اور حسن سلوک کی ترغیب اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کی تلقین کی جاتی ہے اور جھوٹ سے ڈرا کر اس کا نقصان بتایا جاتا ہے۔ اور دنیا اور مال کی محبت کو دل سے نکال کر ضرورت کے بقدر مال کمانے کی ترغیب وغیرہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ حالاتِ حاضرہ اور امت کی ضرورت کے پیش نظر چند وعظ و نصیحت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، اور جو باتیں ارد و بیان میں ذکر کی جاتی ہیں اس سے متعلق آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ پڑھ کر استغفار پر خطبہ اولیٰ کو ختم کیا جاتا ہے، کیونکہ خطبہ کا اختتام آپ ﷺ استغفار سے کیا کرتے تھے۔

خطبہ ثانیہ کا خلاصہ:

پھر اس کے بعد دوسرا خطبہ دیا جاتا ہے، اس میں وہی مسنون خطبہ پڑھا جاتا ہے، اس کے بعد نبی ﷺ پر درود مبارکہ بھیجا جاتا ہے، پھر حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بالخصوص خلفاء راشدین اور اہل بیت، حضرت نبی فاطمہ رضی اللہ عنہا، حضرات حسین بن علیؑ، آپ ﷺ کے چچا حضرت عباسؓ اور حضرت حمزہؓ اور دیگر عشرہ مبشرہؓ کے فضائل بیان کئے جاتے ہیں، اور ان کے حق دعا کی جاتی ہے، اور ان صحابہ کے بارے میں بد گمانی، زبان درازی، طعن و تشنیع سے روکا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں زبان درازی کرنے سے اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے ڈرایا جاتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ اب بھی ایسے ہیں اور پہلے زمانے میں بھی ایسے تھے جو صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے اور آج بھی کرتے ہیں، اور بعض جاہل اور بد دین تو بہت ہی زیادہ ان صحابہ کے بارے میں زبان دراز ہوتے ہیں، جب کہ اللہ کے رسول نے ان صحابہ کی تربیت فرمائی ہے، ان کی بڑی بڑی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، اور ان پر اعتماد ظاہر کیا ہے، اور ان کی اتباع کا حکم دیا ہے، اور ان سے محبت اہل السنۃ والجماعۃ کے عقائد میں سے ہے، اور ان سے نفرت کرنا یا ان پر طعن و تشنیع کرنا یا ان پر اعتراض اور تنقید کرنا منافقت ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھنے کے مراد فہمے ہے، اس لئے ان کے کچھ مناقب اور فضائل بیان کئے جاتے ہیں، تاکہ ان کی قدر اور اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نظر و میں باقی رہے، اور ان صحابہ کی محبت اور عظمت دلوں میں باقی رہے، یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھنا چاہیئے کہ خلفاء راشدین اہل بیت سے بھی زیادہ فضیلت والے ہیں، اور ان چاروں میں افضلیت ان کی خلافت کی ترتیب کے اعتبار سے ہے۔ یعنی ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیقؓ، ان کے بعد حضرت عمرؓ، ان کے بعد حضرت عثمانؓ اور ان کے بعد حضرت علیؓ ہیں۔

صحابہ سے بد گمانی ایمان کے تنزل کا سبب ہے:

غرض ان خلفاء کا اور اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے تاکہ امت کو ان سے بد ظن اور بد گمان اور ان کے بارے میں بد عقیدگی سے بچایا جاسکے۔ کیونکہ اگر ہمارا ذہن صحابہ کے بارے میں صحیح نہ

ہو اور صحابہ کے بارے میں ہم تقيید کرنے لگیں اور ان پر اعتراضات کرنے لگیں تو یوں سمجھ لیجئے کہ اس وقت سے ہمارے ایمان اور دین کا تنزل شروع ہو گیا، اس زمانے میں جن لوگوں نے فتنے کی بنیاد ڈالی ہے انہوں نے یہیں سے شروعات کی ہے کہ صحابہ کی عظمت ذہن سے مٹائی جائے، علماء کی عظمت لوگوں کے ذہنوں سے نکالی جائے، کیونکہ یہی دین کے ستون اور علم بردار ہیں، انہیں کے ذریعہ دین لوگوں تک پہنچا ہے، اس لئے اگر ان ستونوں ہی کو ہٹا دیا جائے تو پھر دین کی عمارت منہدم ہو جائے گی، دین کمزور پڑ جائے گا، اور پھر فتنہ پھیلانا اور امت میں ضلالت اور گمراہی پیدا کرنا اور امت کو غلط راستے پر ڈالنا آسان ہو جائے گا۔

ایمان کی سلامتی اسلاف کو تھانے میں مضمرا ہے:

کیونکہ غلط راستہ پر آدمی اسی وقت چلتا ہے جب اسلاف کے راستے کو چھوڑ دیتا ہے، جب تک سلف کے راستے پر رہے گا اس وقت تک غلط راستے پر نہیں جائیگا، کیونکہ سلف کا راستہ سیدھا راستہ ہے، جن لوگوں کے ذریعہ دین تک پہنچا ہے اور جس راستے کو ہم اپنانے ہوئے تھے اگر اسی راستے کو ہم چھوڑ دیں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہمارے دین اور اسلام کی بنیاد ہی ختم ہو جائے گی، اور ہم کیسے اپنے دین اور اسلام کی عمارت کھڑی کر پائیں گے، بعض لوگوں نے اسی مقصد سے کتابیں لکھیں، لوگ اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ اس طرح کی کتابوں کے لکھنے کا کیا مقصد ہے؟ اور کیا ریز نہ ہے؟ اس سے دراصل امت میں پھوٹ ڈالنا اور امت کو غلطی کے راستے کی کنجی دینا مقصود ہوتا ہے۔

آیتِ مبارکہ کی جامعیت:

پھر اخیر میں ایک آیت پڑھ کر خطبہ ختم کیا جاتا ہے، جس کی میں نے ابتداء میں تلاوت کی ہے، وہ بہت ہی عجیب و غریب آیت ہے، اور قرآن پاک کی سب سے جامع اور اہم آیت ہے، اس آیت میں پورے دین کو سمیٹا گیا ہے، شریعت کے سارے مامورات اور سارے منہیات کو یہ شامل ہے، اور اسلام کے خلاصہ کے طور پر اور بریفنگ (Briefing) کے طور پر مسلمانوں کے ذہن میں اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مضمون رہنا چاہیے، ایک مسلمان کو بحیثیت

مسلمان ہونے کے اس کی مینٹالیٹی (Mentality) کیسی ہوئی چاہیے؟ اس کی سوچ کیسی ہوئی چاہیے؟ اس کا انداز کیسا ہونا چاہیے اس آیت مبارکہ میں اس کا ذکر کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام کی پوری تفصیلات تو ایک آیت میں بیان نہیں کی جاسکتیں، ہاں اس کا خلاصہ بیان کیا جاسکتا ہے، اور وہ اس آیت میں ہے، اسی وجہ سے عرب صرف ایک ایک آیت کو سن کر دنگ رہ جاتے، کیونکہ وہ عربی زبان کو، اس کی باریکیوں کو اس کی فصاحت اور بلاغت کو جانتے تھے اس لئے ایک ایک آیت کا ان پر گہر اثر ہوتا تھا اور ایک ایک آیت کو سن کر وہ اسلام قبول کر لیتے تھے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آیت کے بارے میں فرمایا:

”هذِهِ أَجْمَعُ أَيَّةٍ فِي الْقُرْآنِ لِخَيْرٍ يَمْتَلَّ، وَلِشَرٍ يَجْتَنِبُ“ (تفسیر قرطبی: ۱۰/۱۶۵)

یہ قرآن میں خیر کے لئے کہ جس پر عمل کیا جائے اور شر کے لئے کہ جس سے بچا جائے سب سے جامع آیت ہے۔

اسلام کی ترجمانی کے لئے یہ آیت کافی ہے:

بعض مرتبہ لوگ آفس میں یا کسی مقام پر پوچھ لیتے ہیں کہ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ اس موقع پر ہمیں تفصیلاً کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بس یہ آیتیں، اس کا ترجمہ اور اس کا مفہوم سنادیں، سارے اسلام کی ترجمانی کے لئے یہی کافی ہے، اس سے اسلام کی بریفنگ (Briefing) ہو جائیگی، اگر کوئی غیر مسلم ہم سے پوچھ لے جیسے سفر میں اس طرح کے موقع پیش آتے ہیں پلیں اور ٹرین میں یاد ہو تو میں لوگ پوچھ لیتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کیا سکھاتا ہے؟ آپ صرف اس آیت کا ترجمہ کر دیجئے، بس یہی کافی ہے۔

ابو جہل کا اقرار:

اس کی جامعیت کا مسلمان تو مسلمان کفار نے بھی اقرار کیا ہے، جب ابو جہل نے اس آیت

کو سنا تھا تو کہنے لگا:

”إِنَّ اللَّهَ لِيَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وَهِيَ أَجْمَعُ آيَةٍ فِي الْقُرْآنِ لِلْحَمْرَ وَالشَّرِّ“ (تفسیر نسفی: ۱۷۶۲)

بے شک ان کا معبود مکارم اخلاق کا حکم دیتا ہے، اور یہ قرآن میں خیر اور شر کے لئے سب سے جامع آیت ہے۔

جب کفار اس کا اقرار کر رہے ہوں تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے؟ اور کتنی اس میں جامعیت ہے؟ البتہ اس آیت کا کچھ مفہوم اور مضمون سیکھ لینا چاہیے، اور سمجھ لینا چاہئے، تب اس کا پیغام اور اس کا خلاصہ اور اس کی جامعیت کا صحیح بتانا اور صحیح سمجھانا آسان ہو جاتا ہے، جس کا ذہن جتنا زیادہ کھلا ہو اہوتا ہے وہ اتنا ہی اس کو اچھے انداز میں پیش کر سکتا ہے، جس سے سننے والے پر بہت اچھا اثر پڑتا ہے۔

قبیلہ اکشم کے اسلام لانے کا واقعہ:

حدیثوں میں ہے کہ بعض قبیلے والوں نے اسی آیت کو سن کر اسلام قبول کیا تھا، حضرت اکشم بن صیفی ایک صحابی ہیں، جو قبیلے کے سردار تھے، جب حضور ﷺ کے بارے میں انہیں اطلاع ملی تو انہوں نے ارادہ کیا کہ جا کر حضور ﷺ سے ملاقات کر آئیں، تاکہ پتہ چلے کہ کیسے آدمی ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آپ ﷺ نے اسی وقت نبوت کا اعلان کیا تھا، ان کے قبیلے والوں نے کہا کہ آپ قبیلہ کے سردار ہیں آپ کے ساتھ کہیں بیہودگی نہ ہو جائے، اور پھر پورے قبیلے والوں کی عزت کا مسئلہ نہ ہو جائے، اور پتہ نہیں آپ کے ساتھ کیا بر تاؤ ہو، اس لئے آپ نہ جائیں بلکہ اپنے نمائندے کے طور پر کسی کو بھیج دیں، چنانچہ انہوں نے دو انتہائی سمجھدار آدمیوں کا انتخاب کیا، اور حضور ﷺ کی خدمت میں بھیجا، اور انہیں یہ نصیحت بھی کی کہ جا کر محمد (ﷺ) سے دو سوال کریں، (۱) ”مَنْ أَنْتَ؟“؟ آپ کون ہیں؟ (۲) اور دوسرا ”مَا أَنْتَ؟“؟ کہ آپ کہتے کیا ہیں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ وہ دونمائندے حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور پوچھا ”مَنْ أَنْتَ؟“ تو آپ ﷺ نے فرمایا: میں محمد بن عبد اللہ ہوں، اس کے بعد انہوں نے پوچھا: ”مَا أَنْتَ؟“؟

آپ ﷺ نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ کا نما سندہ ہوں، انہوں نے پوچھا کہ اللہ کی نما سندگی میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ ﷺ نے ان کے سامنے یہ آیت پڑھی:

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (النحل: ٩٠)

وہ لوگ یہ سن کرو اپس چلے گئے اور انہوں نے جا کر کہا کہ جب ہم نے ”منْ أَنْتَ“ کہا تو انہوں نے صرف اپنا نام بتایا، دراصل عربوں میں یہ عادت تھی کہ اپنے تعارف میں اپنا اور اپنے باپ دادا اور سارے خاندان کا تعارف کرواتے اور ان کے کارنامے سناتے، تاکہ اپنی ایمج (Image) بنے، اور اپنی عزت ہو، اور سننے والا یہ سمجھے کہ میں کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں ہوں، حضور ﷺ ظاہر بات ہے کہ ہر اعتبار سے بڑے ہیں، لیکن آپ ﷺ نے اس کو چھیڑا ہی نہیں، صرف کہا کہ محمد ابن عبد اللہ ہوں، انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے لئے بہت ہی سر پرائز (Surprise) کرنے والی تھی کہ ایک آدمی سے ہم پوچھ رہے ہیں: ”منْ أَنْتَ“؟ اور وہ صرف اپنا اور اپنے والد کا نام کہہ رہا ہے، پھر ہم نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ یہ قوم کے اعتبار سے، نسب کے اعتبار سے اور شرافت و بلندی کے اعتبار سے سب سے بڑے خاندان کے آدمی ہیں، دوسری بات جب ہم نے ان سے پوچھی: ”ما أَنْتَ“ تو انہوں نے دو باتیں کہیں: ایک یہ کہ میں اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور دوسری یہ آیت پڑھ کر سنائی۔ اس میں بھی ایک قصہ یہ ہوا کہ جب حضور پاک ﷺ نے یہ آیت سنائی تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو اپنی قوم میں نقل کرنے والے ہیں، اس لئے ہمیں بار بار سنادیج ہے تاکہ ذہن نشین ہو جائے، تو حضور ﷺ نے ان کے سامنے یہ آیت اتنی مرتبہ دھرائی کہ ان کو یاد ہو گئی، انہوں نے جا کر اپنے سردار کو یہ آیت سنادی، جب حضرت اکتم نے یہ سناتا کہا کہ وہ تو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتے ہیں، اور بری چیزوں سے روکتے ہیں۔

”فَكُوْنُوا فِي هَذَا الْأَمْرِ رُءُوسًا، وَلَا تَكُونُوا أَفْيَهُ أَذْنَابًا“

لہذا اے میری قوم کے لوگو! تم پہل کروتا کہ تم لوگ بعد میں شامل ہونے والوں میں نہ ہو،
تم پہلوں میں ہو جاؤ، تاکہ تمہارا مرتبہ بڑا ہو جائے۔ (تفسیر ابن کثیر: ۵۹۶/۳)

اس وقت حضرت اکشم اور ان کے پورے قبیلے والوں نے ایک ساتھ اسلام قبول کیا، پہلے
قبیلوں میں یہی ہوتا تھا کہ جو سردار کہہ دیتا سب اسی کو مان لیتے، جب انہوں نے کہا کہ یہ مذهب
صحیح ہے، اس کو قبول کر لو تو سب نے قبول کر لیا، غرض اس ایک آیت کو سن کر سارے قبیلے
والوں نے اسلام قبول کر لیا، اس سے آپ اندرازہ لگائیئے کہ اس میں کتنی جامعیت ہے؟

حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ پر آیت مبارکہ کا ثرث:

اسی طرح مفسرین نے اس آیت کے ذیل میں حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ کے مسلمان ہونے
کا قصہ بھی نقل کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ شروع میں اگرچہ مسلمان ہو گیا تھا، اور وہ بھی بار بار میرے
ساتھیوں کے ذکر کرنے کی وجہ سے، لیکن میرے دل میں اسلام راسخ نہیں ہوا تھا، حتیٰ کہ ایک
دن میں آپ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اچانک آپ پر وحی کے نازل ہونے کے آثار
ظاہر ہوئے، اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قاصد میرے پاس آیا اور یہ آیت مجھ کو
سنائی، حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کو دیکھ کر اور آیت سن کر میرے
دل میں ایمان مضبوط اور مستحکم ہو اور رسول کریم ﷺ کی محبت میرے دل میں گھر کر گئی۔

ابو طالب کا حق کی دعوت دینا:

میں ابو طالب کے پاس آیا، اور اس واقعہ کی خبر دی تو ابو طالب کہنے لگے:

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ إِتَّبِعُوا أَبْنَ أَخْيَ تَرْشُدُوا وَلَئِنْ كَانَ صَادِقًاً أَوْ كَاذِبًاً فَإِنَّهُ مَا يَأْمُرُكُمْ إِلَّا بِمَكَارِمِ
الْأَخْلَاقِ“

اے قریش کے لوگو! میرے بھتیجے کی بات مان لو تو تم راہ یاب ہو جاؤ گے، وہ سچا ہو یا جھوٹا
لیکن تم کو مکارم اخلاق کی تعلیم دیتا ہے، آپ ﷺ نے جب یہ سناتا ابو طالب سے کہا:

”يَا عَمَّا هُوَ أَتَأْمُرُ النَّاسَ أَنْ يَتَّبِعُونِي وَتَدْعُ نَفْسَكَ وَجَهْدَ عَلَيْهِ“

اے چچا جان! کیا آپ دوسروں کو میری تواتر کا حکم دے رہے ہیں لیکن آپ خود اپنے آپ کو چھوڑ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ اسلام قبول نہیں کئے۔ (تفسیر رازی: ۲۵۱/۶)

ولید ابن مغیرہ کا بے تامل اقرار:

ولید بن مغیرہ جو مشرک تھا اور بڑا سمجھدار اور بڑا ذہین بھی تھا، مشرکین نے اس کو بھیجا کہ جا کر بات کر کے آؤ کہ محمد ہم کو ہمارے معبدوں سے الگ کرنا چاہتے ہیں، یا مال چاہتے ہیں، یا کوئی اور مقصد ہے؟ جو وہ کہیں ہم اس کو پورا کرنے کے لئے تیار ہیں، جب وہ آپ ﷺ کے پاس آیا تو آپ ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی، اس نے کہا کہ پھر سنائیے، آپ نے دوبارہ سنایا تو وہ جا کر کہنے لگا:

”وَاللَّهِ مَا فِيْكُمْ رَجُلٌ أَعْلَمُ بِالْأَشْعَارِ مِنِّي، وَلَا أَعْلَمُ بِرَجَزٍ وَلَا بِقَصِيدَتِهِ مِنِّي، وَلَا إِشْعَارٍ لِجِنٍّ، وَاللَّهِ مَا يُشْبِهُ اللَّذِي يَقُولُ شَيْئًا مِنْ هَذَا“

اللہ کی قسم تم میں کوئی مجھ سے زیادہ اشعار جانے والا نہیں ہے، اور تم میں سے کوئی مجھ سے زیادہ قصیدوں اور رجز کو جانے والا نہیں ہے، اور تم میں سے کوئی جنوں کے اشعار کو جانے والا نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ کلام ان میں سے کسی کے مشابہ نہیں ہے، بعض روایتوں میں ہے کہ وہ کہنے لگا:

”إِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةً وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلَاوَةً، وَإِنَّهُ لَمُثْمِرٌ أَعْلَاهُ مُغْدِقٌ أَسْفَلَهُ، وَإِنَّهُ لَيَعْلُوُ وَمَا يُعْلَى، وَإِنَّهُ لَيَحْطِمُ مَا تَحْتَهُ وَمَا يَقُولُ هَذَا بَشَرٌ“ (دلائل النبوة: ۱۰۵، ومستدر کی حاکم: ۳۸۷۲)

”خدا کی قسم اس میں ایک خاص حلاوت ہے اور اس کے اوپر ایک خاص رونق اور نور ہے اس کی جڑ سے شاخیں اور پتے نکلنے والے ہیں اور شاخوں پر پھل لگنے والے ہے یہ کسی انسان کا کلام ہرگز نہیں ہو سکتا“ پھر کہنے لگا:

”دَعْنِي حَتَّى أُفَكِّر، فَلَمَّا فَكَرَ قَالَ: هَذَا سِحْرٌ يُؤْثِرُ، يَا نُرَّهُ مِنْ غَيْرِهِ“

مجھے سوچنے دو، چنانچہ تھوڑی دیر سوچ کر کہنے لگا کہ یہ جادو ہے، جس کا اثر دوسروں میں منتقل

کیا جا رہا ہے۔ (الجامع الصحیح للسنن والمسانید: ۲۸۳ / ۱۳)

جس آدمی پر ٹرست کر کے اس کی ذہانت اور اس کی فہم کے پیش نظر اس کو بھیجا گیا تھا وہ خود اس کلام کو سن کر حیرت میں پڑ گیا، کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہنے لگا کہ یہ جادو ہے۔

خطبہ میں آیتِ مذکورہ کی ابتداء کب اور کیوں ہوئی؟

چونکہ یہ آیت خطبہ میں پڑتی جاتی ہے اس لئے اس کی جامعیت اور فضیلت سے متعلق چند باتیں ذکر کی گئیں، اور آیت میں کیا کیا مضامین ہیں انشاء اللہ وہ بھی بیان کئے جائیں گے، لیکن اس سے قبل ایک بات اس آیت سے متعلق یہ ذہن میں رکھیں کہ کیا اس آیت کی تلاوت آپ ﷺ کے زمانے میں کی جاتی تھی، یا بعد میں اس کی ابتداء ہوئی؟ اگر بعد میں اس کی ابتداء ہوئی تو کیوں ہوئی؟ اور کیا یہ بدعت نہیں ہے؟

اس کا جواب علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دیا ہے کہ دراصل بنو امیہ کے خلفاء سنہ (۴۱ ہجری) جس میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خلافت کو چھوڑ کر حضرت امیر معاویۃ رضی اللہ عنہ سے صلح کی تھی) سے لے کر سنہ ۹۹ ہجری یعنی سلیمان بن عبد الملک کے زمانہ کے آخر تک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو منبروں پر برا بھلا کہتے تھے، یہ بات تو طے ہے کہ بنو امیہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے تھے، لیکن سنہ ۴۲ ہجری سے ۹۹ ہجری تک منبروں پر خطبہ کے دوران یہ عمل کچھ قابل تامل ہے، غرض جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ ہوئے تو ان کے اس طرز کو بند کیا، اور اپنے نائبین کے پاس یہ لکھ کر بھیجا کہ خطبے میں اس آیت: ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيَ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ کی تلاوت کی جائے، تاکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ لوگوں کی نظر میں قائم رہے، اور لوگ ان پر لعن و طعن اور سب و شتم سے رک جائیں، چنانچہ ان کے کہنے پر اس بے ہودہ روانج کا خاتمه

ہوا، اور اس آیت کی تلاوت کی جانے لگی، اور اس وقت سے خطباء اپنے خطبوں میں اس آیت کی تلاوت کرنے لگے، اور ابھی تک بھی اس پر عمل جاری ہے۔ (تاریخ الخلفاء: ۱ / ۲۰۱)

نیز یہ قرآن کی آیات میں بہت ہی جامع آیت ہے، شریعت کا ہر مامور اور منکر اس میں داخل ہے، صحابہ تو صحابہ کفار بھی اس کا اقرار کرتے تھے، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس کا ذکر گزر چکا ہے، اس لئے اس پس منظر میں اس کی ابتداء کی گئی اور اب تک امت پر اس کا عمل ہے۔

(تفسیر نسفی: ۱۷۶/۲)

لیکن یہ سنت نہیں ہے، حضور ﷺ کے زمانے میں اس کی تلاوت نہیں کی جاتی تھی، اگر ہم اس کو سنت کہیں اور آپ ﷺ سے ثابت مانیں تو یہ بدعت ہو گا، کیونکہ بدعت کی حقیقت ہے غیر ثابت کو ثابت ماننا، غیر دین کو دین کا حصہ بنانا اور اسے لازمی قرار دینا، اور غیر سنت کو سنت سمجھنا، لیکن ہم تو نہ اس کو سنت کہتے ہیں اور نہ آپ ﷺ سے ثابت مانتے ہیں، اور نہ خطبوں میں اس کے پڑھنے کو ضروری قرار دیتے ہیں، اس لئے یہ کیسے بدعت ہو گا؟

یہ چند باتیں خطبے میں پائے جانے والے مضامین وغیرہ سے متعلق عرض کی گئیں، انشاء اللہ چند جمیوعوں تک ان مضامین کو کچھ تفصیل کے ساتھ سنا یا جائے گا، تاکہ ہمیں بھی پہتہ چلے کہ خطیب کیا پڑھتے ہیں اور کیوں پڑھتے ہیں، اور ہم کیا سنتے ہیں؟ اور کیا سمجھتے ہیں؟ اور کتنا اس پر عمل کرتے ہیں؟ اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)



خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں؟

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نواں الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تحریک: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، جمادی الثانی ۱۴۳۷ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیوں؟

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيئِمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ امَّا بَعْدُ۔

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَوْدَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذِلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ“ (الجمعة: ٩)

”اے ایمان والوجب جمعہ کے روز نماز (جمعہ) کے لئے اذان کہی جایا کرے تو تم اللہ کی یاد (یعنی نماز و خطبہ) کی طرف (فوراً) چل پڑا کرو اور خرید و فروخت (اور) اسی طرح دوسرے مشاغل جو نماز کیلئے جانے سے مانع ہوں) چھوڑ دیا کرو۔ یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اگر تم کو کچھ سمجھ ہو (کیونکہ اس کا نفع باقی ہے اور بیع و غیرہ کافی)“

برادران اسلام!

اس جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے خطبہ ثانیہ میں خلفاء راشدین کے ذکر سے متعلق چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے، بہت سے لوگوں کے دلوں میں یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا نبی ﷺ نے اپنے خطبہ میں خلفاء راشدین کا نام لیتے تھے؟ کیا کبھی صحابہ اپنے خطبوں میں یہ

نام لیتے تھے، جب ان کا ثبوت ہی نہیں ہے تو جمیع کے خطبہ میں کیوں خلفاء راشدین کا ذکر کیا جاتا ہے؟ اس کی ابتداء کب ہوئی؟ کیوں ہوئی؟ کیسے ہوئی؟ اس سے متعلق چند باتیں ذہن میں رکھنا چاہئے۔

کیا خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر بدعت ہے؟

پہلی بات یہ ہے کہ اہل حق علماء میں سے کوئی اس کی سنت کا قائل نہیں ہے، بلکہ سب اس کو مستحسن اور مستحب کہتے ہیں۔ ہاں اگر اس کو سنت کہا جائے اور نبی ﷺ سے ثابت مانا جائے تو یہ بدعت شمار ہو گی، لیکن سنت کا اعتقاد رکھے بغیر اس کو وقت کی ضرورت اور ان خلفاء اور اہل بیت کی عظمت اور محبت کو دل میں برقرار رکھنے کے لئے اس کا ذکر کیا جائے تو مستحب اور مستحسن اور باعثِ اجر و ثواب ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کی بے شمار فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، اور ہمارے اس معاشرہ میں چند جاہل ان خلفاء کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہیں جس سے شبہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کے دل میں نفاق تو نہیں ہے، وہ ان صحابہ کے بارے میں بدگمانی پھیلاتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں، ان پر لعن طعن کرتے ہیں، حتیٰ کہ کچھ ان کو کافر تک قرار دیتے ہیں اور ان کی یہ باتیں فرمانِ نبی اور شہادت رسول کے خلاف بلکہ صحابہ، اللہ اور رسول سے بعض کی علامت ثابت ہوتی ہیں، احادیث میں نبی ﷺ نے تو ان کے لئے جنتی ہونے کی اور مقتاہ ہونے کی شہادت دی ہے، قرآن ان کے پاکیزہ اور ہدایت یافتہ ہونے کی شہادت دے رہا ہے اور اللہ پاک ان کے تقویٰ اور طہارت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اپنی رضا کا پروانہ ان کے حق میں سنارہے ہیں، اور ان کی شان میں آیاتِ قرآنیہ نازل کی جا رہی ہیں، اور احادیث مبارکہ ان کی اتباع اور ان کی سنتوں کو اپنانے کا حکم دے رہی ہیں، اور ان سے بعض رکھنے، ان کو گالی دینے، ان کو تکلیف دینے ان کو برا بھلا کہنے کو اللہ اور اس کے رسول کو گالی دینے اور اللہ اور رسول کو برا بھلا کہنے کے مراد ف قرار دے رہی ہیں، اور ادھر ان مقدس صحابہ کے بارے میں کچھ بد دینوں اور جاہلوں کی زبان درازی ”وَلَعْنَ آخِرٍ هُذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا“ کی مصدقہ ہے، اس لئے اس پس منظر

میں خطبوں میں ان خلفاء کا ذکر مناسب بلکہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اور اس کی شرعی حیثیت پر روشنی ڈالنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔

خطبہ میں خلفاء راشدین کے ذکر کی ابتداء کب اور کیوں ہوئی؟

اس کی باضابطہ ابتداء حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انہیں کے حکم سے ہوئی، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ یہ نقل کی ہے کہ ایک طرف توبوامیہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو خطبوں میں سنہ ۷۱ ھجری سے ۹۹ ھجری یعنی سلیمان بن عبد الملک کے زمانے کے آخر آخرون تک برا بھلا کہتے تھے، اور ان کو خلافت کا مستحق ہی نہیں سمجھتے تھے، اور دوسری طرف خوارج حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق بعض پالنے لگے۔ بلکہ ان کو نعوذ باللہ کافر قرار دینے لگے، اور تیسری طرف ان میں سب سے بدتر اور شر پسند روا فاض حضرات شیخین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرنے لگے، اور حد درجہ آگے برہتے ہوئے حضرات شیخین کو کافر قرار دینے لگے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں اتنا غلو کرنے لگے کہ ان کو شیخین سے افضل قرار دینے لگے، اور اور تینوں خلفاء کو برا بھلا کہنے لگے، ان پر تہمتیں اور الزمات لگانے لگے، بلکہ کچھ توحد کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی الوہیت کے قائل ہو گئے، اس لئے جب حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ آیا، اور وہ خلیفہ ہوئے تو باضابطہ اپنے اطراف و اکناف میں ناسیبین اور گورنریس کو یہ تحریر لکھ کر بھیجی کہ خطبہ میں خلفاء راشدین کا ذکر کیا جائے، اور اس کے ساتھ بدله میں یہ آیت پڑھی جائے: ”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ“ الخ

تاکہ جو مختلف باطل فرقے ان جلیل القدر خلفاء راشدین کے بارے میں یکچھ اچھال رہے ہیں اور ان کے پاکیزہ نفوس کو مجروح کرنے کی سازش میں ہیں ان کا قلع قلع کیا جاسکے۔ لوگوں میں ان کی وقعت اور عظمت کو برقرار رکھا جاسکے۔ لوگ ان پر لعن طعن اور بد کلامی سے رک جائیں، ان فتنوں کا سد باب ہو، اسلام کی حفاظت ہو، اور آج بھی چونکہ ایسے لوگ، اور ایسا زہن

اور ایسے فرقہ پائے جاتے ہیں، اور ان صحابہ کی محبت میں کمی پائی جاتی ہے، اور ان کی عقیدت دلوں سے جاتی جا رہی ہے، اور ان مقدس ہستیوں پر زبانِ درازی آسان ہو گئی ہے، اس لئے آج بھی اس کی سخت ضرورت ہے کہ ان کا ذکرِ خیر کیا جائے، اور ان فتنوں کا سد باب کیا جائے، اور ان بد دین اور جاہلوں کے منفی خیالات اور ان کی جانب سے پھیلائی جانے والی گمراہی سے امت کو بچایا جاسکے۔ (منہاج السنۃ النبویہ: ۸۰/۳)

علامہ ابن تیمیہ عَلِیٰ بن تیمیہ کا فتویٰ:

اس بارے میں علامہ ابن تیمیہ عَلِیٰ بن تیمیہ کے فتویٰ کا ذکر بھی مناسب معلوم ہوتا ہے، منہاج السنۃ میں ان کا یہ فتویٰ مذکور ہے:

”فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّ الْوَاجِبَاتِ الشَّرُوعِيَّةَ لَا تَقْوُمُ إِلَّا يَأْطُهَا رِذْكُرُ الْخُلْفَاءِ وَأَنَّهُ إِذَا تُرِكَ ذَلِكَ ظَهَرَ شِعَاعٌ أَهْلِ الْبَدِيعِ وَالصَّلَالِ صَارَ مَأْمُورًا بِهِ فَيَمْثُلُ هَذِهِ الْأَحْوَالِ“ (منہاج السنۃ النبویہ لابن تیمیہ: ۷۹/۳)

جب یہ بات مان لی گئی کہ شرعی واجبات قائم نہیں کی جا سکتیں مگر خلفاء کے ذکر سے، اور جب اس کو ترک کیا جائے تو اہل بدعت اور گمراہ لوگوں کے شعائر ظاہر ہوں گے تو ان کا ذکر بھی مامور ہے ہو گا ان جیسے احوال میں۔

خود ابن تیمیہ عَلِیٰ بن تیمیہ نے وقت کی ضرورت کے پیش نظر ان خلفاء کے ذکر کو دین کے شعائر میں سے قرار دے رہے ہیں، لیکن ان جاہلوں کو کون سمجھائے کہ ان کے مقتداوں نے تو اس کو دین کا شعار قرار دیا اور یہ بدعت قرار دے رہے ہیں۔

خطبہ میں خلفاء کے ذکر کی ابتداء صحابہ سے ثابت ہے:

بلکہ ابن تیمیہ عَلِیٰ بن تیمیہ نے لکھا ہے کہ اس کی ابتداء حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہو گئی تھی، اور اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جمعہ کے دن بصرہ کے منبر پر خطبہ کے لئے کھڑے ہوتے تو حضرت عمر کی تعریف کرتے، اور ان کے لئے دعا کرتے، ایک مرتبہ ضبه بن محسن العزی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ عمر رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتے ہیں اور ان کو حضرت ابو بکر صدیق پر فضیلت دیتے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں کرتے؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ضبہ کا مکالمہ:

اس طرح کئی مرتبہ ہوا اور ان دونوں میں جھگڑا ہوا تو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کو خط لکھا اور کہا کہ ضبہ ہم پر لعن طعن کرتا ہے، حضرت عمر نے ان کو مدینہ بھیجنے کا حکم فرمایا، یہ مدینہ آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس داخل ہوئے تو حضرت عمر نے کہا:

”لَامَرْ حَجَابِضَبَّةَ وَلَا أَهْلًا“

ضبہ اور اس کے اہل کے لئے خوشی اور مبارک بادی نہیں ہے، ضبہ نے کہا کہ بہر حال خوشی تو اللہ دینے والا ہے، اور رہی آل کی بات تو میرے پاس آل اور مال نہیں ہے، حضرت عمر نے کہا کہ ”مَا الَّذِي شَجَرَ يَنْتَكَ وَبَيْنَ عَامِلِكَ“؟

تمہارے اور تمہارے گورنر کے درمیان کیا بات ہوئی؟ کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین! بات دراصل یہ ہے کہ جب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ خطبہ دیتے ہیں تو پہلے اللہ پاک کی حمد و شناخت کرتے ہیں، پھر نبی ﷺ پر درود مبارک کہ بھیجتے ہیں، پھر آپ کی تعریف اور آپ کے لئے دعا کرتے ہیں، تو مجھے یہ بات ناگوار ہوئی کہ وہ آپ کا ذکر تو کریں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر چھوڑ دیں، گویا وہ آپ کو حضرت ابو بکر پر فضیلت دے رہے ہیں، بس یہ بات تھی، انہوں نے اس کی شکایت آپ سے کر دی، یہ سنتہ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے: ”أَنْتَ وَاللَّهُ أَوْفُّ مِنْهُ وَأَرْشَدْ مِنْهُ“ اللہ کی قسم تم ان سے زیادہ صحیح ہو، پھر کہنے لگے کہ کیا تم مجھے معاف کر دو گے؟ ضبہ کہنے لگے: کہ اے امیر المؤمنین اللہ پاک آپ کی مغفرت فرمائیں گے۔

ابو بکر کا ایک دن اور ایک رات عمر اور آل عمر سے بہتر ہے:

پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے: ”وَاللَّهِ لِلَّهِ لِلَّهِ مِنْ أَيِّ بَكْرٍ وَرَبِيعٌ خَيْرٌ مِنْ عُمَرٍ وَآلِ عُمَرٍ“

اللہ کی قسم ابو بکر کی صرف وہ ایک رات اور دن عمر اور آل عمر سے بہتر ہے، اس کے بعد کہنے لگے کہ کیا میں تم کو اس رات اور دن کے بارے میں نہ بتاؤں؟ میں نے کہا ضرور اے امیر المؤمنین! ضرور بتلائیے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی حضور ﷺ کے لئے بے چینی:

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ ﷺ مکرمہ سے ہجرت کے لئے نکلے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، کبھی وہ آپ کے آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے، کبھی دائیں چلتے تو کبھی بائیں چلتے، آپ ﷺ نے کہا: ”مَا هَذَا يَا أَبَا بَكْرٍ مَا أَعْرَفُ هَذَا مِنْ فِعْلِنِكَ“

”اے ابو بکر یہ کیا ہے؟ تمہارے عمل کا مطلب میں نہیں سمجھا“

انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! کبھی مجھے راستہ کا خیال آتا ہے تو آپ کے آگے چلتا ہوں اور جب آپ کی فکر ہوتی ہے تو آپ کے دائیں، بائیں اور پیچھے چلتا ہوں، پھر جب آپ چلتے چلتے تھک گئے تو انگلیوں کے اطراف پر چلنے لگے یہاں تک کہ وہ گھس گئے۔

تکلیف پہلے مجھے پہنچے:

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب یہ دیکھا تو آپ کو اپنے کاندھوں پر اٹھالیا، یہاں تک کہ جب غار کے منہ پر آئے تو آپ ﷺ کو اتار دیا، اس کے بعد کہنے لگے:

”وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تَدْخُلُهُ حَتَّى أَذْخُلَهُ فَإِنْ كَانَ فِيهِ شَيْءٌ عَيْنَدَأُبِي قَبَلَكَ“

قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا آپ میرے داخل ہونے سے پہلے مت داخل ہوئے، اگر اس میں کوئی چیز ہو جو نقصان دہ ہو تو وہ آپ سے پہلے مجھ تک پہنچ جائے، جب غار میں داخل ہوئے اور ڈر اور خوف نہ رہا تو آپ کو اٹھایا اور غار میں داخل ہوئے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لئے معیتِ الہی کا پروانہ:

اس غار میں ایک سوراخ تھا، جس میں سانپ تھے، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس کو دیکھا تو اپنی ایڑی وہاں رکھ دی، سانپ نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ڈس دیا، تکلیف کی شدت کی وجہ سے

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آنسو نکل کر بہنے لگے تو نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا تَحْرَجْنُ يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا“ (منهاج السنۃ النبویۃ: ۲۹/۳)

”اے ابو بکر غم مت کرو بے شک اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں“

پھر اللہ پاک نے حضرت ابو بکر کو سکون اور اطمینان عطا فرمایا، بس یہ وہ رات ہے جس کے سامنے عمر اور آل عمر کچھ نہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دین میں تصلب:

رہا ان کے اس ایک دن کی فضیلت کا مسئلہ جو عمر اور آل عمر سے بہتر ہے، تو وہ وہ دن ہے جس دن آپ ﷺ اس دارِ فانی کو رخصت کر کے چلے گئے تو کچھ عرب مرتد ہو گئے، کچھ کہنے لگے کہ ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے، کچھ کہنے لگے کہ ہم زکوٰۃ دیں گے لیکن نماز نہیں پڑھیں گے، میں ان کے پاس آیا، تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ میں کسی کو چھوڑوں گا نہیں، میں نے کہا:

”يَا أَخْلِيقَةَ رَسُولِ اللَّهِ تَالِفُ التَّائِسَ وَارْفُقْ بِهِمْ“

اے اللہ کے رسول کے خلیفہ لوگوں کے ساتھ کچھ نرمی کیجئے، تو حضرت ابو بکر نے مجھ سے کہا:

”أَجَبَارَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَخَوَارِ فِي الْإِسْلَامِ قُبِضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَارْتَقَعَ الْوَحْيُ وَاللَّهُ لَوْمَنَعْوَنَيْ عِقَالًا كَانُوا يُعْطُونَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَاتَتْهُمْ عَلَيْهِ فَقَاتَلُنَا مَعَهُ فَكَانَ وَاللَّهُ رَشِيدُ الْأُمُرِ فَهَذَا إِيَّوْمَهُ“

زمانہ جاہلیت میں تو بڑے بے رحم تھے اور اسلام کے بعد بڑے نرم دل اور پست حوصلہ کا مظاہرہ کر رہے ہو؟ اللہ کے نبی کی روح قبض کر لی گئی، وحی کا سلسلہ ختم ہو گیا، اللہ کی قسم اگر وہ مجھ سے ایک رسی کا ٹکرایا بھی روک دیں گے جو وہ نبی ﷺ کو دیتے تھے تو میں ان سے قتال کروں گا، پھر ہم سب نے مل کر مانعین زکوٰۃ سے قتال کیا، اللہ کی قسم وہ ہدایت یافتہ راہ راست پر قائم، بالغ النظر اور دور رست تھے“ یہ وہ دن تھا جس کے مقابلہ میں عمر اور آل عمر کچھ نہیں۔

پھر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو خط لکھا اور ان کو تنبیہ کی۔ اس واقعہ سے بتلانا یہ ہے کہ صحابہ کے زمانے میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خطبہ ثانیہ میں ذکر کیا جانے لگا تھا، اور غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس تنبیہ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا بھی وہ نام لینے لگے۔ (منهاج السنۃ النبویۃ: ۲۷۷ تا ۲۹۷)

خلفاء راشدین کے اجتماعی فضائل:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بھی قرآن و حدیث میں ان کے مقام اور مرتبہ کے پیش نظر ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کا ذکر کرنے لگے تھے، اور بگمان ابن تیمیہ بعد میں وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر کرنے لگے، اور چونکہ ان فتنوں کا وجود آج بھی ہے، جو ان ناپاک سازشوں میں آج بھی لگے ہوئے ہیں، جب کہ قرآن و حدیث میں ان خلفاء کے فضائل بے شمار ہیں، اس لئے خطبوں میں ان سب کے ذکر کی ضرورت محسوس ہونے لگی، جیسا کہ اس سے پہلے بھی اس کا ذکر کیا گیا، اور اسی بنیاد پر ان کے چند فضائل جو احادیث مبارکہ میں منقول ہیں آپ کے سامنے ذکر کئے جا رہے ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے خلفاء کے اجتماعی طور پر جو فضائل منقول ہیں ان کا ذکر کیا جاتا ہے۔

حضور کی سنت کے ساتھ خلفاء کی سنت بھی لازم پکڑنے کا حکم:

ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: ”عَلَيْكُمْ بِسُنْتِي وَسُنْنَةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيَّينَ الرَّاشِدِيَّينَ تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَصُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوْاجِذِ“ (سنن ابی داؤد: کتاب السنۃ: ۳۶۰۹)

تم میری اور خلفاء راشدین، مہدیین کی سنت کو لازم پکڑو، اور اس کو تحام لو، اور ڈاڑھوں کے ذریعہ اس کو مضبوط پکڑ لو۔

خلفاء راشدین کے لئے حضور ﷺ کی دعا:

ایک اور روایت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”رَحْمَ اللَّهُ أَبَا بَكْرٍ زَوْجِ جَنِيِّ ابْتِتَةَ وَ حَمَلْنِي إِلَى دَارِ الْهِجْرَةِ وَ أَعْتَقَ بِلَالًا مِنْ مَالِهِ رَحْمَ اللَّهُ عُمَرُ يَقُولُ الْحَقُّ وَ إِنْ كَانَ مَرَّاً تَرَكَهُ الْحَقُّ وَ مَالُهُ صَدِيقٌ رَحْمَ اللَّهُ عُثْمَانَ تَسْتَحْيِيهِ الْمَلَائِكَةُ رَحْمَ اللَّهُ عَلَيْهَا أَلَّهُمَّ أَدِرِ الْحَقَّ مَعَهُ حَيْثُ دَارَ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب: ۳۷۱۲)

اللہ ابو بکر رضی اللہ عنہ پر رحم کرے انہوں نے اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دیا اور مجھے دارالحرث (مدینہ) تک سہارا دے کر لائے۔ اور بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے مال سے آزاد کیا۔ اللہ عمر رضی اللہ عنہ پر رحم

کرے وہ سچ کہتے ہیں اگرچہ تلخ ہو، حق نے اس حال میں چھوڑ دیا ہے کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔ اللہ عثمان رضی اللہ عنہ پر رحم کرے ان سے فرشتہ حیا کرتے ہیں۔ اللہ علی رضی اللہ عنہ پر رحم کرے، اے اللہ! حق اسی طرف پھیر دے جس طرف علی رضی اللہ عنہ پھریں۔

حدیث عشرہ مبشرہ:

حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے فرمایا:

أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ وَعُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ وَالزَّبِيرُ فِي الْجَنَّةِ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ أَبُو عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصٍ فِي الْجَنَّةِ وَسَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ فِي الْجَنَّةِ وَأَبُو عَبِيدَةَ بْنَ الْجَرَاحِ فِي الْجَنَّةِ۔ (سنن ابو داؤد: کتاب السنۃ، ۳۶۳۹)

ابو بکر (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور عمر (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور عثمان (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور علی (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور طلحہ (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور زبیر (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور عبد الرحمن بن عوف (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور سعد بن ابی و قاص (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور سعید بن زید (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔ اور ابو عبیدۃ بن الجراح (رضی اللہ عنہ) جنت میں جائیں گے۔

یہ چند اجتماعی فضیلیتیں ان خلفاء کی ہیں، اس کے علاوہ انفرادی طور بھی ان کے بے شمار فضائل مردی ہیں۔ چنانچہ افضلیت کی ترتیب کے اعتبار سے ہر خلیفہ کے چند فضائل ذکر کئے جا رہے ہیں۔

فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ:

حضور ﷺ کے سب سے زیادہ محبوب:

حضرت عمرو بن ابو العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے غزوہ ذات السلاسل کے موقع پر اللہ کے نبی ﷺ سے کہا! اے اللہ کے نبی ﷺ! آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اور ان کے سوال کا سبب یہ تھا کہ آپ ﷺ نے ایک سری یہ میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما

کی موجودگی میں حضرت عمر بن عاصی رضی اللہ عنہ کو سردار لشکر بنایا تو ان کو خیال ہوا کہ شاید حضور مجھے سب سے زیادہ چاہتے ہیں، اس لئے انہوں نے سوال کیا کہ آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ نے فرمایا: ”عائشہ“، پھر میں نے کہا کہ ”منَ الرِّجَالِ“ مردوں میں کون سب سے زیادہ محبوب ہیں؟ آپ نے فرمایا: ”أَبُوهَا“ ان کے باپ یعنی ابو بکر۔ (صحيح

بخاری: کتاب فضائل الصحابة: ۳۶۶۲)

امت پر سب سے زیادہ مہربان:

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَرْحَمُ أُمَّتِي يَأْمُتِي أَبُو بَكْرٍ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۲۱۵۹)

میری امت میں سب سے زیادہ میری امت پر مہربان ابو بکر (رضی اللہ عنہ) ہیں۔

حوض کوثر پر حضور ﷺ کے یار کون؟

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ارشاد فرمایا:

”أَنْتَ صَاحِبِي فِي الْغَارِ وَصَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۳۰۳۳)

تم غار میں میرے ساتھ رہے اور حوض کوثر پر بھی میرے ساتھ رہو گے۔

ابو بکر کے ہوتے ہوئے دوسرے کو امامت زیبا نہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایک روایت میں فرماتی ہیں، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا يَنْبَغِي لِقَوْمٍ فِيهِمْ أَبُو بَكْرٌ أَنْ يَوْمَ مَهْمُ عَيْرَةٌ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۲۰۳۶)

جس جماعت میں ابو بکر (رضی اللہ عنہ) موجود ہوں اس کے لیے زیبا نہیں کہ ابو بکر (رضی اللہ عنہ) کے سوا کوئی دوسرا اس کی امامت کرے۔

حضور کے بعد کس سے رجوع ہوں؟

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی ﷺ کے پاس آئی اور

آپ ﷺ سے اس نے کسی معاملہ میں گفتگو کی آپ ﷺ نے اس کو حکم دیا کہ وہ لوٹ جائے،

پھر اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے بعد میں آؤں، اور آپ کونہ پاؤں یعنی آپ کی وفات ہو جائے تو کس کے پاس جاؤں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ يُنْهِيَ فَأُتْهِيَ أَبَا بَكْرٍ۔ (صحیح مسلم: فضائل الصحابة، ۶۳۳۰) اگر تو مجھے نہ پائے تو پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس جانا۔

اہل جنت کے سردار:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بن ابی طالب سے روایت ہے کہ رسول خدا ﷺ نے فرمایا:

أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ سَيِّدَا الْمُهُولِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَا خَلَا النَّبِيِّنَ وَالْمُرْسَلِينَ۔ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۲۰۲۸)

ابو بکر (رضی اللہ عنہ) اور عمر (رضی اللہ عنہ) جنت کے بڑی عمر والوں کے سردار ہیں سوائے انبیاء و مرسلین کے۔

اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جنت میں جو لوگ بڑی عمر کے ہوں گے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے سردار ہوں گے، اس لیے کہ جنت میں کوئی بڑی عمر کا نہ ہو گا، سب نوجوان ہوں گے بلکہ مطلب یہ ہے کہ جس وقت یہ حدیث ارشاد فرمائی گئی اس وقت جو مستحقین جنت بڑی عمر کے تھے ان کے سردار ہوں گے۔ ایسا ہی مطلب اس حدیث کا بھی ہے جس میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حضرات حسین بن علیؑ جو انانِ جنت کے سردار ہوں گے۔

انبیاء کے بعد سب سے بہتر کون؟

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا:

خَيْرُ الْأُمَّةِ بَعْدَنِيَّهَا أَبُو بَكْرٌ عَنْهُمْ عُمَرٌ عَنْهُمْ۔ (مسند احمد: مسند علی، ۸۲۶۔ صحیح بخاری: ۳۶۷۱)

اس امت میں نبی کے بعد سب سے بہتر ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں پھر عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں:

كُنَّا نَحْسِيرَيْنَ النَّاسَ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَنَحْسِيرَ أَبَا بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ۔ (صحیح بخاری: فضائل الصحابة، ۳۶۵۵)

ہم لوگ رسول اللہ ﷺ کے زمانے میں آپ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سب سے افضل قرار دیتے تھے، پھر ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔

اور مج姆 طبرانی میں یہ روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ اس مقولہ کو سنتے تھے اور انکار نہ فرماتے تھے۔ (فتح الباری: ج ۷، ص ۱۲)

تمام زمین والوں کا ایمان ابو بکر کے ایمان کے سامنے پیچ ہے:

”لَوْزِنَ إِيمَانُ أَبِي بَكْرٍ يَا إِيمَانُ أَهْلِ الْأَرْضِ لَرَجَحَ بِهِمْ“ (شعب الایمان: ۶۳)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر تمام اہل زمین کے ایمان کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان کے ساتھ وزن کیا جائے تو ابو بکر کا پلڑا جھک جائے گا اور وہ سب سے وزنی ہو گا۔

یہ چند فضائل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہیں، اس کے بعد چند فضائل حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پیش ہیں۔

فضائل حضرت عمر رضی اللہ عنہ فاروق:

شیطان حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھتا تو راستہ بدل دیتا:

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

یَا ابْنَ خَطَّابٍ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا تَقِيكَ الشَّيْطَانُ سَالِكًا فَجَأَقْطَعَ إِلَّا سَلَكَ فَجَأَغْيَرَ فَجَأَكَ (صحیح بخاری: فضائل الصحابة، ۳۶۸۳)۔ وَفِي التَّرْمِذِيِّ إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ (سن

ترمذی: کتاب المناقب، ۳۰۵۳)

اے ابن خطاب رضی اللہ عنہ! قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ شیطان جب تم کو کسی راستے میں چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس راستہ کو چھوڑ کر دوسرے راستے پر چلنے لگتا ہے۔ اور ترمذی کی روایت میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ اے عمر! بیشک شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کسی بات میں شیطان کا دخل نہیں ہو سکتا، یہ صفت اگر عصمت نہیں تو ظل عصمت ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔

اس فرمانِ نبی کو دیکھئے، کہ حضرت عمر کے بارے کیا ارشاد فرمایا ہے ہیں؟ اور آج کے بعض جاہل اور زندیق نوؤذ باللہ حضرت عمر کو بدعتی اور ان کی سنتوں کو بدعت کہنے لگتے ہیں!

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا محل:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیوی زمیصاء رضی اللہ عنہا کو دیکھا اور میں نے کسی کے چلنے کی آواز سنی تو پوچھا یہ کون ہے؟ فرشتوں نے کہا یہ بلال رضی اللہ عنہ ہیں۔ اور میں نے ایک محل وہاں دیکھا جس کے صحن میں ایک لوئنڈی تھی، تو پوچھا یہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے کہا عمر بن خطاب کا ہے، میرا رادہ ہوا کہ اس محل کو اندر جا کر دیکھوں مگر مجھ کو اے عمر تمہاری غیرت کا خیال آگیا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا:

”بَأَيِّقُّ أَنْتَ وَأَمْيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْلَمُكَ أَعْلَمُ“ (صحیح بخاری: کتاب بدائل الخلق، ۳۲۴۲)

یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں کیا میں آپ کے اوپر غیرت کرتا؟

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دین کی شہادت:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک دن فرمایا: بَيْنَا آنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ النَّاسَ يَعْرَضُونَ عَلَيَّ قُمْصٌ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ الثَّدَىٰ وَمِنْهَا مَا ذُوَنَ ذَلِكَ وَعِرْضُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلَيْهِ قَمِيصٌ يَجْرُّهُ قَالُوا: فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَلَدِينَ۔ (صحیح بخاری: کتاب الایمان، ۲۳)

میں سورہ تھا اور لوگ میرے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں اور لوگ قمیص پہنے ہوئے ہیں کسی کا قمیص پستان تک ہے اور کسی کا اس سے کچھ بیچا اور عمر بن خطاب جو میرے سامنے لائے گئے تو ان کا قمیص اتنا بیچا تھا کہ چلنے میں زمین پر گھستتا جاتا تھا تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ! اس کی تعبیر آپ نے کیا لی؟ فرمایا دین!

معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سر اپا دین تھے ان کا دین ان کی ہستی سے بھی زائد تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

لَقَدْ كَانَ فِيْمَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْأُمَمِ مُحَدَّثُونَ فَإِنْ يُكُنْ فِيْ أُمَّتِي أَحَدٌ فَإِنَّهُ عُمَرٌ۔ (صحیح بخاری: کتاب

احادیث الانبیاء، ۳۳۶۹)

تم سے پہلے کی امتوں میں کچھ لوگ محدث ہوتے تھے یعنی حق تعالیٰ کی طرف سے ان پر الہام ہوتا تھا، یا فرشتے سے ہم کلامی انہیں نصیب ہوتی تھی، میری امت میں اگر کوئی ایسا ہے تو یقیناً وہ عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ (شرح نووی علی مسلم: ۱۵: ۱۶۶)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم حضور کی زبانی:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سن اس حال میں کہ میں سورہ تھاب مجھے ایک جام دودھ کا دیا گیا، میں نے پیا، ”حَتَّى إِنِّي لَا رَيْأَ إِلَّا يَخْرُجُ مِنْ أَطْرَافِي“ یہاں تک کہ سیرابی کو میں نے دیکھا کہ میرے ناخنوں سے نکلنے لگی پھر میں آپ نے اس کی کیا تعبیری؟ تو آپ ﷺ نے اپنا بچا ہوا عمر بن خطاب کو دے دیا، لوگوں نے کہا: ”فَمَا أَوْلَتْ ذَلِكَ يَارَسُولَ اللَّهِ“ یا رسول اللہ فرمایا کہ علم! (صحیح بخاری: کتاب التعبیر، ۷۰۰)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عمر رضی اللہ عنہ علم دین میں بڑی فوقیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ علم کے دس حصوں میں سے نو حصے لے گئے، کسی نے کہا ابھی اجلہ صحابہ رضی اللہ عنہ موجود ہیں اُن کے ہوتے ہوئے آپ ایسا کہتے ہیں؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ علم نہیں مراد لیتا ہوں جو تم سمجھتے ہو بلکہ علم باللہ مراد لیتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک کنویں پر کھڑا ہوں اور اس پر ڈول رکھا ہے میں نے اس کنویں میں سے جس قدر ڈول خدا کو منظور تھے نکالے پھر ابو بکر نے اس ڈول کو لے لیا اور انہوں نے ایک ڈول بلکہ دو ڈول اس کنویں سے نکالے اور ان کے نکالنے میں کچھ کمزوری تھی اللہ ان کی کمزوری کو معاف کرے پھر وہ ڈول پر ہو گیا اس کو عمر نے لے لیا، میں نے کسی طاقتو ر انسان کو نہیں دیکھا کہ عمر کی طرح پانی بھر سکتا ہو، یہاں تک کہ تمام لوگ سیراب ہو گئے۔ (صحیح بخاری: فضائل الصحابة، ۳۶۷۶)

حضرت عمر کی حق گوئی کی شہادت:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرَ وَ قَلْبِهِ وَ فِي رِوَايَةِ أَبِي دَاؤِدْ قَالَ إِنَّ اللَّهَ وَ ضَعَفَ الْحَقَّ عَلَىٰ لِسَانِ عُمَرٍ يَقُولُ بِهِ۔ (سنن ترمذی کتاب المناقب، ۳۰۳۶، سنن ابی داؤد: کتاب الخرج، ۲۹۶۳)

اللہ نے عمر کی زبان اور ان کے دل پر حق کو قائم کر دیا ہے اور ابو داؤد میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر حق رکھ دیا ہے وہ جو کہتے ہیں حق ہوتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ ہم لوگ اس بات کو بعید نہ سمجھتے تھے کہ سکینہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر بولتا ہے۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَكَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ۔ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۳۶۸۶)
اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ عمر بن خطاب ہوتے۔

حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں سے اٹھیں گے:

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز گھر سے باہر نکل کر مسجد تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے، ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب اور دوسرے بائیں جانب تھے اور آپ ان دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”هَكَذَا نَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ کہ ہم تینوں قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۳۰۳۲)

حضور کے دو وزیر:

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

مَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَزَرَ إِنْ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ وَوَزِيرٌ إِنْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَإِنَّمَا وَزِيرًا إِنْ مِنْ أَهْلِ السَّمَاءِ فَجِبْرِيلُ وَمِيكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيرًا إِنْ مِنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَأَبُوبَكْرٌ وَعُمَرٌ۔ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۳۰۳۲)

کہ ہر نبی کے دو وزیر آسمان والوں میں سے ہوتے ہیں اور دو وزیر زمین والوں میں سے میرے دو وزیر آسمان والوں میں جبرائیل و میکائیل ہیں اور دو وزیر زمین والوں میں سے ابو بکر و عمر ہیں۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے چند فضائل پیش ہیں۔

فضائل حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ:

فرشتہ بھی عثمان سے حیا کرتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا:

”الَا اسْتَحِي مِنْ رَجُلٍ تَسْتَحِي مِنْهُ الْمَلَائِكَةُ“ (الادب المفرد: کتاب المریض، ۶۰۳)

کہ میں اس شخص سے کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتہ حیا کرتے ہیں۔

جنت میں نبی کے رفیق:

حضرت طلحہ بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقٌ فِي الْجَنَّةِ عُثْمَانُ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۳۰۶۳)

ہر نبی کے کچھ رفیق ہوتے ہیں اور میرے رفیق جنت میں عثمان رضی اللہ عنہ ہیں۔

آج کے بعد عثمان کے لئے کوئی گناہ نقصان دہ نہیں:

حضرت عبد الرحمن بن سمرة رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ غزوہ تبوک کے موقع پر سامان جمع فرمائے تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آپ کے پاس ایک ہزار اشرفیاں لائے اور آپ ﷺ کی گود میں ڈال دیں، پس میں نے نبی ﷺ کو دیکھا کہ آپ ان اشرفیوں کو الٹتے پلٹتے تھے اور فرماتے تھے ”مَا ضَرَّ عُثْمَانَ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۳۰۶۶) کہ عثمان کو اب کچھ نقصان نہیں ہو سکتا، آج کے بعد جو چاہیں کریں دو مرتبہ یہی فرمایا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی پیشیں گوئی:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ ایک دن اُحد پہاڑ پر چڑھے اور آپ ﷺ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ اور عثمان رضی اللہ عنہ تھے، پہاڑ ملنے لگا تو آپ ﷺ نے

اپنے پاؤں سے اس کو اشارہ کیا، اور فرمایا: ”أَتَبْثُ أَحَدًّا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِيقٌ وَشَهِيدٌ“ اے احمد ٹھہر جاتیرے اوپر ایک نبی اور ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ (صحیح بخاری: فضائل الصحابة، ۳۶۷۵)

خلفاء نلادہ کے لئے جنت کی شہادت:

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نبی ﷺ کے ہمراہ تھا، مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں آپ ﷺ تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے اجازت چاہی، تو نبی ﷺ نے فرمایا: ”إِذْنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ“ کہ ان کو اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری سنادو میں نے دروازہ کھول دیا اور دیکھا کہ ابو بکر تھے، میں نے ان کو رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق خوشخبری سنادی، انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، پھر ایک شخص اور آیا اور اس نے اجازت چاہی تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ انہیں بھی اجازت دے دو، اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنادو چنانچہ میں نے دروازہ کھول دیا اور دیکھا تو وہ عمر رضی اللہ عنہ تھے میں نے ان کو بھی رسول اللہ ﷺ کے ارشاد کے مطابق خوشخبری سنادی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر اور ایک شخص آیا اور اس نے دروازہ کھلوایا، آپ ﷺ نے فرمایا: ”إِذْنُ لَهُ وَبَشِّرُهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلُوئِ تُصِيبَةِ“ ان کو اجازت دے دو، اور ان کو بھی جنت کی خوشخبری سنادو ایک مصیبت پر جوان کو پہنچے گی، وہ عثمان رضی اللہ عنہ تھے میں نے ان کو بھی نبی ﷺ کے ارشاد کے مطابق خوشخبری سنادی انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا پھر کہا کہ اللہ میری مدد کرے۔ (صحیح بخاری: فضائل الصحابة: ۳۶۷۳)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جانب سے حضور ﷺ کی بیعت:

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے بیعت الرضوان کا حکم دیا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے قاصد بن کر مکہ گئے ہوئے تھے کہ لوگوں نے بیعت شروع کی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”إِنَّ عُثْمَانَ فِي حَاجَةٍ إِلَهُ وَحْاجَةٌ رَسُولُهُ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الْأُخْرَى فَكَانَتْ يَدُرَسُوْلِ

الله وَآلِهِ وَسَلَامٌ لِعُثْمَانَ خَيْرٌ أَمِنٌ أَيْدِيهِمْ لَا نَفْسِهِمْ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۲۰۶۷)

بے شک عثمان اللہ اور اس کے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں، پھر آپ ﷺ نے اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پر مارا اور فرمایا کہ یہ بیعت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہے پس رسول اللہ ﷺ کا ہاتھ جو عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے بیعت کے لیے تھا لوگوں کے ہاتھوں سے بہتر تھا۔

تینوں خلفاء کیلئے خلافت کی پیشین گوئی:

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے:

”كَانَ مِيْزَانًا نَّزَلَ مِنَ السَّمَاءِ فُوزِنَتْ أَنْتَ وَأَبُوكَرٌ فَرِجَحْتَ أَنْتَ وَفُوزِنَ أَبُوكَرٌ وَعُمَرٌ فَرِجَحَ أَبُوكَرٌ وَفُوزِنَ عُمَرٌ وَعُثْمَانُ فَرِجَحَ عُمَرٌ ثُمَّ رُفِعَ“ (سنن ابو داود: کتاب السنۃ: ۳۶۳)

گویا ایک ترازو آسمان سے اتری اور آپ ﷺ اور ابو بکر رضی اللہ عنہ تو لے گئے تو آپ کا وزن زیادہ رہا، ابو بکر و عمر تو لے گئے تو ابو بکر کا وزن زیادہ رہا، اور عمر اور عثمان تو لے گئے تو عمر کا وزن زیادہ رہا، پھر وہ ترازو اٹھا لی گئی۔ اس خواب کو سن کر رسول اللہ ﷺ نجیدہ ہوئے اور فرمایا: ہذہ خلافۃ نبیوٰ تھی میوتی اللہ الملک من یشانع۔

یہ خلافتِ نبوی ہے، اس کے بعد اللہ جس کو چاہے گا بادشاہت دے گا۔

اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے چند فضائل پیش ہیں۔

فضائل حضرت علی رضی اللہ عنہ:

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا رتبہ:

حضرت سعد بن ابی و قاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: اماماً ترَ ضَى أَنْ تَكُونَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى“ (صحیح بخاری: فضائل الصحابة، ۳۰۶)

کہ تم میری طرف سے اس مرتبہ پر ہو جس مرتبے پر ہارون موسیٰ کی طرف سے تھے مگر بات یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہو گا۔

حضرت علی سے بعض نفاق کی علامت ہے:

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ”وَالَّذِي فَقَقَ الْحِبَةَ وَبَرَأَ النَّسْمَةَ أَنَّهُ لَعَهْدَ النَّبِيِّ الْأَمِيمِ صلوات اللہ علیہ وسلم إِلَيَّ أَنْ لَا يُحِبِّنِي الْأَمْوَمُونَ وَلَا يُبَغِّضُنِي الْأَمْنَافِقُ“ (صحیح مسلم: کتاب الایمان، ۲۹۳)

”قسم ہے اس کی جس نے دانے کو پھاڑ کر درخت نکالا اور جان کو پیدا کیا، نبی امی صلوات اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ مجھ سے وہی محبت کرے گا جو مومن ہو گا اور مجھ سے وہی بعض رکھے گا جو منافق ہو گا۔

حضرت علی کے لئے اللہ اور رسول کی جانب سے محبت کا پروانہ:

سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کے دن فرمایا:

”لَا عَطِيَّنَّ هَذِهِ الرَّاِيَةَ عَدَارٌ جُلَالًا يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَىٰ يَدِيهِ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ“

کل میں یہ جھنڈا یسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھوں پر اللہ فتح دے گا وہ شخص اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہو گا، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتا ہو گا، پھر جب صحیح ہوئی تو لوگ رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے سب لوگ اس بات کی امید رکھتے تھے کہ جھنڈا اُس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، مگر آپ صلوات اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: آئیں علیٰ بُنْ آئی طَالِبٍ؟ لوگوں نے کہا کہ ان کو آشوب چشم ہے، آپ صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کو بلواد چنانچہ وہ لائے گئے، ”فَبَصَقَ رَسُولُ اللَّهِ صلوات اللہ علیہ وسلم فِي عَيْنِهِ فَبَرَأَ حَتَّىٰ كَانُ لَمْ يَكُنْ بِهِ وَجْهٌ فَأَعْطَاهُ الرَّاِيَةَ“ (صحیح بخاری: کتاب المغازی، ۲۲۱۰)

تور رسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلم نے اُن کی آنکھوں میں اپنا العاب دہن لگادیا تو وہ اچھے ہو گئے، گویا کہ کوئی تکلیف تھی ہی نہیں، پھر آپ صلوات اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھنڈا دیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام مومنین کے مولیٰ ہیں:

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلوات اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”إِنَّ عَلَيًّا مِنِي وَأَنَا مِنْهُ

وَهُوَ وَلِيُّ كُلِّ مُؤْمِنٍ“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۷۰۷)

کہ علی میرے ہیں اور میں اُن کا ہوں اور وہ تمام مومنوں کے محبوب ہیں۔

حضرت علیؑ کے لئے حضور ﷺ کی دعا اور تمنا:

حضرت ام عطیہؓ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر کھیس بھیجا جس میں حضرت علیؑ بھی تھے تو میں نے رسول اللہ ﷺ کو ہاتھ اٹھائے ہوئے یہ دعا مانگتے سنما: ”اللَّهُمَّ لَا تُثْمِنْنِي حَتَّى تُرِينِي عَلَيْأً“ (سنن ترمذی: کتاب المناقب، ۲۱۰۲) کہ یا اللہ مجھے موت نہ دینا جب تک علیؑ کو (واپس آتا) نہ دیکھ لو۔

حضرت علیؑ کی شان میں افراط اور تفریط کی پیشیں گوئی:

حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا:

”فِينَكَ مَثُلٌ مِّنْ عِيسَى أَبْغَضَتُهُ الْيُهُودُ حَتَّى يَهُؤُدُ أُمَّةً وَ أَحَبَّتُهُ النَّصَارَى حَتَّى أَنْزَلُوهُ بِالْمَنْزِلَةِ الَّتِي لَيَسَّرَتْ لَهُ“
کہ تم میں کچھ مشابہت عیسیٰ کی ہے اُن سے یہودیوں نے بعض کیا یہاں تک کہ ان کی ماں پر بہتان لگایا اور نصاری نے اُن سے محبت کی یہاں تک کہ ان کو اس مرتبہ پر پہنچا دیا جس پر وہ نہ تھے پھر حضرت علیؑ نے فرمایا کہ:

”يَهِلْكُ فِيَرْجُلَانِ مُحِبٌ مُفْرِطٌ يُقَرِّظُنِي بِمَا لَيْسَ فِيَ وَمُبِغْضٌ يَحْمِلُهُ شَانِي عَلَى أَنْ يَبْهَتَنِي“ (مسند احمد: مسند علی، ۱۳۹۲)

”میرے متعلق دو قسم کے لوگ ہلاک ہوں گے ایک محبت میں غلوکرنے والا جو میری ایسی تعریف کریگا جو مجھ میں نہیں ہے اور دوسرا بعض رکھنے والا کہ میری عداوت اس کو میرے اوپر بہتان لگانے پر آمادہ کرے گا“

اس قول سے معلوم ہوا کہ اہل سنت کا جو اعتقاد آپؑ کے متعلق ہے وہی حق ہے، حضرت علیؑ کی شان میں افراط اور تفریط سے بچنا چاہئے، خوارج اور روافض یہ دو فرقے ایسے ہیں جنہوں نے یا تو افراط کیا یا تفریط، اور دونوں ہی ہلاک ہوئے۔ خوارج نے ان سے عداوت کی یہاں تک کہ اُن کے ایمان کا ہی انکار کر دیا، اور روافض نے اُن کی شان میں اتنا غلو کیا کہ ان

کے ایک فرقہ نے ان کو خدا ہی مان لیا، اور نبی سے آپ کو افضل قرار دیا، اور آپ ﷺ کی نبوت کا انکار کر دیا۔ یہ خلفاء راشدین کی فضیلت سے متعلق چند احادیث مبارکہ نقل کی گئی ہیں، جن سے آپ کو اندازہ ہوا ہو گا کہ ان خلفاء کا شریعت میں کیا مقام ہے؟ اور اللہ اور رسول کے ہاں ان کی کتنی عظمت اور اہمیت ہے؟ اور اللہ اور رسول کے ہاں ان کا علم، ان کا دین، ان کا تقویٰ اور اللہ اور رسول کا ان پر اعتماد کتنا ہے؟ اور ان خلفاء کی شان میں گستاخی کرنا، ان پر بچھڑاچھالنا اور ان پر تنقید کرنا کتنا برآ ہے؟ اور ان کی تردید کتنی ضروری ہے؟ اور ان کے مقام و مرتبے کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا کتنا ضروری ہے؟

سیرت عمر بن عبد العزیز حَمْدَةُ اللَّهِ:

اب حضرت عمر بن عبد العزیز حَمْدَةُ اللَّهِ کی سیرت مبارکہ سے متعلق، اور فقهاء و محدثین کے نزدیک ان کا مقام اور مرتبہ، ان کا تقویٰ و طہارت سے متعلق چند باتیں ذکر کی جائیں ہیں، کیونکہ خطبہ میں ان خلفاء راشدین کے ذکر کی ابتداء دراصل حضرت عمر بن عبد العزیز حَمْدَةُ اللَّهِ ہی نے کی ہے، اس لئے آپ کی سیرت اور آپ کی فقاہت، آپ کا تقویٰ اور طہارت، اور آپ کی علمی اور عملی حیثیت کے بارے میں علماء اور محدثین کے چند اقوال کا ذکر مناسب معلوم ہوتا ہے۔ تاکہ آپ کی جانب سے اس فعل کی ابتداء کی اہمیت کو سمجھا جاسکے۔

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ اجل تابعین میں سے ہیں، صحابہ کرام سے آپ نے بالراست روایات بیان کی ہیں، اور آپ سے ابن شہاب زہری حَمْدَةُ اللَّهِ اور علامہ ابن حزم حَمْدَةُ اللَّهِ نے روایات نقل کی ہیں، (فتح الباب فی الکنی والالقاب: ۱/۲۰۹، ۲۱) ۶۱ ہجری میں پیدا ہوئے اور ۹۹ ہجری یا بقول بعض ۱۰۱ ہجری میں ماہ رب جمجمہ آپ کی وفات ہوئی۔ فن حدیث کی تدوین کا سبب خود آپ تھے، آپ ہی نے سب سے پہلے حدیث کی تدوین کا حکم دیا تھا، جس کی تکمیل ابن حزم اور ابن شہاب زہری حَمْدَةُ اللَّهِ نے کی ہے، (التعديل والتجریح: ۳/۶۱) تقریباً تمام ہی محدثین نے آپ سے روایتوں کو نقل کیا ہے۔ اور تمام علماء نے آپ کے نجح کو اختیار کیا۔ اور آپ کی ڈھائی

سالہ خلافت کو دیکھ کر آپ کو عمرِ ثانی کہا جانے لگا، اور آپ کی خلافت کو خلافتِ راشدہ سے تعبیر کیا جانے لگا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آپ کی خلافت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرح قرار دیتے تھے، (التاریخ الاوسط للبخاری: ۳۱۷) اور آپ کا عدل و انصاف ایسا تھا کہ آپ کے زمانے میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے، محمد ابن عینہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی بکریوں کو حضرت عمر بن عبد العزیز کی خلافت میں جہاں چڑھاتے تھے وہاں بھیڑیے اور درندے بھی چرتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن ایک وحشی جانور نے ایک بکری پر حملہ کر دیا تو ہم نے کہا: ”مَا أَرَى الرَّجُل الصَّالِح إِلَّا قَدْ هَلَكَ“ کہ ایسا لگتا ہے کہ اس نیک آدمی کا آج انتقال ہو گیا، (الطبقات الکبریٰ: ۳۸۷) اور ان کے زمانے میں زکوٰۃ کی ادائیگی اور غرباء کو ان کا حق دینے اور ان میں مال کی تقسیم کا ایسا نظام تھا کہ اس زمانے میں زکوٰۃ لینے والا نہیں ملتا تھا۔ اور یہ تعریف شاعروں کی طرح مبالغہ آمیز نہیں بلکہ مبنی بر حقیقت ہے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں علماء و محدثین کے اقوال:

امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں کہا: ”هُوَ إِمَامُ الْهُدَى وَأَنَا أَقْتَدُ بِهِ“ (كتاب المدخل: ۲۵/۲)

”وَهُوَ إِمَامُ الْهُدَى ہیں اور میں ان کی اقتداء کرتا ہوں“

میمون بن مهران آپ کے بارے میں کہتے ہیں:

”كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مُعَلِّمَ الْعُلَمَاءِ“ (التعديل والتجریح لمن خرج له البخاری فی الجامع الصحیح: ۹۳۱/۳)

”عمر بن عبد العزیز علماء کے استاذ ہیں“

سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے بارے میں کہا:

”الْخُلَفَاءُ خَمْسَةٌ: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرٌ وَعُثْمَانٌ وَعَلَيٌّ وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ“ (سنن ابی داؤد: کتاب السنۃ: ۳۶۳۳)

”خلفاء پانچ گزرے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور عمر بن عبد العزیز“

ایک اور جگہ سفیان ثوری سے منقول ہے:

”كَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ مِنْ أَئِمَّةِ الْهُدَى“ (مقدمة الجرح والتعديل: لابن ابی حاتم: ۱/۲۸)

اور وہ بابن منبه فرماتے ہیں:

”إِنْ كَانَ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مَهْدِيٌّ فَهُوَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ“

اگر امت میں کوئی اور مہدی ہوتا تو وہ عمر بن عبد العزیز ہوتے۔

ابو بکر ابن عیاش کہتے ہیں:

”وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ شَفَةً مَأْمُونًا، لَهُ فِقْهٌ وَعِلْمٌ، وَوَرَعٌ، وَرَوَى حَدِيثًا كَثِيرًا، وَكَانَ إِمَامَ

عَدْلٍ رَحْمَةُ اللَّهُ وَرَضِيَ عَنْهُ“ (تکملۃ الطبقات الکبریٰ: ۹۲/۹)

عمر بن عبد العزیز ثقہ تھے، مامون تھے، ان کے پاس فقه تھا، درع تھا، اور بہت سی احادیث بیان کی ہیں، اور وہ امام عادل تھے، اللہ ان پر رحم کرے اور ان سے راضی ہو جائے۔
امام احمد ابن حنبل عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اس کہتے ہیں کہ عمر بن عبد العزیز عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اس صدی کے مجدد تھے۔

(موسوعۃ اقوال امام احمد: ۱۹۷/۶)

ابو قلابہ کہتے ہیں کہ مجھ سے دس صحابہ نے کہا کہ حضرت عمر بن عبد العزیز عَنْ عَبْدِ اللَّهِ کی نماز حضور ﷺ کی نماز کے مشابہ تھی۔ (الکامل فی ضعفاء الرجال: ۲۰۳) یہی قول حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی مردی ہے۔

خلیفہ وقت اور احتیاج:

مسلمہ بن عبد الملک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عمر بن عبد العزیز کی عبادت کے لئے گیاتو ان پر ایک ہی میلی کچیلی قمیص تھی، تو میں نے ان کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک سے کہا: ”آلا تَعْسِلُونَ قَمِيصَةً؟ کہ اس قمیص کو دھو کیوں نہیں دیتیں؟ وہ کہنے لگیں: وَاللَّهِ مَا لَهُ قَمِيصٌ غَيْرَهُ“ کہ اللہ کی قسم ان کے پاس اس قمیص کے علاوہ کوئی اور قمیص ہی نہیں ہے۔

امیر المؤمنین اور فکر آخرت:

عون بن معمر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز اپنی بیوی کے پاس داخل ہوئے اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ! کیا تمہارے پاس ایک درہم ہے جس سے میں انگور خرید سکوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر ساتھ ہی کہنے لگیں کہ آپ تو امیر المؤمنین ہیں، اور آپ کے پاس ایک

درہم بھی نہیں ہے کہ انگور خرید سکیں؟ کہنے لگے: ”هَذَا أَهْوَنُ عَلَيْنَا مِنْ مُعَالَجَةِ الْأَعْلَالِ غَدَافِيَ جَهَنَّمَ“ کہ یہ میرے لئے آسان ہے اس بات سے کہ کل جہنم میں مجھے طوق میں جکڑ دیا جائے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی احتیاط کے دو واقعے:

حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام سے کہا کہ ان کے لئے پانی گرم کرے، وہ گیا اور عام لوگوں کے مطخ سے ایک قمقم (تانبے کے گھڑے) میں پانی گرم کر کے لایا، عمر بن عبد العزیز نے حکم دیا کہ ایک درہم کی لکڑی خرید کر اس مطخ میں رکھ دی جائے، تاکہ پانی گرم کرنے میں عوام کا جو خرچ ہوا اس کا حساب چکتا کیا جائے، اور کل قیامت میں ان کی حق تلفی کے الزام میں نہ پکڑے جائیں۔ (الطبقات الکبریٰ: ۶۸۳۳)

”كَانَ عُمَرُ يَسِرُ بِحِلَالِهِ الشَّمْعَةَ مَا كَانَ فِيهِ حَوَائِجُ الْمُسْلِمِينَ فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حَوَائِجِهِمْ أَطْفَاهَا ثُمَّ أَشَرَّ بَحِلَالِهِ سِرَاجَةَ“ (الطبقات الکبریٰ: ۶۸۳۴)

عمر بن مہاجر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبد العزیز مسلمانوں کی ضروریات کے لئے شمع روشن کرتے تھے، جب گ کی ضروریات سے فارغ ہو جاتے تو اس کو بحادیتے اور اپنا چراغ جلا دیتے۔ تاکہ لوگوں کا مال اپنی ذات کے استعمال میں نہ آئے۔

یہ خلفاء راشدین کی اہمیت اور عظمت اور اللہ اور اللہ کے عبیب کی نظر میں ان کے مقام و مرتبہ سے متعلق چند احادیث مبارکہ اور حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور ان کے بارے میں علماء و محدثین کے چند اقوال ذکر کئے گئے، تاکہ ان کی اس سنت اور ان کے اس اقدام کو بدعت کا نام نہ دیا جائے، اللہ پاک ہم کو صحیح سمجھ اور صحیح فہم کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان خلفاء کی اہمیت اور عظمت کو ہمارے دلوں میں برقرار رکھے، اور باطل فرقوں سے اور ان کی گمراہیوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اور دین پر چلنے میں اپنے سلف کے نجح کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)



عدل کے تقاضے

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تحریق: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، جمادی الاولی ۱۴۳۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

عدل کے تقاضے:

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهَ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهَ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اَمَّا بَعْدُ۔

فَاعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ
يَعِظُّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (النحل: ٩٠)

”بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی
برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت
فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“

برادرانِ اسلام!

اس آیت کی فضیلت اور اس کی جامیعت اس سے قبل آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اب اس
کی مختصر تشریح بھی سن لیں۔

عدل کسے کہتے ہیں؟

سب سے پہلی بات جو اس آیت میں ذکر کی گئی وہ عدل ہے، عدل و انصاف اسلام کی بنیادی تعلیمات
میں سے ہیں، اس کو قرآن نے دوسرے لفظ میں قسط سے بھی تعبیر کیا ہے، سورہ رحمن میں ہے:

”وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ“ (الرحمن: ١٠)

اور انصاف (اور حق رسانی) کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت۔

عدل لغت میں ہر شئی میں افراط اور تفریط، کمی اور زیادتی کے بغیر برابری کرنا اور ہر چیز میں اعتدال، میانہ روی اور درمیانی را اختیار کرنے کا نام ہے۔ (تفسیر خازن: ۲۰۳/۳)

عام طور پر ہم اس کا ترجمہ انصاف سے کرتے ہیں، یہ صحیح ہے، لیکن اس کا دائرہ ہم بالکل محدود کر لیتے ہیں کہ صرف ظلم اور جھگڑے وغیرہ کا موقعہ ہی اس کا محل سمجھتے ہیں، جب کہ اس کے مفہوم میں بہت زیادہ وسعت ہے۔ مفسرین نے اس کی کئی تفسیریں لکھی ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں عدل سے مراد توحید اور کلمہ شہادت کا اقرار ہے۔ (ابن کثیر: ۵۹۵/۳)

عدل کی حقیقت:

لیکن تقاسیر میں اس کی ایک مختصر اور جامع تفسیر لکھی ہے:

”إِعْطَاءُ الْحَقِّ إِلَى صَاحِبِهِ“ (التحریر والتنویر: ۲۵۳/۱۳)

”صاحب حق کو اس کا حق دینا“۔ چاہے وہ خالق ہو یا مخلوق ہو، اور مخلوق میں اپنی ذات ہو، یا اپنی ذات کے علاوہ دوسرے انسان ہوں، پھر اس مخلوق کی دو قسمیں ہیں، ذوی العقول جیسے جنات اور انسان، اور غیر ذوی العقول جیسے جانور، سب اس کے عموم میں داخل ہیں، سب کے حقوق ادا کرنا عدل ہے اور ان میں کمی کوتاہی کرنا ظلم ہے، اور ایسے ہی ہر معاملہ میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرنا اور افراط و تفریط سے بچنا عدل ہے اور اس کے خلاف کرنا ظلم ہے۔

سعادت کے چار بنیادی امور:

حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سعادت کی چار بنیادیں ہیں، اگر کسی کو یہ چار چیزیں حاصل ہو جائے تو اس کو سعادت مل جائے گی، اور ہر بندے کو یہی کوشش کرنی چاہیے کہ اسے سعادت کی یہ بنیادیں حاصل ہو جائیں، ان میں سے پہلی چیز طہارت ہے، اسلام میں سب سے اہم چیز جس کو ترجیح دی گئی وہ طہارت ہے۔ دوسری چیز اخبارت ہے، اخبارت کے معنی ہیں فرمانبرداری کرنا، نرم ہو جانا، سیر نذر ہو جانا، بات مان لینا، طبیعت میں تواضع ہونا۔ تیسرا چیز سماحت ہے، سماحت شجاعت کے مقابلہ میں ہے، یعنی سماحت سخاوت کو کہتے ہیں،

لیکن سماحت جب مالیات میں ظاہر ہو تو سخاوت ہے لیکن وہی سماحت جب اخلاقیات میں آئے تو وہ عفت ہے، مختلف اعتبارات سے اس کے مختلف نام ہیں، وہ ایک مرکزی وصف ہوتا ہے، خلاصہ اس کا قربانی اور جذبہ ایثار ہے۔ چو تھی چیز عدالت ہے، جس کا ذکر قرآن پاک کی اس آیت میں ہے۔

غرض اس امت میں اعتدال کی تعلیم ہے، اور یہ اعتدال ہر چیز میں مطلوب ہے، عبادات ہوں یا عقائد، معاملات ہوں یا معاشرت، اخلاقیات ہوں یا سیاست، اقوال ہوں یا اعمال۔ اپنوں کے ساتھ ہو یا غیروں کے ساتھ، ہر چیز میں اعتدال مطلوب ہے، اور اعتدال کا مطلب یہ ہے افراط اور تفریط کے بغیر ان چیزوں کو ان کے حقوق کے ساتھ ادا کرنا۔

عقائد میں اعتدال:

عقائد میں عدل یہ ہے کہ عقیدہ توحید اختیار کیا جائے، نہ فرقہ معطلہ کی طرح باری تعالیٰ کے بے کار اور مخلوق کے ساتھ عدم تعلق کا عقیدہ رکھا جائے اور نہ مشرکین کی طرح باری تعالیٰ کی ذات یا صفات اور افعال میں کسی کو شریک سمجھا جائے، ایسے ہی تقدیر کے مسئلہ میں بندوں کو نہ مجبور محض مانا جائے اور نہ مختار محض سمجھ کر تقدیر ہی کا انکار کر دیا جائے۔ (روح المعانی: ۲۷۹، ۱۰۱)

نبی کو اعمال میں اعتدال کا حکم:

ایسے ہی اعمال میں بھی اعتدال کی تعلیم ہے، نہ افراط کی گنجائش ہے اور نہ تفریط کی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے جب عبادات میں مبالغہ کیا تو اللہ پاک نے سورہ طہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائیں، ابتداء میں رسول اللہ ﷺ تمام رات عبادت کے لئے کھڑے رہتے اور نماز تہجد میں تلاوت قرآن میں مشغول رہتے تھے یہاں تک کہ آنحضرت ﷺ کے قدیم مبارک پروردم آجاتا تھا، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی:

”طَهَ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَعِي“ (طہ: ۲۰، ۲۱)

کہ ہم نے آپ پر قرآن اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت اور تکلیف میں پڑ جائیں۔

اعمال میں تفریط پر تنبیہ:

دوسری طرف جب لوگ بہت زیادہ کامیل ہو گئے تو یہ تنبیہ فرمائی:

”أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبْثًا“ (المؤمنون: ١١٥)

سو کیا تم خیال رکھتے ہو کہ ہم نے تم کو بنایا کھیلنے کو اور تم ہمارے پاس پھر کرنہ آؤ گے؟ (تفسیر

(رازی: ۳۵۳/۹)

مال خرچ کرنے میں اعتدال:

ایسے ہی مال خرچ کرنے میں قرآن کی یہ ہدایت ہے:

”وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً“

اللہ کے مقبول بندوں کی صفت مال خرچ کرنے میں یہ ہوتی ہے کہ ”وہ جب خرچ کرنے لگتے ہیں تو نہ فضول خرچ کرتے ہیں اور نہ تنگی (بخل) کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا اس (افراط و تفریط) کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے“

مال خرچ کرنے میں اعتدال کا فائدہ:

ویسے بھی مال خرچ کرنے میں اعتدال کا بہت فائدہ ہوتا ہے، حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ

سے روایت ہے، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:

”مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ“ (شعب الانیمان: ٦٢٩، باب الاقتتصاد فی النفقۃ و تحریم اکل المال الباطل)

یعنی جو آدمی مال خرچ کرنے میں میانہ روی اور اعتدال پر قائم رہتا ہے تو وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا۔

امتِ محمدیہ کی خصوصیت:

یہ اعتدال کی چند مثالیں ہیں۔ اسی اعتدال کی وجہ سے اللہ پاک نے اس امت کا نام امت وسط رکھا۔ اور اس کو امت محمدیہ کی خصوصیت قرار دیا، قرآن مجید میں اللہ پاک نے اس کا نام امت وسط بتایا ہے:

”وَكَذِلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَّةً وَسَطًا“ (القرۃ: ۱۳۳)

”اور ہم نے تم کو ایک ایسی جماعت بنادیا ہے جو (ہر پہلو سے) نہایت اعتدال پر ہے“
گذشتہ مذاہب اور ادیان میں وہ اعتدال نہیں تھا، جتنا اس امت میں ہے، نہ اس میں زیادہ سختی رکھی گئی ہے اور نہ زیادہ نرمی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں سختی:

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت زیادہ سختی تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بہت زیادہ نرمی تھی، لیکن اس امت میں اعتدال کی تعلیم ہے، اسی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اگر کوئی کسی کو قتل کرتا تو قصاص لازم تھا، مقتول کے اولیاء کو معاف کرنے یا دیت لینے کا حق نہیں تھا، ایسے ہی عورتوں کے ناپاکی والے ایام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اتنا سخت حکم تھا کہ ان سے نہ صحبت جائز تھی اور نہ ان کا پکایا ہو اکھانا وغیرہ جائز تھا۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نرمی:

دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں قتل کا بدلہ قصاص یا دیت نہیں تھی بلکہ معافی تھی، ایسے ہی ان کی امت میں حائضہ کا کھانا تو دور کی بات ہے اس سے صحبت بھی جائز تھی۔

امتِ محمدیہ کا اعتدال:

لیکن اللہ پاک نے اس امت میں اعتدال رکھا کہ قتل کا بدلہ قصاص بھی رکھا، لیکن اگر اولیاء مقتول دیت لینا چاہیں یا معاف کرنا چاہیں تو اس کا بھی اختیار دے دیا، ایسے ہی حائضہ عورتوں سے صحبت تو جائز نہیں رکھی، لیکن ان سے بالکل دور ہونے اور اجنبیت کا احساس دلانے کی اجازت بھی نہیں دی، بلکہ ان کا پکایا ہوا کھانے کو اور ان کے ساتھ سونے کو جائز قرار دیا اور ایک حد تک ان سے استمتاع کی بھی اجازت دے دی لیکن ان سے صحبت جائز نہیں رکھی گئی۔

یہ امتِ محمدیہ کی خصوصیت ہے، اس میں اعتدال کو بنیاد بنا یا گیا ہے، اسی وجہ سے جو اسلامی تعلیمات اور ہدایات ہیں ان سب میں آپ کو عدل ہی نظر آئے گا، اور اگر آپ اسلامی تعلیمات سے ہٹ جائیں تو اس میں آپ کو عدل نظر نہیں آئے گا۔

عدل کی ضد:

عدل کی جو ضد ہے وہ ظلم ہے، اور ظلم کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا:

”وَمَا رَبُّكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيدِ“ (فصلت: ٣٦)

”اور آپ کا رب بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے“

اس لئے رب نے جو علوم دے ہیں، اور جو تعلیمات دی ہیں اس میں ظلم نہیں ہو سکتا، اس میں عدل ہی ہو گا، چاہے اس کا نظام انفرادی ہو یا اجتماعی، معاشری نظام ہو یا سیاسی نظام ہو، معاشرتی نظام ہو یا اخلاقی نظام ہو، سب عدالت پر منی ہیں۔

ظلم کی حقیقت:

ہم ظلم کے مفہوم میں بھی بہت تنگی کر دیتے ہیں، مارپیٹ، لڑائی جھگڑا اور گالی گلوچ ہی کو ظلم سے تعبیر کرتے ہیں، لیکن صرف اس کا نام ظلم نہیں ہے، بلکہ ظلم کہتے ہیں:

”وَضُّعُ الشَّيْءَ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ“ شئی کو اس کے غیر محل میں رکھنا۔

یعنی چیز کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اور اس کا جو محل ہے، اور اس کا جو حق ہے وہ اس کو نہ دینا۔ اب اس کے عموم میں ساری چیزیں داخل ہیں، جس چیز کے حق میں کمی کوتا ہی ہو اس کے ساتھ وہ ظلم ہے، اس کو اس کا مقام نہ دینا ظلم ہے، اس کو جیسے استعمال کرنا چاہئے ویسا استعمال نہ کرنا ظلم ہے، اس کی رعایت نہ کرنا ظلم ہے۔

سب سے بڑا ظلم:

اور سب سے بڑا ظلم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، قرآن پاک میں ہے:

”إِنَّ الْشَّرِكَ لِظُلْمٌ عَظِيمٌ“ (آل عمران: ١٣)

”بے شک شرک کرنا بڑا بھاری ظلم ہے“

سب گناہ تو معاف ہو جائیں گے لیکن شرک کبھی معاف نہیں ہو گا:

”إِنَّ اللَّهَ لَا يَعْفُرُ أَنْ يُشَرِّكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشَرِّكُ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَ إِثْمًا عَظِيمًا“ (النساء: ٢٨)

”بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو نہ بخشنیں گے کہ ان کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیا جائے اور اس کے سوا اور جتنے گناہ ہیں جس کے لیے منظور ہو گا وہ گناہ بخش دیں گے اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہٹھرا تا ہے وہ بڑے جرم کا مرتكب ہوا“

شرک سب سے بڑا گناہ کیوں؟

اگر کوئی کسی کا قتل کر دے تو اللہ پاک اس کو بخش دیں گے، لیکن شرک اور کفر کو کبھی نہیں بخشنیں گے، یہ سزا کیوں؟ اس لئے کہ انسان اللہ کو اللہ کا حق نہیں دے رہا ہے، اللہ کے حق میں وہ عدل نہیں بلکہ ظلم کرتا ہے، کیونکہ ظلم کہتے ہیں ”وَصُنُعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَحِلِّهِ“ کو، یعنی شئی کو اس کے غیر محل میں رکھنا، یہاں چونکہ انسان مخلوق کو خالق کی جگہ میں رکھ دیتا ہے، اور خالق کو مخلوق کے برابر قرار دیتا ہے اس لئے یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔

اللہ کی نافرمانی اللہ کے ساتھ ظلم ہے:

جب یہ بات واضح ہو گئی کہ ظلم کہتے ہیں کسی چیز کو اس کا حق نہ دینے کو، تو اسی سے یہ بات بھی سمجھ جائیں کہ اللہ کی نافرمانی کرنا بھی ظلم ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لڑائی ہو، جھگڑا ہو، مارپیٹ ہو اور اس میں کسی کو دبایا جا رہا ہو تو وہ ظلم ہے، یہ بھی ظلم ہے، لیکن ظلم کا یہ ایک حصہ ہے، ہم نماز پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ پڑھتے ہیں: ”اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمَتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا“

”اے اللہ میں نے اپنے اوپر بہت ظلم کیا“

اور نماز کے بعد کہتے ہیں: ”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا“

”اے ہمارے رب ہم نے اپنے نفسوں پر بہت ظلم کیا“

ہم یہاں اپنے ظلم کا اقرار کیوں کرتے ہیں؟ جب کہ ہم نے نہ لڑائی کی، نہ جھگڑا کیا، نہ مار پیٹ کی، اگر ہم ظالم نہ ہوتے تو ”رِبَّنَا ظَلَمْنَا“ کیوں کہتے ہیں؟ اور ”اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظَلَمْتُ كَثِيرًا“ کیوں کہتے ہیں؟ ہر نماز میں اسے پڑھتے ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ ہم معاصی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم سے ایسی حرکتیں ہوتی ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کی اور بندوں کی حق تلفی ہوتی رہتی ہے، کہیں خالق کے حقوق ادا نہیں ہوتے ہیں تو کہیں مخلوق کے، کہیں معاشرت تباہ اور بر باد ہے تو کہیں معاملات گڑ بڑ ہیں، کہیں بیوی بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو کہیں بڑوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کہیں ماں باپ کے ساتھ بد سلوکی ہو رہی ہے تو کہیں بھائی بہنوں کا حق دبایا جا رہا ہے، کہیں پڑوسیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کہیں رشتہ داروں کو بھولا جا رہا ہے۔ اس لئے ہم اس کو پڑھتے ہیں کہ اے اللہ! ہم سے ظلم ہوتے رہتے ہیں، آپ ہمیں معاف فرمادیجئے۔

حضرت آدم علیہ السلام کا نسیان بھی ظلم تھا:

حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی، اور بھول کر انہوں نے جنت کا پھل کھایا تھا، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو کر انہیں دنیا میں بھیج دیا، وہ دعا کرنے لگے:

”رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا نَنْكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (الاعراف: ٢٣)

اے ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو یقیناً ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔

کیا یہاں انہوں نے کسی کو مارا تھا، یا گالی دی تھی، یا لڑائی جھگڑا کیا تھا، نہیں، بس حکم خداوندی کو بھول گئے تھے، یہی ان کی خطا تھی، یہی ان کا ظلم تھا، تو ظلم کہتے ہیں حقوق کی عدم رعایت کو، یا اس میں کمی اور کوتاہی کو۔ چاہے وہ خالق کے ہوں یا مخلوق کے۔ اس لئے اللہ کی اطاعت نہ کرنا بھی ظلم ہے، ان کی بندگی نہ کرنا بھی ظلم ہے۔

اللہ ہی کی عبادت کیوں؟

کیونکہ بندگی ان کا حق ہے، اور ہم کو بندگی ہی کے لئے پیدا کیا گیا، اور اسی نے ہم کو پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں، اور وہی ہمارا مالک ہے، سب اسی کی ملکیت میں ہیں، اور ہمارے جسم کے ذرہ ذرہ کا وہ مالک ہے، ہم کو ہمارے ماں باپ نے نہیں خریدا ہے، بلکہ اس ذات نے ہم کو پیدا کیا ہے:

”أَنَّمَا تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ“ (الواقعہ: ۵۹)

تو آدمی تم بناتے ہو یا (اس کے) بنانے والے ہم ہیں؟

بتاؤ جب تم رحم مادر میں منی ٹپکاتے ہو تو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تم کو کیا پتہ کہ پیٹ میں کیا ہو رہا ہے؟ بچہ دانی میں کیا ہو رہا ہے؟ نہ عورت کو پتہ ہوتا ہے اور نہ مرد کو، پھر اس سے اللہ پاک ایک انسان کو وجود بخشتے ہیں، وجود دینے کے بعد پھر اس کو باقی رکھتے ہیں، اور ہر ہر لمحہ ہزاروں نعمتوں سے نوازتے رہتے ہیں، جسم کا ہر ہر ذرہ، خون کا ہر قطرہ، ہر ہر رگ، گوشت اور پوست کا ہر ہر ذرہ، ہڈی، دل اور دماغ پڑھے ہر ہر چیز اور ان سب کا نظام اپنے وجود میں اپنی بقا میں اپنے نفع میں اور نقصان سے حفاظت میں اللہ کا محتاج ہوتا ہے، جسم اسی کا ہے، ماں اسی کا ہے، ساری نعمتیں اسی کی ہیں، سارے احسانات اسی کے ہیں، کوئی چیز حقیقت کسی انسان کی نہیں۔

پنج الوہیت:

سب کے خالق اور مالک اللہ ہیں، اور سب کے حاکم اور رب اللہ ہیں، اور جس ذات میں یہ صفات ہوں وہی لاکن عبادت اور لاکن استعانت ہوتی ہے، اسی لئے اللہ ہی لاکن عبادت ہے، اسی لئے مدد اور استعانت بھی اسی سے چاہنا چاہئے۔ ان پانچ چیزوں کو صوفیہ کی اصطلاح میں پنج الوہیت کہتے ہیں، اسی لئے اس کی نافرمانی جائز نہیں ہے۔ بچپن ہو یا جوانی، ادھیر عمر ہو یا بڑھاپا، بیماری ہو یا تندرستی، خوشی ہو یا غم اسی کے حکم کو ماننا پڑے گا، اور اس کے حکم سے سرمو انحراف اس کے ساتھ ظلم ہو گا۔

اپنے نفس کی رعایت نہ کرنا بھی ظلم ہے:

جیسے اللہ کے ساتھ یہ معاملہ ہے ایسے ہی مخلوق کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے، مخلوق کے حقوق میں کمی کوتا، ہی بھی ظلم ہے، بلکہ انسان کو اپنی ذات پر بھی ظلم سے روکا گیا ہے، اور ذات کی رعایت نہ کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور اس کی ذات کے ساتھ بھی عدل کی تعلیم ہے، ذات سے عدل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے ذات کو نقصان پہنچے، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں، جس عمل سے نقصان ہو یا جس عمل سے حقوق میں کمی کوتا، ہی ہو وہ ذات کے ساتھ ظلم ہو گا۔

حضرت عبد اللہ بن عمر و بن عاص رضی اللہ عنہما کا قصہ:

اسی وجہ سے حدیث میں ہے:

”فَإِنَّ لِجَسِيدِكَ عَلَيْكَ حَقًا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًا“ (صحیح بخاری: کتاب النکاح: ۵۱۹۹)

”بے شک تیرے جسم کا تجوہ پر حق ہے اور تیری آنکھوں کا تجوہ پر حق ہے“

واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے کا نکاح کیا، چند دن بعد بھوکے پاس آئے اور بھوک سے پوچھا کہ تمہارا شوہر کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بہت نیک آدمی ہے، رات بھر سوتا نہیں ہے، عبادت میں مصروف رہتا ہے، اور دن بھر روزہ رکھتا ہے، وہ سمجھ گئے کہ بیٹا بھوک کا حق ادا نہیں کر رہا ہے، اس کی خبر نبی ﷺ کو دی، تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ سو، کیونکہ آنکھوں کا بھی حق ہوتا ہے، نیند کی ان کو ضرورت ہوتی ہے، اس کا لحاظ کرنا چاہئے، بدن کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی رعایت کرنی چاہئے، بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، ان کو ادا کرنا چاہئے۔

اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اتنا زیادہ بھی عبادت میں مشغول نہیں ہونا چاہیئے کہ بدن کا حق ادا نہ ہو، پتہ چلا کہ اپنے نفس کے ساتھ اور بدن کے ساتھ بھی زیادتی اور ان کے حق میں کمی کوتا، ہی درست نہیں ہے۔

اور نہ اتنا زیادہ آرام اور اتنا زیادہ نفس کی رعایت کہ آخرت کو بھول جائیں یہ بھی جائز نہیں ہے، دنیا میں تو مزے میں ہیں، ہر طرح کا آرام اور سہولتیں مہیا ہیں، اور اسی میں وہ مستی کر رہا ہے، بد عملی، عیاشی اور فحاشی میں مبتلا ہے، اور آخرت کی کوئی پروا نہیں ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ اسے اپنی بد عملی کا انجمام دیکھنا پڑے گا، جہنم میں جانا پڑے گا، اپنے اعمال کی سزا بھگلتی پڑے گی، یہ بھی اپنی ذات کے ساتھ ظلم ہے، آج یہاں کوئی اپنی ذات میں اور اس کے حقوق میں کمی کوتا، ہی نہیں ہو رہی ہے لیکن کل قیامت کے دن یہ چیز اس کو جہنم میں لے جائے گی، اور اس کو وہاں جانا پڑے گا، وہاں اس کو سزا ملے گی، اس لئے یہاں کی بد عملی بھی ظلم ہے، اس سے بھی بچنا ہے، تاکہ کل ہمارا نقصان اور خسارہ نہ ہو، اسی وجہ سے ہم کو یہ دعا سکھلانی گئی:

”رَبَّنَا أَظْلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ“ (الاعراف: ۲۳)

”کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر آپ ہماری مغفرت نہ کریں گے اور ہم پر رحم نہ کریں گے تو واقعی ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا“

ہماری معصیت سے اللہ بے نیاز ہیں:

یہاں معصیت کو ظلم کہا گیا، کیونکہ اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، اور ہماری معصیت سے اللہ تعالیٰ پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اور نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان ہوتا ہے، بلکہ اس کا نقصان ہمیں ہی بھگلتنا پڑتا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغْيُكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ“ (یونس: ۲۳)

اے لوگو یہ تمہاری سرکشی تمہارے ہی اوپر (الٹ پڑنے والی) ہے تمہاری سرکشی کا نقصان تمہیں ہی ہو گا، اللہ تو غنی ہیں، اللہ بے نیاز ہیں، نعوذ باللہ ساری دنیا کے انسان مل کر بھی اگر اللہ پاک سے انتہائی بد تمیزی کریں اور بے ہودگی کریں تو اس سے اللہ کی بڑائی میں اور اللہ کی کبریائی میں اور اللہ کی عظمت میں کوئی کمی نہیں آئیگی۔ بلکہ اس کا نقصان خود ہم کو ہونے والا ہے، توجہ ہمیں خود اپنے نفس کے ساتھ عدل کا حکم ہے، اور ظلم سے بچنے

کی تاکید ہے، تو اندازہ لگائیے کہ دوسروں کے ساتھ عدل کی اور ظلم سے بچنے کی کتنی تاکید ہو گی، دوسروں کے حقوق کی کتنی اہمیت ہو گی، اور اسلام میں ہر ایک کے الگ الگ حقوق ہیں، بڑوں کے، چھوٹوں کے، ماں باپ کے، اولاد کے، شوہر کے، بیوی کے، مرد کے، عورت کے، بھائی کے، بہنوں کے، اپنوں کے، پڑوسیوں کے، مسلمانوں کے، غیر مسلموں کے سب کے حقوق ہیں۔

جانوروں کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے:

انسان تو انسان جانوروں کے ساتھ بھی عدل کا حکم ہے، ایک حدیث شریف میں ہے:

”عَذِّبَتْ إِمَّرَأٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسَتْهَا حَتَّىٰ مَاتَتْ جُوْ عَاجْدَ خَلَّتْ فِيهَا النَّارُ“ (صحیح بخاری: کتاب المساقۃ، ۲۲۳۶)

”ایک عورت کو ایک بُلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، جس نے اس بُلی کو باندھ رکھا تھا، یہاں تک کہ وہ بھوک کی وجہ سے مر گئی، اور اس عورت کو جہنم میں داخل کیا گیا“

پتہ چلا کہ جس کسی کے گھر میں بُلی ہو اور وہ اس کی صحیح دیکھ بھال نہ کرتا ہو یا جس آدمی کے گھر میں پرندہ ہو اور وہ وقت پر اس کو غذا اور پانی نہ دیتا ہو تو چاہے وہ کتنا ہی نیک کام کرے لیکن وہ گنہگار ہو گا۔ اولاً تو انہیں قید ہی نہیں کرنا چاہئے، اگر انہیں پنجھرہ میں قید کیا جائے تو ان کی غذا اور پانی کا انتظام بھی ضروری ہے، اگر اس کا صحیح انتظام نہ کیا ہو تو وہ گنہگار ہو گا، اور ظالم شمار ہو گا، چاہے اس کے ساتھ کتنے ہی نیک اعمال کا ذخیرہ کیوں نہ ہو۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عدل کے مفہوم میں کتنی وسعت ہے؟ اور یہ کتنا بڑا لفظ ہے؟ اور اس چھوٹے سے لفظ میں کتنی بڑی ذمہ داری ہم پر ڈالی گئی ہے، زندگی کے ہر شعبہ میں اسی اعتدال کی تعلیم دی گئی ہے، باتوں میں اعتدال، کاموں میں اعتدال، خوشیوں میں اعتدال، غم میں اعتدال، کمانے میں اعتدال، خرچ کرنے میں اعتدال، ہر جگہ عدل ہی عدل ہے، پورے دین کا نظام عدالت پر قائم ہے، دین بلکہ دنیا کا بھی نظام عدل پر قائم ہے۔

نظام عالم کے عدل پر قائم ہونے کا مطلب:

ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نظام عالم کے عدل پر قائم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نظام عالم کے عدل پر قائم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم

میں جو چیزیں بنائی ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اعتدال سے بنایا ہے، ان میں افراط اور تفریط نہیں ہے، مثلاً سورج کو اللہ نے بنایا ہے، زمین سے اس کی جتنی مسافت اور دوری ہے اگر وہ اس مقدار سے زیادہ دور ہوتا جتنا کہ اب ہے تو سارے عالم میں ٹھنڈک ہی ٹھنڈک ہوتی اور سارا عالم برف والا ہو جاتا، اور اگر سورج موجودہ مسافت سے زیادہ قریب ہوتا تو گرمی کی شدت کی وجہ سے سارے عالم میں گرمی ہو جاتی اور گرمی کی وجہ سے ہر چیز جل جاتی، ایسے ہی چاند اور ستاروں کا مسئلہ ہے، یہ سب ایک معتدل نظام کے ساتھ چلتے ہیں، اگر اس میں فرق آجائے تو نظام عالم بدل جائے، اور ان کے مصالح فوت ہو جائیں، اور سارا عالم ستیاناس اور فنا ہو جائے۔ یہ مطلب ہے عالم کے عدل پر قائم ہونے کا۔ (تفسیر رازی: ۲۵۳/۶)

عدل کو بھی وزن کیا جائے گا:

ایک اور بات آپ کو بتا دوں، بہت عجیب ہے، میرا ذہن ابھی ادھر منتقل ہوا، امید ہے کہ تفاسیر کی کتب میں وہ مل جائے گی، وہ یہ ہے کہ اللہ پاک قیامت میں اعمال کا جو وزن کریں گے تو وہ انصاف قائم کرنے کے لئے کریں گے، القسط اس کا مفعول لہ ہو گا، لیکن ایک معنی یہ بھی سمجھ میں آتے ہیں کہ اللہ پاک ترازو رکھیں گے تو خود عدل کو دیکھنے کے لئے بھی ترازو قائم کریں گے کہ اس میں کتنا عدل تھا؟ وہ صحیح تھا یا نہیں، اس کی باتوں میں کتنا انصاف تھا؟ اس کے کاموں میں کتنا انصاف تھا؟ اس کی عادتوں میں کتنا انصاف تھا؟ اس کے اخلاق میں کتنا انصاف تھا؟ اس کے حقوق کے جانے میں اور اس پر عمل کرنے میں کتنا انصاف تھا؟ اللہ اور اس کے نبی کے حق کو پہچاننے میں کتنا انصاف تھا؟ اور اس کے دین کے حق کو پہچاننے میں کتنا انصاف تھا؟ جہاں انصاف کیلئے وزن کیا جائیگا، اور ترازو اس کے لئے رکھا جائے گا، ایسے ہی یہ ترازو انصاف کو تو لئے کرنے کے لئے بھی ہو گا۔

آخرت کا پل صراط دنیا میں دین ہے

اب آپ سوچے کہ دین پر عمل کتنا مشکل ہے؟ اسی لئے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخرت کا پل صراط دنیا میں دین ہے، آخرت کا پل صراط بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے

زیادہ تیز ہو گا، اس پر چلنا بہت مشکل ہے، بس ایمان والا ہی اس پر چل سکے گا، لیکن ایمان والا اس وقت چل سکے گا جب دنیا میں وہ دین پر عمل کرے گا، جیسے وہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے ایسے ہی دنیا میں دین پر چلنا بھی اتنا ہی باریک ہے، اب جب دنیا میں اس نازک دین پر چلیں گے تو آخرت میں اس پل پر چلنا آسان ہو گا، اسی وجہ سے جو آدمی دنیا میں پابندی سے نماز پڑھتا ہے اس کو پل صراط پر سے بھلی کی رفتار سے بھی زیادہ تیز رفتار کے ساتھ گذارا جائے گا۔

ایک دیہاتی کا قصہ:

ایک صاحب دیہات والوں کے سامنے بیان کر رہے تھے، بیان میں انہوں نے آخرت کے احوال شروع کر دیئے، اور آخرت کے احوال سناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو کل قیامت میں ایک برج رکھا جائیگا جس کا نام پل صراط ہے، اس کے اوپر سے آدمی کو چلانا پڑیگا اور وہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہے، تب جا کر جنت آئیگی، دیہات کے لوگ تو بھولے ہوتے ہیں کسی نے کہا مولوی جی! یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ جنت دینے کا رادہ ہی نہیں ہے، اس پر کون چل سکے گا؟ اور کون جنت میں جا پائے گا؟ ہاں ابتداء میں آدمی کو مشقت ہوتی ہے، لیکن جب عادت ہو جاتی ہے تو پھر اس پر عمل آسان ہو جاتا ہے، غرض اللہ پاک ہمارے اعمال میں اعتدال دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے درمیانی راہ پر چلیں، اور ذرا بھی ادھر ادھرنہ ہونے پائیں، اور غلط راستے پر نہ پڑ جائیں، اور افراط اور تفریط میں مبتلا نہ ہو جائیں، اس سے اندازہ کجھے کہ یہ ایک آیت کتنی جامع ہے، اور اس کا ایک ایک جملہ کتنا جامع ہے، اور اس کے اندر کتنی معنویت ہے، اور اس میں کتنے مضمون چھپے ہوئے ہیں، سارے دین کو اللہ پاک نے اس ایک جملہ میں سما دیا ہے، اس سے آپ کو قرآن کی جامعیت اور اس کے اعجاز کا بھی اندازہ ہو گا، اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہر چیز میں اعتدال کے ساتھ چلنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)



احسان کسے کہتے ہیں؟

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نواں الرحمن صاحب دامت برکاتہم

ترتیب و تحریق: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی

بقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، جمادی الاولی ۱۴۳۶ھ۔

ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

احسان کسے کہتے ہیں؟

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اَمَّا بَعْدُ۔

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ إِسْمَوَاللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (النحل: ٩٠)

”بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی
برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت
فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“

احسان کی ضرورت:

اس سے قبل عدل سے متعلق کچھ تفصیل آپ کے سامنے عرض کی گئی، اب احسان کے
بارے میں چند باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔ شریعت میں یہ وصف بھی مطلوب ہے، اور لوگوں
میں اس کی بہت زیادہ ضرورت بھی ہے۔ آج ہماری عبادتیں ہو یا معاملات، معاشرت ہو یا
اخلاقیات سب کی سب اس وصف سے خالی ہیں، بلکہ عبادتوں کو تک ہم اس انداز میں ادا کرتے
ہیں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے:

”لوگ کہتے ہیں کہ بس فرض ادا کرنا ہے
ایسا لگتا ہے کوئی قرض لیا ہو رب سے“

ہماری عبادات آج صرف قرض لینے کی طرح ہو گئی ہیں کہ کسی طرح اس کو ادا کر دیا جائے، اور ذمہ سے بری ہو جائیں، اس لئے جیسے تیسے اس کو ادا کر دیتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں، اور کوئی حسن، کوئی زینت، کوئی خوبی، کوئی کمال اس میں ہم پیدا کرنا ہی نہیں چاہتے، ایسا محسوس ہوتا ہے گویا صفتِ احسان سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔

احسان کی تفسیر:

اب سوال یہ ہے کہ احسان کسے کہتے ہیں؟ ہم اردو میں اس کا مطلب نیکی، حسن سلوک، بھلائی، مہربانی، عمل خیر سے بیان کرتے ہیں، لیکن عربی میں احسان کا یہ مفہوم نہیں ہے، بلکہ عربی میں احسان کے اس معنی کے لئے لفظ ”من“ استعمال کیا جاتا ہے، لفظ احسان کے اگرچہ یہ معانی بھی آتے ہیں لیکن زیادہ تر لفظ ”من“ استعمال ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا: ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا أَصْدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِ وَالْأَذَى“ (البقرة: ٢٦٣)

”اے ایمان والو تم احسان جنملا کریا ایذا پہنچا کر اپنی خیرات کو بر باد مت کرو“

عربی میں احسان کا مطلب ہے کسی کام کو عمدگی کے ساتھ اور بہتر سے بہتر طریقے پر کرنا۔ علماء نے اس کی مختلف تفسیریں بیان کی ہیں۔

(۱) احسان سے مراد یہ ہے کہ فرائض ادا کئے جائیں۔

(۲) نوافل ادا کئے جائیں۔

(۳) باطن ظاہر سے اچھا ہو۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور احسان کی تفسیر:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے احسان کی ایک تفسیر منقول ہے، لکھا ہے:

كَانَ عِيسَىٰ بْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَقُولُ إِنَّ الْإِحْسَانَ لَيَسَّرَ أَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَحْسَنَ إِلَيْكَ إِنَّمَا تُلَكَّ مُكَافَأَةً بِالْمَعْرُوفِ وَلِكِنَّ الْإِحْسَانَ بِأَنْ تُحْسِنَ إِلَى مَنْ أَسَاءَ إِلَيْكَ“ (الزهد لاحمد ابن حنبل: ۷: ۵- ۱۰ وروح: ۲۷۹)

حضرت عیسیٰ ابن مریم ﷺ نے فرمایا: احسان یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ احسان کرو جو تمہارے ساتھ احسان کرے، کیونکہ وہ تو مكافات اور بدلہ ہے، بلکہ احسان یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ حسن سلوک کرو جو تمہارے ساتھ برائی کرے۔

عدل اور احسان میں فرق:

علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے احسان کی تعریف اس انداز میں کی ہے:

احسان ہر فعل مندوب کو کہتے ہیں، اور کبھی وہ فرض ہوتا ہے اور کبھی مستحب، مگر یہ کہ اس فعل کو اس کے اجزاءٰ حقیقی یعنی اركان کے ساتھ ادا کرنا اعدل ہے، اور ان اركان کے علاوہ اور امور کے ساتھ مکمل اور بہتر طریقے پر انجام دینا احسان ہے۔ (تفسیر قرطبی: ۱۰/۱۳۷)

گویا علامہ قرطبی نے فعل کے دو جزء بتلائے ہیں، ایک فعل کا وہ رکن جس سے فریضہ ساقط ہو جائے، اور جس کی ادائیگی کی وجہ سے بندہ ذمہ سے بری ہو جائے، اور ایک ہے اس میں حسن، خوبی اور کمال پیدا کرنا۔ پہلی صفت کا نام عدل ہے اور دوسری صفت کا نام احسان ہے۔

احسان کمیت اور کیفیت دونوں میں ہوتا ہے:

علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ احسان کیفیت اور کمیت دونوں میں ہوتا ہے، اعمال میں اور عبادتوں میں احسان یہ ہے کہ اس کو مناسب طریقے پر اس کیفیت کے ساتھ بجالا یا جائے جیسا کہ حدیث احسان سے معلوم ہوتا ہے، اور کمیت میں احسان یہ ہے کہ نوافل وغیرہ ادا کئے جائیں، تاکہ اس سے واجبات اور فرائض میں جو نقص رہ گیا اس کی تلافی ہو جائے۔ (روح المعانی: ۱۰/۲۹۷)

احسان کی حقیقت:

ان سب کا خلاصہ اور ان سب کی حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی مامور کو پورے خشوع اور خضوع کے ساتھ، اس کے آداب، سنن، مستحبات کی رعایت کے ساتھ، پوری توجہ، دھیان اور اخلاص کے ساتھ اس طرح ادا کیا جائے کہ حق تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا مشاہدہ ہو، اور عبادت کی ادائیگی کے وقت یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو یہی احسان ہے۔

حدیثِ جبریل میں احسان کے یہی معنی بیان کرنے کئے ہیں: ”الْأَحْسَانُ أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَانَكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ“ (صحیح بخاری: کتاب فضائل الصحابة: ۲۷۷)

احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی اگر تم اللہ کو دیکھ رہے ہو تو جیسی عبادت کرتے ہو ویسی ہی عبادت کرو، جیسے اگر کوئی کام میں مشغول ہو اور اسے حاکم وقت یا اس کا نائب یا اس کا باس (Boss) دیکھ رہا ہو اور ہم بھی اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس وقت جس کیفیت اور دھیان کے ساتھ اور جس خوبی اور کمال کے ساتھ اور جس محنت اور لگن کے ساتھ اس فعل کو ہم انجام دیتے ہیں اسی طرح حق تعالیٰ کا استحضار کر کر آدمی دین اور دنیادوں پر عمل کرے۔

احسان کا اعلیٰ درجہ:

احسان کی یہ کیفیت ہر کسی کو حاصل نہیں ہوتی کہ حق تعالیٰ کی عظمت اور جلال کا مشاہدہ اسے نصیب ہو، اور اس کا غلبہ اس پر ہو، اور اپنے ہر فعل کو آدمی اس کیفیت کے ساتھ ادا کرے، یہ احسان کا اعلیٰ درجہ ہے، ہاں کسی کسی کو یہ کیفیت نصیب ہو جاتی ہے، شاید اسی کیفیت کا نبی ﷺ نے اس حدیث مبارکہ میں اشارہ کیا ہے:

”جَعَلَتْ قُرْرَةً عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ“ (سنن نسائی: کتاب عشرۃ النساء: ۳۹۳۰)

میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی ہے۔

احسان کا ادنیٰ درجہ:

اگر کسی پر یہ کیفیت طاری نہ ہو تو کم از کم یہ کیفیت تو اس کو اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے جو حدیث کے دوسرے جملہ میں مذکور ہے: ”فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ“ کہ تم اگر حق تعالیٰ کا مشاہدہ کر سکے تو حق تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، یہ احسان کا ادنیٰ درجہ ہے۔

اور قرآن مجید میں بھی اللہ پاک نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا:

”الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ - وَتَقْلِبُكَ فِي السَّاجِدِينَ“ (الشعراء: ۲۱۸)

”جو آپ کو جس وقت کہ آپ (نماز کے لیے) کھڑے ہوتے ہیں اور (نیز نماز شروع کرنے کے بعد نمازوں کے ساتھ آپ کی نشست و برخاست کو دیکھتا ہے“

”وَمَا تَكُونُ فِي شَاءٍ وَمَا تَشْلُوْا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُوْنَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا
كُنَّا عَلَيْكُمْ شَهُوْدًا إِذْ تُقِيْضُوْنَ فِيهِ“ (یونس: ۶۱)

”اور آپ (خواہ) کسی حال میں ہوں اور من جملہ ان احوال کے آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں اور (اسی طرح اور لوگ بھی جتنے ہوں) تم جو کام بھی کرتے ہو ہم کو سب کی خبر رہتی ہے جب تم اس کام کو کرنا شروع کرتے ہو اور آپ کے رب (کے علم) سے کوئی چیز ذرہ برابر بھی غائب نہیں، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں (بلکہ سب اس کے علم میں حاضر ہیں)
حدیث جبریل اور احسان سے متعلق ایک غلط فہمی:

بعض لوگ اس حدیث کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اس میں احسان کے حصول کا طریقہ بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کو اگر احسان پیدا کرنا ہے تو یہ تصور اور یہ کیفیت اپنے اندر پیدا کرے کہ وہ حق تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو کم از کم اتنا تصور کر لے کہ حق تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے ہیں، جب کہ حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے، حدیث میں احسان کے حصول کا طریقہ نہیں بتایا گیا بلکہ اس میں عین احسان کو بیان کیا گیا ہے کہ آدمی کے اعمال اور عبادات میں یہ کیفیت پیدا ہو جانا احسان ہے، اور اسے اپنی عبادات اور اعمال میں حق تعالیٰ کا مشاہدہ یا کم حق تعالیٰ کے اسے دیکھنے کا دھیان نصیب ہو جانا احسان ہے۔

جانوروں میں بھی احسان مطلوب ہے:

غرض احسان اس کو بھی کہتے ہیں کہ مامورات کو بجالا یا جائے، اور احسان میں یہ بھی داخل ہے کہ ان مامورات میں وہ کیفیت پیدا کی جائے جو حدیث میں مطلوب ہے، اور احسان میں یہ بھی شامل ہے کہ کسی کے ساتھ حسن سلوک اور خیر خواہی کی جائے، اور یہ حسن سلوک صرف

انسانوں کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جانوروں میں بھی مطلوب ہے، اگر کسی کے گھر میں بلی ہو یا پنجھرے میں پرندہ ہو تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کا حکم ہے۔ اس کی دیکھ بھال کا حکم ہے، اور ان کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے پر وعید ہے، ایک حدیث میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ایک عورت نے بلی کو پانی نہیں پلایا، اور اسی پیاس کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی، اللہ پاک نے اس بلی کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے پر اس عورت کو جہنم میں بھیج دیا۔ (صحیح

بخاری: کتاب المساقاة: ۲۳۶۵)

قتل اور جانوروں کے ذبح میں بھی احسان کا حکم ہے:

ہر چیز میں اللہ نے احسان رکھ دیا ہے، حتیٰ کہ قتل میں اور ذبیحہ میں بھی۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمُوا الْذَبْحَ وَإِذَا حَدَّدَكُمْ شَفَرَتَهُ فَلَيْرِخُ ذِيئْحَتَهُ“ (صحیح مسلم: کتاب الصید والذبائح: ۵۱۶۷)

بے شک اللہ پاک نے احسان لکھ دیا ہے ہر چیز میں، جب تم کسی کو قصاص یا حد کے طور پر قتل کرو تو اچھے طریقے پر قتل کرو، اور جب تم ذبح کرو تو اچھے طریقے پر ذبح کرو، اور چاہیے کہ تم اپنی چہری کو تیز کرو اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچاؤ۔

احسان کے دس فضائل:

احسان کی بہت ساری فضیلتیں اللہ پاک نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو بندہ دوسروں کے ساتھ احسان کرتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اسی وجہ سے فرمایا:

”هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ“ (الرَّحْمَن: ۶۱)

کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟

ایک اور جگہ فرمایا: ”وَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ“ (القصص: ٧٧)

”جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے تو بھی (بندوں کے ساتھ) احسان کیا کر“

(۲) احسان کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اس آدمی کے لئے بھلائی کا پروانہ جاری کر دیا گیا۔

”لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ“ (النحل: ٣٠)

جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور عالم آخرت تو اور زیادہ بہتر ہے۔

(۳) احسان کی تیسرا فضیلت یہ ہے کہ محسن حق تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہوتا ہے۔

”إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ“ (الاعراف: ٥٦)

”بیشک اللہ تعالیٰ کی رحمت نزدیک ہے نیک کام کرنے والوں سے“

(۴) احسان کی چوتھی فضیلت یہ ہے کہ محسین کو جنت اور دیدارِ خداوندی حاصل ہو گا۔

”لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيادةً“ (یونس: ٢٦)

جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی یعنی جنت ہے اور مزید برآل اللہ کا دیدار بھی۔

(۵) احسان کی پانچویں فضیلت یہ ہے کہ اللہ پاک نے نبی ﷺ کو محسین کے لئے خوشخبری سنانے کا حکم دیا ہے۔

”وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ“ (الحج: ٢٣) اور (اے محمد ﷺ!) اخلاص والوں کو خوشخبری سنادیجیے۔

(۶) احسان کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ محسین کو اللہ پاک کی معیت حاصل ہوتی ہے۔

”وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ“ (العنکبوت: ٤٩)

اور بے شک اللہ تعالیٰ (کی رضا و رحمت) ایسے خلوص والوں کے ساتھ ہے۔

(۷) احسان کی ساتویں فضیلت یہ ہے کہ محسن اللہ کا محبوب ہوتا ہے۔

”وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ“ (البقرة: ١٩٥)

اور تم احسان کرو بے شک اللہ احسان کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔

(۸) احسان کی آٹھویں فضیلت یہ ہے کہ محسین کا اجر اللہ کے ہاں ضائع نہیں ہوتا ہے۔

”وَأَحْسِنُوا فِإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ“ (ہود: ۱۱۵)

”اللَّهُ تَعَالَى نَيْكُوكاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے“

(۹) احسان کی نویں فضیلت یہ ہے کہ احسان جنت میں داخل ہونے کا سبب ہے۔

”آخِدِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ“ (الذاریات: ۱۶)

”بے شک تمقی لوگ بہشتوں میں اور چشمتوں میں ہوں گے اور انکے رب نے انکو جو (ثواب) عطا کیا ہو گا وہ اسکو (خوشی خوشی) لے رہے ہونگے (اور کیوں نہ ہو) وہ لوگ اس سے قبل (دنیا میں) نیکو کارتھے۔“

(۱۰) احسان کی دسویں فضیلت یہ ہے کہ احسان نہ کرنے والے کل قیامت میں جب عذاب کو دیکھیں گے تو احسان کی تمنا کرنے لگیں گے۔

”أَوْ تَقُولَ حِينَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْأَنَّ لِي كَرَّةً فَأَكُونَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ“ (الزمر: ۵۸)

”یا کوئی عذاب دیکھ کر یوں کہنے لگے کہ کاش میرا دنیا میں پھر جانا ہو جاوے پھر میں نیک بندوں میں ہو جاؤں“ (الاربعین النووية: ۳۲/۱)

احسان ہر چیز میں مطلوب ہے:

غرض صفت احسان ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہے، اور صرف نماز، ہی میں نہیں بلکہ زندگی کے ہر گوشے اور ہر عمل میں یہ صفت پیدا کرنی ہے۔ کیونکہ حدیث میں عبادت کاذکر ہے، نماز کاذکر نہیں، اور ایمان والے کا ہر عمل صحیح نیت سے ہو تو عبادت ہوتا ہے، اس لئے ہر چیز میں یہ دھیان ہونا چاہیئے، نماز پڑھ رہے ہوں تو اسی دھیان اور اسی کیفیت کے ساتھ پڑھیں، روزہ اسی دھیان اور اسی کیفیت کے ساتھ رکھیں، زکوٰۃ اسی دھیان اور اسی کیفیت کے ساتھ ادا کریں، حج اسی دھیان اور اسی کیفیت کے ساتھ ادا کریں، تلاوت اور ذکر اسی دھیان اور اسی کیفیت کے ساتھ کریں، معاملات اور معاشرت اسی دھیان اور اسی کیفیت کے ساتھ کریں، بیوی بچوں میں ہو تو

یہی کیفیت اور یہی دھیان رہے، چاہے آپ گھر میں ہوں یا مسجد میں ہوں، چاہے آپ کو کوئی دیکھے یا نہ دیکھے، بس اللہ کا دھیان اور استحضار ہونا چاہیے۔

احسان کے لئے دھیان ضروری ہے:

اگر یہ دھیان اور استحضار نہ ہو تو پھر احسان بھی حاصل نہ ہو گا، اور حدیث جبریل میں بھی اس کی تعلیم ہے، اس کے علاوہ ایک حدیث میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ مُسْلِمٌ يَتَوَضَّأْ فَإِنْ حِسْنُ الْوُضُوءِ ثُمَّ يَقُولُ فَيَصْلِيَ رَكْعَتَيْنِ مُفْبِلًا عَلَيْهِمَا بِقَلْبِهِ وَجْهُهُ إِلَّا وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ“ (مسند احمد: ۱۷۳۱)

”جو مسلمان اچھی طرح وضو کرتا ہے، پھر کھڑا ہو کر دور کعت نماز اپنے دل سے متوجہ ہو کر ادا کرتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے“

ایک اور حدیث میں ہے:

”مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَمْ يُحِدِّثْ نَفْسَهُ فِيهِمَا بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا لَمْ يَسْأَلَ اللَّهَ شَيْئًا إِلَّا أَعْطَاهُ إِيمَانًا“

(مصنف ابن ابی شیبہ: کتاب الصلاۃ: ۱۳: ۷۷)

جو آدمی دور کعت نماز پڑھے، اور اس میں دنیا کی کسی چیز کے بارے میں نہ سوچ، صرف اللہ کا دھیان اور استحضار رہے، اس کے بعد اللہ سے جو وہ مانگے وہ عطا کیا جائے گا۔

اس سے پتہ چلا کہ دھیان اصل ہے، غفلت سے یاد نیوی امور میں الجھ کر عبادت کرنے کا نام احسان نہیں ہے، بلکہ سوچ سمجھ کر اور دل سے حاضر ہو کر اور دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی عظمت اور جلال کے مشاہدہ کے ساتھ عمل کرنے کا نام احسان ہے، اور یہی اخلاص کامل کا درجہ ہے۔

احسان میں اخلاص بھی داخل ہے:

حضرت تھانوی عَلَيْهِ السَّلَامُ کے مفہومات میں لکھا ہے کہ احسان ظاہر اور باطن یعنی ایمان اور اسلام کی روح ہے، صفتِ احسان کا اصل تعلق عمل کے باطن یعنی اس کی روح یعنی اخلاص سے

ہوتا ہے، کیونکہ کسی بھی عمل میں اگر اخلاص نہ ہو تو احسان ہی نہیں ہے، بلکہ وہ عمل بے فائدہ اور بے کار ہے، اور قرآن پاک میں کئی موقع پر احسان سے اخلاص ہی کے معنی مراد لئے گئے ہیں، ایک جگہ فرمایا:

”بَلِّيْ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرٌ إِنَّدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ“ (البقرة: ١١٢)

جو کوئی شخص بھی اپنا رخ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاوے اور وہ مخلص بھی ہو تو ایسے شخص کو اس کا عوض ملتا ہے اس کے پروردگار کے پاس پہنچ کر اور نہ ایسے لوگوں پر (قیامت میں) کوئی اندیشہ ہے اور نہ ایسے لوگ (اس روز) مغموم ہونے والے ہیں۔

احسان ہر جگہ مطلوب ہے:

اور یہ دھیان ہر جگہ رہنا چاہیے، مسجد میں آکر توسیب کے سامنے لمبی لمبی نماز پڑھی جا رہی ہے، اور گھر جا کر بیوی پر زور زبردستی اور ظلم کیا جا رہا ہے، اس کے ساتھ گالی گلوچ کی جا رہی ہے، اس کو بے عزت کیا جا رہا ہے، یہ نہ اسلام ہے اور نہ احسان ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ایک خاتون کافون آیا، کہنے لگی کہ میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ نہیں رہوں گی، حالانکہ ان کے شوہر انہتائی نیک آدمی ہیں، جماعت میں وقت لگاتے ہیں، لیکن خاتون کہہ رہی ہے کہ زبان ان کی گندی ہے، دوسروں کے سامنے عزت و ذلت کی انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لئے وہ علاحدہ رہنا چاہتی ہے، تو یہ احسان مسجد کی حد تک محدود نہیں رہنا چاہیے، بلکہ مسجد کے علاوہ گھر ہو یا بازار ہو، ہر جگہ اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔

دورانِ ملازمت نفل بھی جائز نہیں:

ایسے ہی ہم ملازمت یا جاب (Job) وغیرہ میں ہوتے ہیں، تو اس میں بھی اس صفت کو برقرار رکھنا چاہیے، وہ بھی ایک عبادت ہے، حلال کمانا عبادتوں میں اہم عبادت ہے، اس میں بھی صفت احسان ہونی چاہیے، اسلام میں کام چوری نہیں ہے، دھوکہ اور فراڈ نہیں ہے، بلکہ علماء

نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ ملازمت کے وقت میں نوافل پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، بڑے نیک آدمی ہیں، تسبیح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اسلام کا حکم نہیں ہے۔ اسلام کا حکم یہ ہے کہ ملازمت کا جو وقت ہے اس میں ملازمت کے فرائض انجام دیں۔

ڈرائیونگ کے وقت کا ذکر:

بعض لوگ ذکر کثرت سے کرنا چاہتے ہیں، اب ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں اور ذکر میں بھی مشغول ہیں، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ ڈرائیونگ کے وقت کا ذکر ہوشیاری کے ساتھ ڈرائیونگ کرنا ہے، بعض لوگ ڈرائیونگ کے وقت تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں، ارے بھائی! اگر تو ادھر تسبیح میں رہے گا تو ادھر ٹھوکر لگ جائے گی، یہ صحیح ڈرائیونگ نہیں ہے، ڈرائیونگ کے وقت کا ذکر حاضر دماغی سے ہوشیاری سے اس کو انجام دینا ہے، تاکہ آپ کسی کی تکلیف کا سبب نہ بنیں اور نہ کوئی آپ کی تکلیف کا سبب بنے، خود سے تکلیف تونہ ہونے دیں اور دوسرے غافلوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔

صحیح ڈرائیور کون؟

مولانا یوسف صاحب حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ فرمایا کرتے تھے کہ صحیح ڈرائیور وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو بھی نہ مارے اور دوسرے کی بھی نہ کھاوے، یعنی کوئی دوسرا بھی اسے نہ مارے، آپ غفلت میں نہیں ہیں یہ تو ٹھیک ہے، لیکن سامنے والا غفلت میں ہو یہ ممکن ہے، اس لئے اتنا بیدار مغز ہونا چاہیے کہ اپنے اطراف والا کس انگل سے آرہا ہے، کیسے گاڑی چلا رہا ہے اس کا بھی لحاظ رکھیں۔ اور اس سے بھی اپنے آپ کی حفاظت کریں۔

وہاں بے اصولی ہی اصول ہے:

یہاں ہم اصولوں کو بہت زیادہ مد نظر رکھتے ہیں، لیکن انڈیا پاکستان میں ڈرائیونگ کی جو ترتیب ہوتی ہے اس میں تورو لس برائے نام ہوتے ہیں، بس اڈ جسٹ منٹ ہوتا ہے، وہاں کا سب

سے بڑا اصول اُجھمنٹ ہے، بلکہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ وہاں بے اصولی ہی اصول ہے، آپ ادھر سے جا رہے ہیں اور وہ ادھر سے آ رہا ہے، آپ کی گرین لائٹ ہو گئی پھر بھی آپ کو یہ دیکھنا پڑھتا ہے کہ ریڈ والا جاتونہیں رہا ہے، آپ تو اپنے اصول کے اعتبار سے جا رہے ہیں، اچانک تیزی کے ساتھ کوئی سامنے آگیا یا بیل یا بکری آگئی، یا گلی اور دوسری روڈ سے کوئی نکل کر سامنے آگیا تو آپ کو بہت زیادہ محتاط ہونا پڑتا ہے، کیونکہ سب کے راستے الگ الگ نہیں ہیں، یہ وہ وے (One way) ہے، یہ ٹووے (Two Way) ہے ایسا نہیں ہے۔

ایک امریکی ساتھی کے ربوبیت سیکھنے کا واقعہ:

ان کی بے اعتدالی اور بے اصولی کی وجہ سے ایک واقعہ یاد آگیا، ایک امریکی ساتھی جماعت میں انڈیا گئے تھے، لوگوں نے پوچھا کہ تم نے انڈیا جا کر کیا سیکھا؟ انہوں نے کہا کہ ایمان سیکھا، وہاں جانے کے بعد اللہ کی ربوبیت سمجھ میں آگئی، لوگوں نے کہا کہ واقعۃ آدمی جماعت میں ایمان سیکھنے اور ربوبیت کا یقین پیدا کرنے کے لئے ہی جاتا ہے، اس لئے سوال کیا کہ یہ چیز آپ کو کیسے حاصل ہوئی؟ کہنے لگے کہ میں نے وہاں دیکھا کہ کوئی آدمی ڈرائیونگ میں رولس (Rools) فالو نہیں کرتا ہے، اور سب کے سب ڈرائیونگ کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بے اصولیوں کی وجہ سے منٹ منٹ بلکہ سینکڑ سینکڑ پر ایکسٹرینٹ ہونا چاہیے، لیکن کوئی حادثہ اور ایکسٹرینٹ نہیں ہوتا، اس سے پتہ چلا کہ رب اللہ ہے، حفاظت کرنے والا اللہ ہے، اگر رب اللہ نہ ہوتا تو وہاں منٹوں میں کئی حادثے ہو جانے چاہئیں، لیکن اللہ پاک ان سب کی حفاظت کرتا ہے، غرض ڈرائیونگ کے وقت کاذکر یہ ہے کہ ہوشیاری کے ساتھ ڈرائیونگ کی جائے۔ ہاں زبان پر ذکر اور درود شریف اور استغفار کا ورد جاری ہے تو یہ صحیح ہے، اور فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر اصل دھیان ڈرائیونگ پر سے ہٹ جائے جس سے خطرہ کا اندازہ ہے تو پھر ڈرائیونگ کو ترجیح دینی چاہیے، کام کے وقت اصل توجہ کام پر دینی چاہیے، جاب کے وقت جاب پر توجہ دینی چاہیے، یہ سب چیزیں احسان میں داخل ہیں، اس لئے ان کی رعایت بھی ضروری ہے۔

احسان کے حصول کا طریقہ:

اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ احسان کیسے پیدا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احسان کے حصول کیلئے تین باتیں ملحوظ رکھیں۔ (۱) لایعنی چیزوں کا ترک۔ (۲) ذکر اللہ کی کثرت۔ (۳) اور خشوع اللہ۔

لایعنی امور سے بچنا بھی احسان میں داخل ہے:

عام حالات میں احسان حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ لایعنی چیزوں کو چھوڑا جائے، کیونکہ حدیث میں اس کے ترک کو بھی احسان قرار دیا گیا، چنانچہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ مِنْ حُسْنِ إِسْلَامٍ الْمَرْءُ تَرَكَ مَا لَا يَعْنِيهِ“ (سنن ترمذی: کتاب الزهد: ۲۳۸۸)

”اسلام کا حسن یہ ہے کہ لایعنی کاموں کو چھوڑ دیا جائے“

لایعنی امور کسے کہتے ہیں؟

پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ لایعنی چیز کسے کہتے ہیں؟ اور اس کی حد کیا ہے؟ تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی حقیقت یہ ہے:

”وَحَقِيقَةُ مَا لَا يَعْنِيهِ مَا لَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي ضَرُورَةٍ دِينِهِ وَدُنْيَاهُ وَلَا يَنْفَعُهُ فِي مَرْضَاهٍ مَوْلَاهُ“ (تحفة

الاحوذی: ۱۰۲/۶)

یعنی لایعنی چیزوں کی حقیقت یہ ہے کہ جس چیز کی دین اور دنیا میں ضرورت نہ ہو اور وہ اپنے مولیٰ کی مرضی کے مطابق نہ ہو، اور مولیٰ کی رضا مندی میں نفع نہ دے تو وہ لایعنی ہے، اس میں وہ تمام اقوال، اعمال اور افعال شامل ہیں جن کی نہ دین میں ضرورت ہے اور نہ دنیا میں، جن سے اپنا مولیٰ راضی نہ ہو، خواہ وہ محترمات ہوں یا مشتبہات ہوں یا مکروہات ہوں یا خلاف ادب امور ہوں۔ سب اس کے مفہوم میں داخل ہیں۔ تو اپنے اعمال میں احسان پیدا کرنے کے لئے یہ ضروری ہے کہ لایعنی چیزوں کو ترک کیا جائے، اس کے بغیر یہ حاصل نہیں ہو سکتا۔

(۲) صفتِ احسان حاصل کرنے کا دوسرا طریقہ ذکر اللہ کی کثرت ہے، کیونکہ ذکرِ اللہ کی کثرت سے اللہ کا استحضار پیدا ہو گا، اور جب استحضارِ خداوندی ہو گا تو عمل میں احسان پیدا ہو گا۔ اس لئے کثرت سے اللہ کا ذکر بھی کرتے رہنا چاہیے۔

(۳) احسان حاصل کرنے کا تیسرا طریقہ خشوعِ اللہ ہے، اگر خشوع ہے تو احسان پیدا ہو گا، اگر خشوع نہ ہو تو احسان بھی پیدا نہ ہو گا۔

خشوع کی حقیقت:

خشوع کا مطلب کیا ہے؟ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آدمی عبادت میں اتنا گم ہو جائے کہ وہ دوسری چیزوں کو بھول ہی جائے اور اسے کچھ خبر نہ ہو، اور ہوش و حواس اس کے باقی نہ رہیں، خشوع کا یہ مطلب نہیں ہے، خشوع کی حقیقت یہ ہے کہ انسان کے اعضاء اور دل دونوں ساکن رہیں، اعضاء ساکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل پر سکون رہیں، حرکت ان میں نہ ہو، اور دل کے ساکن رہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اپنے اختیار سے خیالات اور وساوس نہ لائے جائیں، کیونکہ غیر اختیاری خیالات کا آنا انسان کے بس سے باہر ہے، اس لئے وہ اس کا مکلف بھی نہیں ہے، اور ان پر موآخذہ بھی نہیں، جب اس پر عمل کیا جائے گا تو صفتِ احسان پیدا ہو گی۔

یہ احسان سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئیں، تاکہ جب خطیب خطبہ میں یہ آیت ”انَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ“ پڑھے تو یہ باتیں ہمارے ذہن میں آجائیں، اور یہ مضمون ترو تازہ ہو جائے، اور اس پر عمل ہمارے لئے آسان ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح علم، صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)



عزیزو اقارب کے حقوق ادا کریں

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم

ترتیب و تحریک: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی

بقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، جمادی الاولی ۱۴۳۶ھ۔

ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

عزیز و اقارب کے حقوق ادا کریں

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ امَّا بَعْدُ۔

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ إِسْمَ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (النحل: ٩٠)

”بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی
برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت
فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“
برادرانِ اسلام!

چند جمیع سے اس آیت مبارکہ کی توضیح اور اس آیت کے مضامین اور اس کے احکام آپ
کو سنائے جا رہے تھے، انہیں میں سے ایک مضمون اور ایک حکم رشتہ داروں کے حقوق سے
متعلق ہے، آج انشاء اللہ اس مضمون سے متعلق چند باتیں ذکر کرنے کارادہ ہے۔

اگرچہ اقارب کے ساتھ حصہ رحمی کا حکم عدل اور احسان میں داخل ہے، جس کی تفصیل اس
سے قبل عرض کی گئی، لیکن اعزہ و اقارب کے حقوق زیادہ اہم ہیں، اور ان کی فضیلیتیں بہت زیادہ
ہیں، اس وجہ سے اللہ پاک نے ان کو علاحدہ ذکر فرمایا ہے۔ (روح المعانی: ۱۰/۲۸۰)

ذوی القریٰ کون کون ہیں؟

سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ذوی القریٰ کسے کہتے ہیں؟ عام طور پر قریٰ اور قرابت کا ترجمہ رشته سے کرتے ہیں، مفسرین نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ذوی القریٰ مطلقاً رشته داروں کو کہتے ہیں جن کا آدمی سے تعلق ہو، خواہ وہ ماں کی جہت سے ہوں یا باپ کی جہت سے، چاہے محروم ہوں یا غیر محروم، وارث ہوں یا نہ ہوں، پچھا، پھوپھی، خالہ ماںوں اور ان سب کی اولاد اس میں شامل ہیں، اور احادیث میں نبی ﷺ نے جن ذوی الارحام کا ذکر کیا ہے اور ان سے صلہ رحمی پر ابھارا ہے، ان سے مراد یہی ذوی القریٰ ہیں، ان سب کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم، ان سے قطع تعلق اللہ پاک کے غصب کو لکارنا، اور رحمت کے فرشتوں کو اپنے گھر سے دور رکھنے کا سبب اور ناجائز اور حرام ہے۔ (روح المعانی: ۱۰/۲۸۰ و تفسیر حقی: ۷/۸۳)

بلکہ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قریٰ میں قرابت کی وہ ساری قسمیں آجاتی ہیں جو بحیثیت مسلمان ہونے کے متعلق ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی نوعیت کی ہوں۔

حقوق کے تین بنیادی پہلو:

یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ان کے حقوق کی بنیاد تین چیزیں ہیں۔ (۱) حاجت۔ (۲) عظمت۔ (۳) رشته۔

کبھی حق حاجت کی بنیاد پر ہوتا ہے، کبھی عظمت کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور کبھی رشته کی بنیاد پر، ہم ان میں ترجیح عام طور پر عظمت کو دیتے ہیں، رشته اور ضرورت کو نہیں، مثلاً باپ کہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی دیدو، پڑوسی کہے کہ بھائی ایک گلاس پانی دیدے، اب آپ مفتی صاحب سے پوچھیں کہ میں پانی پہلے کس کو دوں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہاں حاجت اور عظمت ایک ہی شخصیت یعنی باپ میں جمع ہیں، اس لئے اس کو ترجیح دی جائے گی، ایسے ہی اگر کسی سے اس کا پچھا کہے کہ میری کمر میں درد ہے ذرا اس کو دبادے، اور باپ بھی کہہ رہا ہے کہ میری کمر میں درد ہو رہا ہے ذرا دبادے، اب کس کی خدمت کی جائے، ظاہر ہے کہ پہلے باپ کی خدمت کریں

گے، کیونکہ وہاں ضرورت کے ساتھ ساتھ عظمت کا پہلو بھی ہے، دونوں رشته دار ہیں، دونوں کا رشته خونی رشته ہے، لیکن قرب اور رشته کی قوت اور عظمت باپ کو حاصل ہے اس لئے اس کو ترجیح دیں گے، اور کبھی حاجت اور ضرورت کی وجہ سے ترجیح بھی دینا پڑتا ہے، جیسے ایک فقیر آئے اور کہنے لگے کہ مجھے دس روپیے دو مجھے قلفی کھانا ہے، اور ایک فقیر کہے کہ مجھے دس روپیے دیدے، آٹھ دن سے بھوکا ہوں، ظاہر ہے کہ اس فقیر اور محتاج کو پہلے دیں گے، دوسرے کو نہیں، کیونکہ اس کے پاس ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی رشته داروں میں بعض مرتبہ حاجت کو دیکھنا ہوتا ہے لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر ان رشته داروں میں کوئی مقدم ہوتا ہے اور کوئی مونخر، کسی کو پہلے رکھنا ہوتا ہے اور کسی کو بعد میں، اس موقع پر سوال یہ ہوتا ہے کہ پہلے کس کو ترجیح دی جائے؟

حقوق میں کس کو ترجیح دیں؟

یاد رکھیں کہ جس کارشہ جتنا زیادہ قریب کا ہوتا ہے اتنا ہی اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، ان میں سب سے پہلے رشته دار ہوتے ہیں، ان کو مقدم کرنا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ حاجت اور عظمت کا پہلو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے، ایک آدمی صرف مسلمان ہے اور ایک آدمی مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ پڑوسی بھی ہے تو ظاہر ہے کہ پڑوسی مسلمان کا حق زیادہ ہے، ایک آدمی مسلمان ہے، پڑوسی ہے اور سرالی رشته سے ہے، تو اس کا حق اور بڑا ہے، اگر کوئی سرالی رشته میں تو نہیں ہے، لیکن خونی رشته میں ہے تو خونی رشته دار کا حق سرالی رشته دار سے بڑا ہے، اور پھر خونی رشته میں دور کے بھی ہوتے ہیں اور قریب کے بھی ہوتے ہیں، باپ کی طرف کے رشته دار بھی ہوتے ہیں اور ماں کی جانب کے بھی رشته دار ہوتے ہیں، بیٹا، بیٹی، پوتا، پوتی، نواسا، نواسی، نانا، نانی، پرنانا، پرنانی، بھانجے، بھانجیاں، بھتیجیاں، ماموں، خالہ پھوپھیاں اور ان کی اولادیں سب اس میں شامل ہیں، ان میں ظاہر ہے کہ کچھ رشته دار زیادہ قریب ہیں اور کچھ دور، جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اتنا ہی

اس کا حق زیادہ ہوتا ہے، ان سب رشته داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، اب اس حسن سلوک میں عظمت کو بھی ملحوظ رکھنا ہوتا ہے، اور ضرورت کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے اور رشته کا لحاظ بھی کرنا پڑتا ہے۔

اسلام میں انکل اور آنٹی کا تصور نہیں:

آج ہم اپنے ان رشته داروں کے لئے آنٹی اور انکل کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن اسلام میں اس انکل اور آنٹی کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے، کیونکہ انکل، آنٹی اور کزن کے الفاظ رشته داریوں اور ان کے حقوق کی وضاحت نہیں کرتے، آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ کون ماموں ہے؟ کون پھوپی ہے؟ کون پچا ہے؟ کون خالہ ہے؟ کون ممانی ہے؟ کیونکہ جو ممانی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جو چھی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جو پھوپی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جو خالہ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، جب یہ سب آنٹی بن گئے تو ان کی رشته داری کا اور ان کے حقوق کا کیسے پتہ چلے گا؟ ظاہر ہے کہ ان میں چھی اور ممانی تو شادی کی وجہ سے قرابت میں داخل ہیں، شادی ختم تو قرابت بھی ختم، لیکن خالہ اور پھوپی سے تو قرابت کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، اور خالہ اور پھوپی میں خالہ کا مرتبہ بڑھا ہوا ہے، کیونکہ وہ ماں سے قریب ہے، حتیٰ کہ اگر ماں کا انتقال ہو جائے اور اس کی چھوٹی اولاد ہے، کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو پھوپھی کے مقابلہ میں خالہ کو حق پہونچتا ہے کہ وہ اس کی اولاد کی پروردش کرے۔

غیروں کی تہذیب نے رشتہوں کو بھلا دیا:

لیکن ہم ان الفاظ کو استعمال کر کے ان رشتہوں کو بھلا دیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ وہ کو نسارشہ دار ہے؟ بس رشته ہے یہ معلوم ہوتا ہے، لیکن کو نسارشہ ہے یہ پتہ نہیں ہوتا، جب ان کی رشته داری کا ہی پتہ نہیں چلتا ہے تو ان کے حقوق کیسے ادا کئے جاسکتے ہیں؟ کیونکہ ہر ایک کے حقوق الگ الگ ہیں، ماموں کے حقوق الگ ہیں، پچا کے حقوق الگ ہیں، پھوپھا کے حقوق

الگ ہیں، اسلام میں ان کا مقام الگ ہے ان کی عزت الگ الگ ہے، لیکن جب آپ انکل کہہ کر سب کو مکس (Mix) کر دیتے ہیں تو ان کی رشته داری اور ان کے حقوق کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور یہ انکل اور آنٹی غیروں کی تہذیب کا حصہ ہے، اسلام نے ہر رشته کو واضح کیا لیکن غیروں کی تہذیب اور تمدن نے سب کو بھلا دیا، اور ہم بڑا فخر کرتے ہیں ان کی تہذیب اور تمدن پر، اور اس کو اپنانے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں۔

احادیث میں رشتہوں کو یاد رکھنے کا حکم کیوں؟

احادیث میں نبی ﷺ نے نسب یاد رکھنے کا حکم اسی لئے دیا ہے تاکہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جاسکے، حضرت ابو ہریرۃ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”تَعْلَمُوا أَمِينًا نَسَابِكُمْ مَا تَصْلُونَ بِهِ أَوْ حَامِكُمْ فَإِنَّ صَلَةَ الرَّحْمٍ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ مَثْرَاةٌ فِي الْمَالِ مَتْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ“ (سنن ترمذی: کتاب البر والصلة: ۲۱۰)

اپنے انساب کو سیکھو تاکہ تم ان کے ساتھ صلہ رحمی کر سکو، کیونکہ صلہ رحمی سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، مال اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔“

جب ہمیں اپنے انساب ہی یاد نہ ہوں گے اور خاندانی رشتہ ہی معلوم نہیں ہوں گے تو کیسے ان کے حقوق ادا کئے جائیں گے؟

حضرت مریم رضی اللہ عنہ حضرت زکریا علیہ السلام کی پرورش میں کیوں؟

یہی جہہ تھی کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو اپنی کفالت میں لینے کے لئے یہی وجہ ذکر کی تھی کہ ان کی خالہ میرے نکاح میں ہے، اس لئے مریم کی کفالت میں کروں گا، لیکن دوسرے لوگوں نے انکار کیا، پھر قرعہ اندازی ہوئی اور قرعہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کا نام آیا، اور انہوں نے حضرت مریم کو اپنی کفالت میں لے لیا۔ غرض خالہ کا مرتبہ پھوپھی سے بڑا ہوتا ہے، اب اگر ہم آنٹی کہیں اور اس سے پھوپھی اور خالہ دونوں مراد لیں تو ان کی پہچان کیسے

ہوگی؟ ان کے حقوق اور مرتبہ کا لحاظ کیسے کریں گے؟ کیونکہ اسلام میں ان رشتتوں کی ان کے ناموں کی اور ان کے حقوق کی باضابطہ وضاحت کی گئی ہے، لیکن غیر اسلامی مذہب میں یہ بات نہیں پائی جاتی۔

مشرقی اور مغربی تہذیب میں فرق:

اسی وجہ سے ہم اپنی مشرقی تہذیب میں الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، کیونکہ اسلامی آثار اس میں زیادہ باقی ہیں، لیکن مغربی تہذیب میں ان ناموں سے کوئی نہیں پکارتا، اگرچہ یہ علاقہ سے تعلق رکھنے والی چیز نہیں ہے، مشرق و مغرب سے مراد اسلامی اور غیر اسلامی تہذیب ہے، مشرقی میں چونکہ اسلام پھیلا، اسلامی اقدار ایک عرصہ تک زندہ رہیں، اور اب بھی ہیں، اس لئے یہ لفظ عام ہو گیا، ورنہ لفظ مشرق و مغرب کا اسلام سے کوئی جوڑ نہیں ہے، اسلام نہ مشرقی ہے اور نہ مغربی ہے، اسلامی تہذیب تو عالمی تہذیب ہے، سارے عالم میں اس کو اپنانے اور پھیلانے کا حکم ہے، تو جو چیزیں ہمارے مذہب میں بیان کی گئیں ہیں اور اسلام کی طرف سے ہمیں دی گئیں ہیں وہ بھولنے کیلئے نہیں ہیں، بلکہ اپنانے کے لئے اور عمل کرنے کے لئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے ان رشتتوں کے الگ الگ نام ہیں، اس لئے اس فرق کو باقی رکھنا چاہئے تاکہ اسلام میں ان کے جو حقوق ہیں اور جوان کا مقام و مرتبہ ہے وہ ان کو دیا جاسکے۔ یہ بات تو ذوی القربی کے بارے میں بیان کی گئی کہ ذوی القربی کے کہتے ہیں؟ اللہ پاک نے اس آیت میں انہیں دینے کا تواذ کر کیا، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا ہے کہ انہیں کیا دینا ہے؟ قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ان کو ان کا حق دینا ہے:

”وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَدِّلْ رَبَبِدِيرًا“ (الاسراء: ٢٦)

”اور قرابت دار کو اس کا حق (مالی و غیر مالی) دیتے رہنا اور محتاج اور مسافر کو بھی دیتے رہنا اور (مال کو) بے موقع مت اڑانا“

صلہ رحمی نہ کرنا حق تعالیٰ کے اسم مبارک کا پاس و لحاظ نہ کرنا ہے:
اللہ پاک نے یہاں ذوی القربی کو خاص طور پر ان کے حقوق دینے کا ذکر کیا، کیونکہ ان کے حقوق زیادہ موگد اور زیادہ اہم ہیں، کیونکہ وہ آدمی کے ذوی الارحام ہوتے ہیں، اور رحم اللہ پاک کے اسم مبارک سے مشتق اور نکلا ہوا ہے، اس لئے اللہ پاک نے فرمایا کہ جو اپنے ذوی الارحام کے ساتھ صلہ رحمی کرے گا، تو گویا وہ میرے اسم مبارک کا پاس و لحاظ کرے گا، اس لئے میں بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی کروں گا، اور جو قطع تعلق کرے گا اور صلہ رحمی نہیں کرے گا تو گویا وہ میرے اسم مبارک کا پاس و لحاظ بھی نہیں کرے گا، اس لئے میں بھی اس کے ساتھ قطع تعلق کرلوں گا۔ (تفسیر قرطبی: ۱۰/۱۷۳ و فتح القدير: ۲۵۵/۲)

گویا صلہ رحمی نہ کرنے والے اور قطع تعلق کرنے والے کے دل میں اللہ پاک کے اسم مبارک کی قدر نہیں ہوتی، اور گویا یہ اللہ پاک کے اسم مبارک کی عظمت دل میں نہ ہونے کی دلیل ہے۔

رشته داروں کے کیا حقوق ہیں:

اب سوال یہ ہے کہ ان رشته داروں کے ساتھ صلہ رحمی میں اور ان کے حقوق میں کیا کیا چیزیں ہیں تو یاد رکھیں کہ ایک تو ان محارم کا نفقہ ہے جو کمائی پر قادر نہیں ہیں، یا وصیت اور وراثت کے مطابق ان کا حق ادا کرنا ہے، یا ان کے ساتھ صلہ رحمی اور حسن معاشرت یا کسی بھی طرح ان کی مدد کرنا مراد ہے۔ (روح المعانی: ۱۰/۳۳۵ و تفسیر قرطبی: ۲۱۷/۱۰)

صلہ رحمی کا ادنیٰ درجہ:

اور اس کا سب سے ادنیٰ درجہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ سلام اور خیر خیریت کا تعلق رکھا جائے، قاضی شناء اللہ پانی بتی حجۃ اللہ نے لکھا ہے:

”وَأَقْلَهُ الْتَّسْلِيمُ وَإِنْسَلَامُ السَّلَامِ أَوِ الْمَكْتُوبِ وَلَا تَوْقِيَتْ فِيهَا فِي الشَّرِيعَةِ بَلِ الْعِبْرَةُ بِالْعُرْفِ وَالْعَادَةِ كَمَا فِي شَرِحِ الطَّرِيقِ“ (تفسیر حقی: ۸۲/۱۷)

رشته داروں کے حقوق کا ادنیٰ درجہ انہیں سلام کرنا، یا سلام بھیجننا اور ان کے حال کو دریافت کر لینا ہے۔ لیکن شریعت میں اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، بلکہ عرف اور عادت میں جتنے عرصہ میں اپنے اعزہ واقارب سے ملاقات ہوتی ہے اتنے عرصے میں ان سے بھی سلام حال دریافت کر لینا ان کے حقوق کی ادائیگی کا ادنیٰ درجہ ہے۔

رشته داروں کا ایک اہم حق:

اور ان کے حقوق میں سب سے اہم حق یہ ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، صرف ان کی حاجت کو پورا کر دینا حق کی ادائیگی نہیں ہے، ان کو مال دے دینا حق ادا کرنا نہیں ہے، بلکہ اصل حق تو یہ ہے کہ ان کو اپنی طرف سے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، چاہے زبان سے ان پر لعن، طعن، احسان جنم کریا شکایت اور غیبت کر کے ہو یا اعضاء و جوارح سے لڑائی بھڑائی کر کے ہو، یا کسی اور طریقے سے ہو۔

دعاء خیر کے ذریعہ رشته داروں کے حقوق ادا کریں:

اگر کوئی ان کے مالی حقوق ادا نہیں کر پاتا ہے یا ان کی جسمانی کوئی خدمت نہیں کر سکتا یا کسی قسم کی کوئی خدمت اور کوئی تعاون نہیں کر سکتا تو کم از کم ان کے حق کی ادائیگی کے لئے اتنا تو کر لے کہ ان کے حق میں دعاء خیر کرے، یہ بہتر طریقہ ہے، اور اس کے کرنے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بلکہ اپنے لئے بھی اس میں خیر ہے اور ان کے لئے بھی خیر ہے، اس لئے کم از کم اس کا تواہتمام کرنا چاہیے۔ (تفسیر رازی: ۳۵۲/۹)

صلہ رحمی کا بدله دنیا میں بھی دیا جاتا ہے:

اس کے بڑے فضائل ہیں، اور اس پر بڑا ثواب ہے، احادیث میں نبی ﷺ نے اس کے بے شمار فضائل بیان فرمائے ہیں، ایک حدیث میں ہے کہ صلہ رحمی ایسا بہترین عمل ہے کہ آخرت میں تو اس کا اجر اللہ کے پاس ہے ہی لیکن ساتھ ہی ساتھ دنیا میں بھی اللہ پاک اس کا صلہ اور بدله

دیدیتے ہیں، ایک حدیث میں فرمایا: طاعتوں میں سب سے جلدی ثواب صلہ رحمی کا دیا جاتا ہے کہ گھر والے فاجر ہوتے ہیں، اور صلہ رحمی کرتے ہیں تو ان کے مال میں اضافہ ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ أَعْجَلَ الطَّاعَةِ ثَوَابًا صِلَةُ الرَّحِيمِ، وَإِنَّ أَهْلَ الْبَيْتِ لَيَكُونُونَ فُجَارًا، فَتَسْمُوْ أَمْوَالُهُمْ، وَيَكُثُرُ عَدَدُهُمْ إِذَا وَصَلُوا أَرْحَامُهُمْ“ (تفسیر رازی: ۵۲/۹ و شعب الایمان: باب فی صلة الأرحام ۱/۷۹)

گویا اللہ پاک ہم کو ہمارا خرچ کیا ہو اماں بلکہ اس سے کئی گنازیاہ ہم کو دنیا ہی میں عطا فرماتے ہیں، یہ کتنا بہترین نفع ہے ہمارے لئے، لیکن ہم اس کو کرتے نہیں، کیونکہ اللہ کی ذات پر ہم کو جیسے یقین ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے۔

نیکی اور صلہ رحمی سے حساب آسان ہوتا ہے:

اس کا اہم فائدہ کل قیامت میں یہ ہو گا کہ اللہ پاک ہمارے حساب و کتاب میں آسانی فرمائیں

گے، ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الْبِرَّ وَالصِّلَةَ لَيَخْفِفُانِ سُوءَ الْحِسَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ (کنز العمال: کتاب الاخلاق: ۷/۶۹)

بے شک نیکی اور صلہ رحمی قیامت کے دن سخت حساب میں تخفیف کر دیتے ہیں۔

ہمارے لئے سب سے اہم وقت وہی ہو گا، سب سے خطرناک وقت وہی ہو گا، اور ہماری کامیابی اور ناکامی کا دار و مدار اسی وقت پر ہو گا، ایسے وقت میں ہم تعالیٰ کے رحم و کرم کے کتنے محتاج ہوں گے، نبی ﷺ نے فرمایا کہ اگر تم دنیا میں صلہ رحمی کرو گے تو حق تعالیٰ ایسے اہم موقع پر تم پر رحم و کرم فرمائیں گے۔

صلہ رحمی کے چار فوائد:

اس کے علاوہ اس کے بہت سے فوائد ہیں، ایک حدیث میں نبی ﷺ نے اس کے چار فوائد بیان کئے ہیں کہ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، بری موت سے حفاظت ہوتی ہے، اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

حضرت علی ﷺ سے روایت ہے:

”مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ وَيُبَسِطُ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُدْفَعُ عَنْهُ مَيْتَةُ الشَّوَّى وَيُشَتَّتَ جَابِ لَهُ دُعَاءُهُ فَلَيُصْلِلَ رَحْمَةً“ (شعب الایمان: باب في صلة الأرحام، ۷۹۳۸)

جو آدمی یہ چاہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں درازی (برکت) پیدا فرمائے، اور اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں، اور بری موت سے اس کو بچائیں اور اس کی دعا قبول ہو جائے تو چاہیے کہ وہ صله رحمی کرے۔ ایک حدیث میں صله رحمی کے ساتھ (فلیتیق اللہ) تقویٰ اختیار کرنے کا بھی حکم ہے۔

صدقہ سے غضبِ الٰہی ٹھنڈا ہوتا ہے:

ایک حدیث میں ہے کہ صله رحمی کی وجہ سے اللہ پاک کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے:

”صِلَةُ الرَّحْمَمِ تَزِيدُ فِي الْعُمُرِ وَصِدَقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ“ (کنز العمال: کتاب الاخلاق: ۶۹۰۹)

”صلہ رحمی سے عمر میں اضافہ (برکت) اور پوشیدہ صدقہ سے رب کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے“

صلہ رحمی کی پکار:

صلہ رحمی ایسا عمل ہے کہ دنیا میں بھی اس کا ساتھ ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا ساتھ ہوتا ہے، حق تعالیٰ سے کل قیامت میں یہ سفارش کرے گی، اور صله رحمی کرنے والوں کے ساتھ صله رحمی اور مہربانی کی درخواست کرے گی، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِنَّ الرَّحْمَمَ لَتَتَعَلَّقُ بِالْعَرْشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَتَقُولُ: يَا رَبِّ إِقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي وَصِلْ مَنْ وَصَلَنِي“ (کنز العمال: کتاب الاخلاق، ۶۹۳۰)

صلہ رحمی قیامت کے دن عرش کو تھام لے گی اور کہے گی کہ اے رب! تو اس سے قطع تعلق کر لے جس نے دنیا میں میرے ساتھ قطع تعلق کیا تھا، اور صله رحمی کر اس کے ساتھ جس نے میرے ساتھ صله رحمی کی تھی“

یہ اس کے چند فضائل ہیں جو نبی ﷺ نے احادیث مبارکہ میں بیان فرمائے ہیں، ان سے اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عمل کتنا مقبول ہوتا ہے؟ اور اس کے دنیوی اور اخروی کیا کیا فوائد ہیں؟

صلہ رحمی میں کوتاہی سے ڈرو:

اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جہاں صلہ رحمی پر اتنا بڑا ثواب ہے تو وہیں صلہ رحمی نہ کرنے پر موآخذہ اور پکڑ بھی اسی طرح سخت ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا:

”وَاتْقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَّقِيبًا“ (النساء: ١)

”اور تم خدا تعالیٰ سے ڈرو جس کے نام سے ایک دوسرے سے سوال کیا کرتے ہو اور قربت سے بھی ڈرو بالیقین اللہ تعالیٰ تم سب کی اطلاع رکھتے ہیں“

یعنی اللہ تعالیٰ کے جس نام کا حوالہ دے کر تم دوسروں سے اپنے حقوق طلب کرتے ہو اور جس کے نام کی قسمیں دے کر دوسروں سے اپنا مطلب نکالتے ہو، اور مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ پاک کی صفتِ رحم کے حوالہ سے وہ سوال کرتے تھے۔ (تفسیر قرطبی: ۵/۵) تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس نام والی ذات سے بھی ڈرو، اور اپنے رشتہ داروں کے حقوق میں کوتاہی سے ڈرو، حق تعالیٰ کی صفتِ رحم کا حوالہ دیکر تم سوال تو کرتے ہو لیکن وہ رحم تم اپنوں کے ساتھ کیوں نہیں کرتے؟

صلہ رحمی نہ کرنے پر حق تعالیٰ کی لعنت:

اس آیت میں تو صرف قطع تعلق سے بچنے اور اللہ پاک سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، لیکن دوسری آیت میں تو اللہ پاک نے لعنت فرمائی ہے:

”فَهَلْ عَسِيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُقْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقْطِلُوا أَرْحَامَكُمْ - أَوْلِيَكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَلَ أَبْصَارَهُمْ“ (محمد: ۲۲ و ۲۳)

سو اگر تم کنارہ کش رہو تو آیا تم کو یہ احتمال بھی ہے کہ تم دنیا میں فساد مچادو اور آپس میں قطع قرابت کر دو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنی رحمت سے دور کر دیا پھر انکو بہر اکر دیا اور انکی آنکھوں کو اندھا کر دیا۔

یعنی دنیا میں قطع تعلق کرنے والے اور صلہ رحمی نہ کرنے والے پر اللہ تعالیٰ لعنت فرمائے ہیں کہ جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں اور رشتہوں کا پاس لحاظ نہیں کرتے اور قطع تعلق کر لیتے ہیں تو ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، شاید اسی اہمیت کی وجہ سے جب اللہ پاک نے انسان کو پیدا کیا تھا تو صلہ رحمی نے اللہ سے پناہ چاہی تھی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”خَلَقَ اللَّهُ الْخَلْقَ، فَلَمَّا فَرَغَ عِمَّةُ قَامَتِ الرَّجِمُ فَأَخَذَتْ بِحَقْوِ الرَّحْمَنِ فَقَالَ لَهَا مَاهِهٌ، قَالَتْ هَذَا مَقَامُ الْعَائِدِ بِكَ مِنَ الْقُطْبِيَّةِ، قَالَ أَلَا تَرَ ضَيْئَنَ أَنْ أَصِلَّ مَنْ وَصَلَكِ وَأَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ. قَالَتْ بَلَى يَا رَبَّ، قَالَ فَذَاكِ لَكِ“ (صحیح بخاری: کتاب التفسیر: ۳۸۳۰)

جب اللہ پاک مخلوق کو پیدا فرمائے تو صلہ رحمی نے رحمن کی کمر کو پکڑ لیا، یعنی وہ اللہ کی پناہ چاہنے لگی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رک جا، وہ کہنے لگی یہ مقام تو قطع رحمی سے پناہ مانگنے کا مقام ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ کیا تواریخی نہیں کہ میں اس سے قطع تعلق کرلوں جو تجوہ کو قطع کرے اور میں اس سے صلہ رحمی کروں جو تجوہ کو جوڑے رکھا، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ تیری تسلی کے لئے یہ کافی ہے۔

اب آپ اندازہ لگائیے کہ قطع رحمی کتنی خطرناک چیز ہے، خود صلہ رحمی بھی حق تعالیٰ سے پناہ چاہ رہی ہے، اور حق تعالیٰ خود قاطع رحم سے ناراض ہیں بلکہ لعنت فرمائے ہیں تو اس سے بچنا کتنا ضروری ہے؟

یہ صلہ رحمی نہیں ہے:

صلہ رحمی کا شریعت میں یہ حکم ہے لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی کے ساتھ صلہ رحمی کرنا چاہیں اور اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیں تو پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمارے

ساتھ کیا کیا؟ اس نے ہم کو تخفہ دیا یا نہیں؟ اگر دیا ہے تو کون ساتھ دیا؟ اور کتنا تخفہ دیا؟ اس پس منظر کو سامنے رکھ کر ہم اس کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، لیکن یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ حسن سلوک نہیں ہے، اصل صلہ رحمی تو یہ ہے کہ آدمی حسن سلوک میں بدلہ نہ دے، یہ نہ دیکھے کہ فلاں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا یا نہیں؟ کیا تو کتنا کیا؟ نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِيِّ، وَلَكِنَ الْوَاصِلُ الَّذِي إِذَا قُطِعَتْ رِحْمَةً وَصَلَّهَا“ (صحیح بخاری: کتاب الادب، ۵۹۹۱)

صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں ہے جو بدلہ دینے والا ہو، اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا جائے تو وہ اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے اور حسن سلوک کرے۔

غرض اس آیت میں رشته داروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ مالی ہو یا جانی ہو، خواہ وہ ان کی عزت اور عظمت سے متعلق ہو، یا ان کے ساتھ مواسات اور غم خواری سے متعلق ہو، یہ سب صلہ چیزیں رحمی میں داخل ہیں، اور پھر ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے میں بھی ایک ترتیب ہے، کیونکہ ان کے مختلف درجات ہیں، اس اعتبار سے ان کے حقوق ادا کرنے کا حکم ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی یہ بات ذکر کی جا چکی ہے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو ان حقوق کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)



فواحش اور منکرات سے بچیں

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تحریک: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، جمادی الاولی، ۱۴۳۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

فواحش اور منکرات سے بچیں:

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعِفُرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَمْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَمْ يُصْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا۔ اَمَّا بَعْدُ۔

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

”إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعْلَكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (النحل: ٩٠)

”بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“

برادران اسلام! اس سے پہلے آپ کے سامنے عدل، احسان، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے متعلق چند باتیں عرض کی گئیں، اس جمہ میں ”نهی عن الفحشاء اور نہی عن المنکر“ سے متعلق چند باتیں ذکر کرنے کا ارادہ ہے۔

شریعت کا مجموعہ دو چیزیں ہیں:

اس سے پہلے اوصیہ کا بیان تھا، اب نواہی کو ذکر فرمائے ہیں، گویا شریعت کا مجموعہ دو چیزیں ہیں: (۱) اوصیہ۔ (۲) نواہی۔ اوصیہ امر کی جمع ہے، نواہی ناہیت کی جمع ہے، اوصیہ یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے کا حکم دیا گیا، اور نواہی یعنی وہ چیزیں جن کے کرنے سے منع کیا گیا ہے۔

قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ پاک نے تین اوامر اور تین نواہی کا ذکر کیا ہے، اور اوامر میں بنیادی طور پر یہ تین چیزیں بیان کی ہیں: (۱) عدل۔ (۲) احسان۔ (۳) ایتاء ذی القربی۔ اور نواہی میں بھی بنیادی طور پر تین چیزیں بیان کی ہیں: (۱) فخش۔ (۲) منکر۔ (۳) بغی۔

شریعت میں مامورات زیادہ ہیں یا منہیات:

گویا اوامر کا خلاصہ بھی تین چیزیں ہیں اور نواہی کا خلاصہ بھی تین چیزیں ہیں۔ اس سے ایک بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ شریعت میں جتنے مامورات ہیں اتنے ہی منہیات ہیں، کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ سارے اوامر کا مجموعہ یہی تین اوامر ہیں، اور سارے نواہی کا مجموعہ یہی تین چیزیں ہیں، پتہ چلا کہ جتنے مامورات ہیں اتنے ہی منہیات۔ ایسے ہی جتنے مامورات ہیں وہ مامورات تو ہیں ہی لیکن وہ منہیات میں بھی داخل ہیں، کیونکہ ان کو نہ کرنے سے روکا گیا ہے، اور جتنے منہیات ہیں وہ تو ہیں ہی لیکن وہ مامورات بھی ہیں۔ کیونکہ ان سے بچنے کا حکم ہے۔ اس لئے جو مامور ہے وہ منہی بھی ہے اور جو منہی ہے وہ مامور بھی ہے۔

فواحش سے کیا مراد ہے؟

مامورات کا بیان تو ہو چکا، اب منہیات کے بارے میں کچھ باتیں ذہن میں رکھیں، ان میں سب سے پہلے فخش کا ذکر کیا گیا، مفسرین نے فخش کی تفسیر میں چند اقوال نقل کئے ہیں:

”قِيلَ : إِلَرِنَا ، وَقِيلَ : الْبُخْلُ ، وَقِيلَ : كُلُّ الدُّنُوبِ سَوَاءً كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَيْرَةً ، وَسَوَاءً كَانَتْ فِي

الْقُولِ أَوْ فِي الْفِعْلِ“ (تفسیر رازی: ۹/۲۵۲)

(۱) زنا۔ (۲) بخل۔ (۳) تمام گناہ، خواہ صغیرہ ہوں یا کبیرہ، خواہ قول سے ہوں یا فعل سے۔

فخش کا ایک وسیع مفہوم:

(۴) بعض علماء نے فخش کی تفسیر میں لکھا ہے کہ فخش اسے کہتے ہیں جس کو نفوس انسانی برائی صحیحیں، یعنی فخش ہر ایسے قول اور فعل کو شامل ہے جس کو نفوس قبیح سمجھیں، اور کی وجہ سے

آدمی میں فساد پیدا ہو، جو باطل اعتقاد پیدا کرے، مخرب اخلاق ہو، اور جس سے افراد یا مجموعہ کو نقصان یا تکلیف پہنچے، جیسے قتل، چوری، تہمت، غصب، زنا، جوا، شراب پینا، پس فخش کے مفہوم میں ہر وہ فعل داخل ہے جس سے ضروری یا مناسب امور میں خلل ہو۔ (التنویر والتحریر: ۱۳/۲۵۷)

ہمارے پاس کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کی نظر میں توبہ ہیں لیکن دنیا والوں کی نظر میں بری نہیں ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعت کی نظر میں بھی بری ہیں اور دنیا والوں کی نظر میں بھی بری ہیں، فخش کے مفہوم میں یہ سب داخل ہیں، گویا اللہ پاک نے ان چیزوں کے کرنے سے روکا ہے جو شریعت میں بھی بری ہیں اور دنیا والوں کی نظر میں بھی بری ہیں، جیسے کسی کو گالی دینا، نہ شریعت میں اس کی اجازت ہے اور نہ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، بے حیائی، ننگا پن، زنا، کسی کے یہاں بھی پسندیدہ نہیں، لوگوں نے اس کو فیشن بنالیا ہے لیکن اس کی کسی مذہب میں اجازت نہیں، جس کسی میں ذرا سی انسانیت باقی ہو گی تو وہ ان کو ناپسند ہی کرے گا، انسانیت جب مسخر ہو جاتی ہے تو فواحش پسندیدہ ہو جاتے ہیں، فطرت میں چینجس (Changes) آنے لگتے ہیں، جھوٹ بولنا سب کے نزدیک بری بات ہے کسی کے نزدیک اچھا نہیں ہے، دھوکہ، غیبت، تہمت اور بہتان یہ چیزیں تمام مذاہب میں بری شمار ہوتی ہیں، یہ سب فواحش میں داخل ہیں، ان سب چیزوں سے اللہ پاک نے روکا ہے۔

حلت و حرمت کا اختیار کسی کو نہیں:

اور ان چیزوں سے روکنے کا اور ان کو حرام قرار دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے، کسی اور کو نہیں، بلکہ کسی بھی چیز کو حرام اور حلال قرار دینے کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے۔ کسی کو اللہ پاک نے اس کا اختیار نہیں دیا ہے، اور جو چیزیں بندوں نے اپنے طور پر حرام کر رکھی تھیں اللہ پاک نے اس پر بھی تنبیہ کی اور بتایا کہ اس کا اختیار صرف ہمیں حاصل ہے، تم جو چاہے نہیں کر سکتے، کفارِ مکہ نے احرام کی حالت میں اپنے اوپر وڈک لیعنی چربی کو حرام کر لیا تھا، اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ بکری کے گوشت، دودھ وغیرہ کو بھی حرام کر رکھا تھا، اور پھر بیت اللہ کا طواف بھی بالکل برہمنہ ہو کر کرتے تھے، اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی۔ (تفسیر طبری: ۱۲/۳۹۵)

”قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالظَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ“ (الاعراف: ٣٢)

”آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے“

یہ چیزیں ہم نے حلال کی ہیں، تم کون ہو جو ان کو حرام کر دو، کھاؤ، پیو، اور عمدہ لباس پہنو، لیکن اس میں اسراف نہ ہونا چاہئے، اور یہ بھی اسراف میں سے ہے کہ تم کسی چیز کو حلال قرار دو اور کسی کو حرام، کیونکہ اس کا اختیار تو صرف اللہ کو ہے۔

حلال و حرام کا اختیار نبی کو بھی نہیں:

حتیٰ کہ اللہ پاک نے یہ اختیار نبی کو بھی نہیں دیا ہے کہ وہ جس کو چاہے حلال قرار دیں، اور جس کو چاہے حرام قرار دیں، پیغمبر جس چیز کو حلال یا حرام قرار دیتے تھے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا تھا، نبی صرف ترجمانی فرماتے تھے، شارع اللہ ہی ہوتے ہیں، اسی لئے قرآن پاک میں اللہ پاک نے نبی ﷺ کے بارے میں فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ تَبَغْيُ مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ (التحریم: ١)

”اے نبی جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ (قسم کھا کر) اسکو (اپنے اوپر) کیوں حرام فرماتے ہیں؟ (پھر وہ بھی اپنی بیویوں کی خوشنودی حاصل کرنے کیلئے) اور اللہ تعالیٰ بخششے والا مہربان ہے“

آپ ﷺ کی قسم کا واقعہ:

اس آیت کے نزول کا واقعہ یہ ہے، حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کا معمول تھا کہ عصر کے بعد آپ سب ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے تھے۔ ایک روز حضرت زینب ؓ کے پاس معمول سے زیادہ ٹھہر گئے، اور شہد نوش فرمایا تو مجھ کو رشک آیا اور میں نے حفصہ سے مشورہ کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس آپ تشریف لاویں تو وہ یوں کہے کہ اے اللہ کے رسول! کیا آپ نے مغافیر نوش فرمایا ہے؟ مغافیر ایک خاص قسم کا گوند ہوتا ہے

جس میں کچھ بدبو ہوتی ہے، اور بدبو کی چیزوں سے رسول اللہ ﷺ بہت پر ہیز فرماتے تھے، چنانچہ آپ تشریف لائے اور ازواج مطہرات نے کہا کہ شاید آپ نے مغافیر نوش فرمایا ہے، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ازواج مطہرات نے کہا کہ ہم کو اس طرح کی بو محسوس ہو رہی ہے، شاید کمھی مغافیر کے درخت پر بیٹھی ہو اور اس کارس چو سا ہو، اسی وجہ سے اس کی بدبو محسوس ہو رہی ہے، آپ نے قسم کھائی کہ آئندہ پھر میں شہد نہ پیوں گا، تو اللہ پاک نے یہ آیت نازل کی۔
 (صحیح بخاری: کتاب الطلاق: ۵۲۷) ”اے نبی! جس چیز کو اللہ نے آپ کے لئے حلال کیا ہے آپ قسم کھا کر اسکو اپنے اوپر کیوں حرام فرماتے ہیں؟“ اس سے پتہ چلا کہ اسلام میں کسی نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جس چیز کو چاہیں حلال کر لیں، اور جس چیز کو چاہیں حرام کر لیں، اس کا اختیار صرف اللہ کو ہے، حلال قرار دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، اور حرام قرار دینے والی ذات بھی اللہ کی ہے، بندوں میں کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔

مولوی حرام کرتے نہیں حرام بتاتے ہیں:

بہت سے لوگ مولویوں پر الزام دھرتے ہیں کہ مولوی ہر چیز کو حرام قرار دیتے ہیں، ہر چیز سے روکتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مولوی کسی چیز کو اپنی ذات سے حلال اور حرام نہیں قرار دیتے، بلکہ مولوی حلال اور حرام ہونا بتلاتے ہیں، اللہ پاک نے انہیں بھی اس کا اختیار نہیں دیا، جب نبی کو تک اس کا اختیار نہیں ہے تو علماء کو کیسے اختیار ہو سکتا ہے؟ اہل حق علماء کسی چیز کو اپنی طرف سے اپنی غرض کی بنیاد پر حلال اور حرام قرار نہیں دیتے بلکہ اس کا حلال اور حرام ہونا بتلاتے ہیں۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کو ہے، کسی اور کو نہیں۔

کفارِ مکہ نے چونکہ اپنے اوپر چند چیزوں کو حالتِ احرام میں حرام کر رکھا تھا، اس لئے اللہ پاک نے ان کو تنبیہ کی کہ ہماری حلال کردہ چیزوں کو حلال جانو، اور اس کو استعمال کرو، اور حرام چیزوں کو حرام جانو اور اس سے بچو، وہ حرام چیزیں کیا ہیں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا:

”قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبُّ الْفُوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمُ وَالْبُغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَمْ لَأَعْلَمُونَ“ (الاعراف: ۳۳)

”آپ فرمائیے کہ البتہ میرے رب نے حرام کیا ہے تمام فخش باتوں کو ان میں جو علانیہ ہیں وہ بھی، (جیسے برہنے طواف کرنا)، اور ان میں جو پوشیدہ ہیں وہ بھی، (جیسے بد کاری) اور ہر گناہ کی بات کو اور ناحق کسی پر ظلم کرنے کو اور اس بات کو کہ تم اللہ کے ذمے ایسی بات لگاؤ جس کی تم سندھ رکھو“

اس آیت میں بھی اللہ پاک نے فواحش سے منع کیا ہے، اور فخش کی تفسیر اس سے پہلے گزر چکی ہے کہ فخش ہر اس برے کام کو کہتے ہیں جو شریعت کی نظر میں تو بر اہو ہی لیکن بندوں کی نظر میں بھی بر اہو، چاہے اخلاقیات میں ہو، یا معاملات میں ہو، یا معاشرت میں ہو، یا خوشیوں میں ہو، یا غموں میں ہو، زبان سے ہو، یادوں سے ہو، دماغ سے ہو، یا آنکھوں سے ہو، یہ سب فخش کے دائرے میں آتے ہیں، چاہے ہم علانیہ کریں یا چھپ کر، اندھیرے میں کریں یا اجائے میں، خلوت میں کریں، یا جلوت میں، رات میں کریں، یادن میں، ان سب کو اللہ پاک دیکھتے ہیں، اور جانتے ہیں، اور کل قیامت میں ہمارا موآخذہ بھی فرمائیں گے۔ اس لئے ان سے بچنا چاہئے۔

مامورات اور منکرات کا مقابلہ:

علماء نے یہاں فخش منکر اور بُغی کا ایک اور معنی لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں عدل کے مقابلہ میں فخش ہے، اور عدل کہتے ہیں اعتدال اور درمیانی راہ کو، تو اس اعتبار سے فخش کا مطلب یہ ہو گا کہ جو چیزیں حدِ اعتدال سے گزر جائیں وہ فخش ہیں، منکر، احسان کے مقابلہ میں ہے، اور احسان کہتے ہیں کسی بھی کام کو عمدگی سے اور بہتر طریقے پر کرنا، جس کی تفسیر گزر چکی ہے، تو اس اعتبار سے منکر اس کام کو کہیں گے جو عمدہ اور بہتر طریقے سے نہ کیا جائے، اور بُغی کو ذوی القربی کے مقابلہ لا یا گیا، اس اعتبار سے بُغی اس کو کہتے ہیں جس میں ذوی القربی کو ان کا حق نہ دیا جائے، اور ان پر ظلم کیا جائے۔ (روح المعانی: ۲۸۱/۱۰)

منکر کسے کہتے ہیں؟

دوسری چیز جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے وہ ”منکر“ ہے، منکر کا کیا مطلب ہے؟ تو مفسرین نے منکر کے بارے میں چار اقوال نقل کئے ہیں:

(۱) منکر سے مراد شرک ہے۔ (۲) منکروہ ہے جس کے بارے میں شریعت اور سنت میں کچھ موجود نہ ہو۔ (۳) منکراس کو کہتے ہیں جس پر جہنم کا وعدہ کیا گیا ہو۔ (۴) منکراس کو کہتے ہیں جس میں انسان کا ظاہر باطن سے اچھا ہو (یعنی جو باطن میں نہ ہو، ظاہر ادکھاوے کے لئے اس کو کیا جائے)۔ (تفسیر رازی: ۳۵۲/۹، وزاد المیسر: ۱۲۲/۳)

اور بعض علماء نے لکھا ہے کہ منکروہ ہے جس گناہ کی دنیا میں حد نہ ہو لیکن آخرت میں عذاب ہو۔ اور بعض نے کہا کہ منکروہ ہے جس کو عقل سلیم رکھنے والے بھی منکر سمجھیں۔ (روح المعانی: ۲۸۱/۱۰)

بعض علماء کہتے ہیں کہ منکراس کو کہتے ہیں جس سے شریعت نے روکا ہے، اور اس کو فتح قرار دیا ہے، خواہ وہ اقوال ہوں یا افعال، خواہ ان کا مفسدہ اور ان کی قباحت بڑی ہو یا چھوٹی، خواہ وہ غیر کی طرف متعدد ہو یا نہ ہو۔

منکر اور فخش میں فرق:

غرض منکراس کو کہتے ہیں جس سے شریعت میں روکا گیا ہو، اور جو شریعت کی نظر میں برا ہو، خواہ وہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہیں، فخش تو شریعت کی نظر میں بھی برا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظر میں بھی برا ہوتا ہے، لیکن منکروہ ہوتا ہے جو شریعت کی نظر میں برا ہو، بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں ظاہری طور پر ان کا برا ہونا معلوم نہیں ہوتا، اور لوگوں کی نظر میں وہ برے نہیں ہوتے، اور ان کا برا ہونا لوگوں کی عقل میں نہیں آتا، لیکن شریعت کی نظر میں برے ہوتے ہیں، جیسے پیشاب کی وجہ سے ناپاک ہو جانا، یا جنبی ہونے کی وجہ سے ناپاک ہو جانا، یا ہوا خارج ہونے کی وجہ سے وضو کا ٹوٹ جانا، آدمی کا ناپاک ہو جانا، اور نماز کے قابل نہ ہونا، انسان اس حالت میں شریعت کی نظر میں گند، ناپاک اور نجس ہوتا ہے، لیکن انسانوں کے نزدیک اس میں ناپاکی اور نجاست کا کوئی کانسپٹ (concept) نہیں، انسان کو اس کا ناپاک گندہ اور نجس ہونا نظر نہیں آتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے آدمی اس حالت میں ناپاک، گندہ اور نجس ہوتا ہے، اب وہ نماز نہیں

پڑھ سکتا، قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، اس مثال سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ منکر شریعت کی نظر میں برآ ہوتا، چاہے وہ ہماری سمجھ میں نہ آئے۔

منکر میں علماء کا اختلاف نہیں ہوتا:

منکر کے بارے میں ایک اور بات ذہن میں رکھیں کہ منکر کے بارے میں علماء کا اختلاف بھی نہیں ہوتا، وہ متفق علیہ ہوتا ہے، اگر اس میں علماء کا اختلاف ہو جائے تو پھر وہ منکر کی فہرست میں داخل نہیں ہوتا، اگر کوئی کہتا ہے کہ منکر ہے، اور کوئی کہتا ہے کہ منکر نہیں ہے تو پھر وہ منکر کے زمرہ میں نہیں آتا، منکر میں علماء کا اتفاق ہوتا ہے، جیسے زوال کے وقت نماز پڑھنا منکر ہے، سورج نکلتے وقت نماز پڑھنا منکر ہے، سورج ڈوبتے وقت نماز پڑھنا منکر ہے، عید کے دن روزہ رکھنا منکر ہے، کیونکہ سب اس پر متفق ہیں، اور ساتھ ہی یہ ایسا منکر ہے کہ اگر ہمیں شریعت نہیں بتاتی تو ہم کو اس کا منکر ہونا بھی معلوم نہیں ہوتا، اس کا منکر ہونا شریعت کے بتانے سے ہی ہمیں معلوم ہوا، اس سے پتہ چلا کہ منکر وہ ہوتا ہے جو شریعت کی نظر میں برآ ہوتا ہے، کبھی تو وہ ہماری سمجھ میں آ جاتا ہے اور کبھی ہماری عقل اور فہم اسے سمجھ نہیں پاتی۔

ناجاائز پر اتفاق بھی منکر میں داخل ہے:

بعض دفعہ لوگ کسی بات پر متفق ہو جاتے ہیں، لیکن وہ شریعت کی نظر میں منکر ہوتا ہے، ان کے اتفاق کی وجہ سے وہ منکر منکر ہی ہوتا ہے، علماء کبھی منکر پر اتفاق نہیں کرتے، لیکن لوگ کر لیتے ہیں، اس لئے اگر لوگ کسی ناجائز چیز پر اتفاق کر لیں تو وہ منکر ہی ہو گا۔ ان کے اتفاق کا کائی اعتبار نہ ہو گا، بلکہ ان کا اتفاق ہی منکر ہو گا۔

ناجاائز چیز میں حمایت بھی منکر میں داخل ہے:

ایسے ہی ناجائز چیز میں حمایت بھی منکر میں شامل ہے، انتشار کے خوف سے کسی کی حمایت بھی منکر میں شامل ہے، اس لئے ناجائز چیز میں حمایت جائز نہیں ہے، جائز چیز میں حمایت ہوتی

ہے، ناجائز چیز میں حمایت منکرات میں سے ہے، اس صورت میں فساد کی ذمہ داری اور وباں بھی اسی شخص پر پڑتا ہے جو گڑ بڑ کر رہا ہوتا ہے اور جو اس کی حمایت کرتا ہے، غرض منکر شریعت کا بیان کیا ہوا ہوتا ہے، ویسے فخش بھی شریعت کی بیان کی ہوئی ہی ہوتی ہے، اور شریعت کی نظر میں وہ بھی منکر ہوتی ہے لیکن فخش میں وہ برائیاں ہوتی ہیں جسے انسان کی عقل قبول کر لیتی ہے، منکر میں انسان کی عقل کا قبول کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ منکر کا مدار عقل پر نہیں بلکہ نقل اور وحی پر ہوتا ہے، عقل کی رسائی وہاں تک نہیں ہوتی، اس لئے اس کی برائی عقل کی سمجھ میں بھی نہیں آتی۔

منکر کی دو قسمیں:

ان منکرات کی تفصیل بہت لمبی ہے، کچھ تو منکرات وہ ہوتے ہیں جس کی باضابطہ شریعت میں صراحةً ہوتی ہے، مثلاً سود کا پیسہ نہ کھانا، حرام دعوت نہ کھانا، غم اور صدمہ میں حد سے تجاوز نہ کرنا، غم میں سینہ کوبی نہ کرنا، چہروں کونہ نوچنا، کپڑوں کانہ پھاڑنا، چیننا اور چلانا نہیں، اور منکرات کی ایک قسم وہ ہے کہ جو چیزیں دین میں داخل نہیں ہیں اور جو شریعت میں قرآن و حدیث اور صحابہ سے ثابت نہیں ہیں ان کو ثابت مان کر ان کو دین کا لازمی حصہ بنادینا، اور نہ کرنے والوں پر لعن طعن کرنا، یہ بھی منکرات میں سے ہے، شریعت کی اصطلاح میں اسے بدعت کہتے ہیں، اور یہ سخت منکر ہوتا ہے، اور شریعت میں اس کا گناہ بھی بہت بڑا ہے، اور اس پر سخت و عید بھی ہے، محرم الحرام کی جتنی بدعتات ہیں، صفر المظفر کی جتنی بدعتات ہیں، ربیع الاولیٰ کی جتنی بدعتات ہیں، رجب اور شعبان کی جتنی بدعتات ہیں وہ سب منکرات میں داخل ہیں، اور یہ منکر کی دوسری قسم میں داخل ہیں۔

غرض میرے بزرگو اور دوستو! شریعت نے گویا ان کے اصول بیان کر دیئے ہیں کہ فلاں فلاں منکر ہے، اور فلاں چیز بدعت ہے، اس کی فہرست بہت لمبی ہے، اب جو چیزیں بھی اس زمرے میں آئیں گی، اور اس کی تعریف میں داخل ہو جائیں گی تو وہ منکر میں داخل ہو جائیں گی، ان سے پچنا ضروری ہو گا، اب ساری دنیا چاہے اسے منکرنہ سمجھے، لیکن شریعت منکر کہتی ہے

تو قصہ ختم، بحث کا موقع ہی نہیں ہے، اس سے رکنا ضروری ہو گا، اب اس میں کوئی حلہ نہیں، کوئی تدبیر نہیں، کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ قابل قبول نہ ہو گا۔

منکر کے درجات:

ہاں ان منکرات کے بارے میں کچھ تفصیل ہے، اس کے کچھ درجات ہیں، کچھ تو وہ ہوتے ہیں جن کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے تو ان کا کرنا حرام ہوتا ہے، ان کی حرمت بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کچھ منکرات وہ ہوتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت نہیں ہوتے بلکہ دلیل ظنی سے ثابت ہوتے ہیں، ان کا منکر ہونا حرام کے درجہ کا نہیں ہوتا، بلکہ کم درجہ کا ہوتا ہے، اس کو مکروہ تحریکی کہتے ہیں، لیکن اس کا کرنا بھی حرام کے قریب قریب ہوتا ہے، اور کچھ منکرات وہ ہوتے ہیں جن سے عارضی طور پر یا کسی مصلحت کی وجہ سے رحم اور شفقت کی بنیاد پر کسی چیز یا کسی عمل سے روکا جاتا ہے تو اس کا منکر ہونا اور بلکہ درجہ کا ہو جاتا ہے، یہ کراہت کراہت تنزیہ ہوتی ہے، یہ کرنا خلاف اولی ہوتا ہے، اگر کر لیں تو گناہ نہیں ہوتا، تاہم اس کا نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، غرض چاہے منکر کسی درجہ کا ہواں سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ ہے ہی ناپسندیدہ، تبھی تو اس سے روکا گیا، منع کیا گیا، اس لئے ان سے رکنا چاہیے۔

”وَالْسِنَنُ كَأْرَى مَرَاتِبٍ، مِنْهَا مَرْتَبَةُ الْحَرَامِ، وَمِنْهَا مَرْتَبَةُ الْمَكْرُورِ وَفِيَّةُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ..“ (التحریر

والتنویر: ۲۵۷/۱۳)

بغی کی حقیقت:

تیسرا چیز جس سے اس آیت میں روکا گیا ہے وہ بغی ہے، بغی کسے کہتے ہیں؟ تو مفسرین نے اس کے بارے میں لکھا ہے:

”وَالْبُغْيُ: هُوَ الْكِبْرُ وَالظُّلْمُ وَالْحَقْدُ وَالتَّعْدِي وَحَقِيقَتُهُ تَجَاوِزُ الْحَدِّ وَهُوَ دَاخِلٌ تَحْتَ الْمُنْكَرِ لِكِتَابِهِ تَعَالَى خَصَّهُ بِالذِّكْرِ إِهْتِمَاماً بِهِ لِشِدَّةِ صَرَرِهِ“ (روح المعانی: ۲۸۰/۱۰، وتفسیر رازی: ۲۵۲/۹)

اور بغیٰ کبر، ظلم، کینہ اور سرکشی کو کہتے ہیں، اور بغیٰ کی حقیقت حد سے تجاوز کرنا ہے، اس اعتبار سے یہ منکر میں داخل ہے، اسی طرح فحش بھی منکر میں داخل ہے، لیکن اللہ پاک نے خاص طور پر ان دونوں کی قباحت بتانے کے لئے ان کو الگ سے ذکر کیا۔

ظلم کی سزا دنیا میں بھی ملے گی:

قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں بغیٰ سے متعلق بھی سخت و عیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اس کا وبال خود آدمی کو بھگتنا پڑتا ہے، اور آخرت سے پہلے دنیا ہی میں اس کو بھگتنا پڑتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَعْيِكُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ“ (یونس: ۲۳)

”اے لوگو! (سن لو) یہ تمہاری سرکشی تمہارے لیے وبال (جان) ہونے والی ہے“

ایک حدیث میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”لَا ذَنْبٌ أَسْرَعُ عُقُوبَةً مِنْ بَغْيٍ“

کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی سزا جلد ہی دنیا میں دیدی جائے سوائے ظلم کے۔

اور دوسرا حدیث میں ہے:

”أَشَرَّ عَالْخَيْرِ ثَوَابًا الْبَيْرُ وَصَلَةُ الرَّحْمٍ . وَأَشَرَّ الشَّرِّ عُقُوبَةُ الْبَغْيِ وَقَطْبِيَّةُ الرَّحْمٍ“ (سن ابن

ماجہ: کتاب الزہد: ۳۲۱۲)

اللہ پاک لوگوں پر احسان اور صلحہ رحمی کا ثواب بھی جلد ہی دیتے ہیں اور ظلم اور قطع رحمی کی سزا بھی جلد ہی دے دیتے ہیں۔

دوسرے گناہوں کی سزا تو کل قیامت میں اللہ پاک دیں گے، لیکن ظلم ان گناہوں میں سے ہے جس کی سزا اللہ پاک دنیا ہی میں دیتے ہیں، وہاں بھی ظالم کی پکڑ ضرور ہو گی لیکن دنیا میں بھی اس کو پکڑا جائے گا۔ اور دنیا میں خود اسے اپنے ظلم کا وبال اور نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔

(تفسیر اضواء البيان: ۲/۳۳۸)

بغادت بھی بغی میں داخل ہے:

بغی کے ایک معنی بغاوت، سرکشی اور فتنہ برپا کرنے کے ہیں، گویا کسی کی طاعت میں رہنے سے انکار کرنا، کسی کے خلاف خروج کرنا، آپس میں پھوٹ اور فتنہ پیدا کرنا بھی بغی کے مفہوم میں داخل ہے، اس کا بھی بڑا گناہ ہے، نبی ﷺ نے اس سے بچنے کی بھی تاکید کی ہے، اور اپنے امیر یا حکام اور حکمرانوں کی بغاوت اور ان کی بات نہ ماننے سے سختی سے روکا ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے پورا نظام در ھم بر ھم ہو جاتا ہے، خود باغی کو بھی اس کا نقصان پہنچتا ہے اور دوسرے بھی اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں اور بعض دفعہ تو ان کی جان اور مال تک کے لائل پڑ جاتے ہیں، اسی لئے قرآن مجید میں اللہ نے ان کی اطاعت کا حکم دیا:

”يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَئِكُمْ أَمْرٌ مِنْكُمْ“ (النساء: ٥٩)

اس آیت میں الوالامر سے دینی اعتبار سے علماء اور فقہاء اور دنیوی اعتبار سے حکام مراد ہیں، اور مفسرین نے کسی بھی معاملہ میں امیر کی اطاعت کو اس آیت کی رو سے لازم قرار دیا ہے۔

”وَالظَّاهِرُ (وَاللَّهُ أَعْلَمُ) أَنَّ الْآيَةَ فِي جَمِيعِ أُولَئِكَ الْأَمْرِ مِنَ الْأُمْرَاءِ وَالْعُلَمَاءِ“ (تفسیر ابن کثیر:

۳۲۵، ۲) اس لئے کسی سے بغاوت جائز نہیں ہے۔

کیا ہر امر میں امیر کی اطاعت کی جائے گی؟

ہاں اگر حکام یا امراء خلاف شرع کاموں کا حکم دیں تو اب ان کی اطاعت نہیں کی جائے گی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر عمل کیا جائے گا۔ کیونکہ حدیث میں نبی ﷺ نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ ﷺ نے ایک لشکر روانہ کیا اور اس کا امیر عبد اللہ بن حذافہ کو مقرر کیا اور لشکر کو ان کی اطاعت کا حکم دیا۔ وہ ان سے کسی بات پر خفا ہو گئے، اور بہت زیادہ ناراض ہو گئے، اور ان سے کہنے لگے کہ کیا رسول اللہ ﷺ نے تمہیں میری اطاعت کا حکم نہیں دیا تھا؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا: اچھا تو ایندھن جمع کرو، آگ جلاو اور اس میں داخل ہو جاؤ، لوگوں نے لکڑیاں جمع کیں اور آگ جلائی اور جب داخل ہونے کا ارادہ کیا

تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کچھ نے کہا ہم نے رسول اللہ کی اطاعت ہی اس لیے کی ہے کہ آگ سے بچ جائیں، اب کیسے آگ میں داخل ہوں گے؟ یہ کشمکش ان میں شروع ہو گئی اسی دوران آگ بجھ گئی اور امیر کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا، جب یہ لوگ واپس آئے تو اس بات کا ذکر آپ سے کیا، آپ ﷺ نے فرمایا: اگر تم آگ میں داخل ہو جاتے تو اس سے کبھی نہ نکلتے۔ اس کے بعد فرمایا: ”إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ“ امیر کی اطاعت صرف معروف کاموں میں کی جائے گی، اور مسلم کی روایت میں ہے: ”لَا طَاعَةُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ“ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں کی جائے گی، امیر کی اطاعت صرف معروف کاموں میں کی جائے گی۔ (صحیح بخاری، کتاب الاحکام، ۱۳۵ و مسلم، کتاب الامارة، ۳۸۷)

اس سے پتہ چلا کہ امیر کی اطاعت صرف اس وقت تک جائز ہے، جب تک کہ امیر کے احکام اور قوانین خلاف شرع نہ ہوں، اگر وہ خلاف شرع ہوں تو پھر ان کی اتباع نہیں کی جائے گی۔ غرض اللہ پاک نے اس آیت میں ان تین منکرات سے روکا ہے، جس کی کچھ تفصیل آپ حضرات کے سامنے ذکر کی گئی۔

فخش، منکر اور بغی سے کیسے بچا جائے؟

اب سوال یہ ہے کہ انسان ان فواحش اور منکرات سے کیسے بچے؟ تو آدمی اپنے اندر پائی جانے والی جو قوتیں ہیں، جو خواہشات ہیں، اور جو شیطانی وساوس آتے ہیں ان پر کنٹرول کرے، اور ہمت سے کام لے۔

انسان کی چار قوتیں اور ان کا اثر:

امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر چار قسم کی قوتیں رکھی ہیں، (۱) قوت شهوانیہ، بہمیہ۔ اس کی وجہ سے آدمی میں شہوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے آدمی زنا وغیرہ جیسے فواحش کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے، اسی وجہ سے قرآن پاک میں زنا کو فخش سے تعبیر کیا گیا ہے:

”إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتَأً وَسَاءَ سَبِيلًا“ (النساء: ۲۲)

(۲) دوسری قوت ہوتی ہے قوت غضبیہ سبعیہ، یہ انسان کو شر، تکلیف اور ایذا پہنچانے پر ابھارتی ہے۔ اس لئے اس حالت کو منکر اور بری ہی سمجھتے ہیں۔ (۳) تیسری قوت قوت وہمیہ شیطانیہ ہوتی ہے، یہ آدمی کو کبر اور بڑائی پر ابھارتی ہے، جس کی وجہ سے آدمی دوسروں پر تفوق، فخر اور استعلاء چاہتا ہے، اللہ پاک نے اس آیت میں فحش کہہ کر قوت شہوانیہ اور منکر کہہ کر قوت غضبیہ اور باغی کہہ کر قوت شیطانیہ اور ان کی جانب سے جو غلط اور برابرے تقاضے انسان میں پیدا ہوتے ہیں ان سے منع فرمایا ہے۔ اور ان میں شرعی حدود سے تجاوز سے روکا ہے۔ (۴) اس کے علاوہ ایک قوت قوت عقلیہ اور ملکیہ کھلاتی ہے، لیکن انسان کو اس کی تادیب اور تہذیب کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ ملائکہ کے جواہر میں سے ہوتی ہے۔ (تفسیر رازی: ۳۵۵/۹)

چونکہ اوپر کی تین قوتوں کی تہذیب اور تادیب کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے اللہ پاک انہیں تینوں کا ذکر فرمایا ہے کہ ان تین قوتوں کو آدمی قابو میں کر لے اور ان پر کنٹرول کر لے تو پھر ان سے بچنا اس کے لئے آسان ہو جاتا ہے۔

تفسیر ابوالسعود میں لکھا ہے کہ کسی انسان میں کوئی شر اور برائی نہیں ہوتی ہے مگر وہ انہیں قسموں میں داخل ہوتی ہے اور انہیں تین قویٰ کے توسط سے وہ شر اور برائی ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی وجہ سے حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ آیت خیر اور شر کے لئے قرآن کی سب سے جامع آیت ہے، اگر کوئی آیت نہ بھی ہوتی تو یہ آیت اپنی جامعیت کے اعتبار سے کافی ہوتی۔ (تفسیر ابوالسعود: ۱۳۸/۳)

غرض انسان اپنی نفس کی خواہشات پر کنٹرول کر لے، اور اپنے غصب پر بھی قابو پالے اور غصہ میں آپ سے باہرنہ ہو اور ساتھ ہی شیطانی قوت اور اس کے وساوس سے اللہ کی پناہ بھی چاہے تو ان تینوں منکرات سے بچنا آسان ہو جاتا ہے۔ لیکن ان تینوں قوتوں کو قابو میں کرنا آسان کام نہیں ہے۔ اس کے لئے کسی بزرگ اور ولی اللہ کی صحبت ضروری ہوتی ہے، ان کی

صحبت میں رہ کر ان کے فیض سے مستفید ہوتے ہوئے ان کو قابو میں کرنا آسان ہوتا ہے، یہ چند باتیں ان آیات کی تفسیر سے متعلق آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)



علم کے بعد عمل ضروری ہے

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نوال الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تحریر: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بقام: شریعہ بورڈ آف امریکہ، جمادی الثانی ۱۴۳۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

علم کے بعد عمل ضروری ہے

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهُدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اَمَّا بَعْدُ۔

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل: ٩٠)

”بے شک اللہ تعالیٰ اعتدال اور احسان اور اہل قرابت کو دینے کا حکم فرماتے ہیں اور کھلی
برائی اور مطلق برائی اور ظلم کرنے سے منع فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو اس کے لیے نصیحت
فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“

بزرگان محترم! اور برادران اسلام!

چند ہفتوں سے خطباتِ جمعہ سے متعلق مضامین ذکر کئے جا رہے تھے، کچھ فضائل، کچھ احکام،
اور کچھ آیات کی تفسیر آپ کے سامنے بیان کی گئی، اور خطبہ اولیٰ اور خطبہ ثانیہ کے مضامین کا

خلاصہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا، اور چند ہفتوں سے خطبہ کے اخیر میں پڑھی جانے والی آیت کی تشریح بھی آپ کے سامنے پیش کی جا رہی تھی، آج اس کے آخری جزء کے بارے میں چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اور اس کا آخری جزء ہے:

”يَعْظُمْ لَعِلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ“ (النحل: ٩٠)

”اللَّهُ تَعَالَى تم کو اس کے لیے نصیحت فرماتے ہیں کہ تم نصیحت قبول کرو“

حق تعالیٰ شانہ نے اس میں جوبات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو سننے اور پڑھنے کے بعد اس کا اثر اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کو قبول کریں، اور اپنی زندگیوں میں اس کو لائیں۔

سننے کے بعد اس کا اثر لیں:

کیونکہ کسی بھی چیز کا تاثر لینا اور اس کو قبول کرنا ہی بڑا ہم ہوتا ہے، اور انسان کی تربیت کیلئے یہ ضروری ہے، اگر کوئی تاثر نہ لے اور کسی بات کا اس پر کوئی اثر نہ ہو، صرف وہ سنتا ہی رہے تو اس کے سننے کا کیا فائدہ؟ کیونکہ جب اس بات سے اس کی اصلاح ہی نہیں ہو رہی ہے تو وہ بے عمل کا بے عمل ہی رہے گا، جیسے عمل کی ایک عادت ہوتی ہے، اسی طرح بے عمل کی بھی ایک عادت ہوتی ہے اور بغیر عادت کے عمل کرنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے، جب کسی کو بے عمل کی عادت پڑی ہوئی ہو اور اس کو اس کے خلاف کرنے کے لئے کہا جائے تو اس کے لئے اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ جیسے کسی کو تہجد کی عادت نہیں ہے اور اس کو تہجد ادا کرنے کے لئے کہا جائے یا کسی کو ذکر کی عادت نہیں ہے اور اس کو ذکر کرنے کے لئے کہا جائے تو اس کے لئے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔

بے عمل بہرے ہیں:

اس لئے اصل چیز سننے کے بعد اس پر عمل کرنا ہوتا ہے، اور جو عمل نہیں کرتے گویا قرآن کی زبان میں وہ بہرے ہیں، ان کا سنتا بھی نہ سننا ہوتا ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا:

”وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، إِنَّ شَرَ الدَّوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الصَّمُدُ الْعَكْمُ
الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ“ (الانفال: ٢١)

”اور (اے ایمان والو) تم ان لوگوں کی طرح مت ہونا جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم نے سن لیا
حالانکہ وہ سنتے سناتے کچھ نہیں۔ بے شک بدترین خلالق اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو بھرے
ہیں گو نگے ہیں جو کہ ذرا نہیں سمجھتے“

اس آیت میں بتایا گیا کہ وہ لوگ سننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، لیکن جو سننے کا مقصد ہے یعنی عمل
کرنا وہ ان میں نہیں ہے اس لئے ان کا سنتا بھی بے فائدہ اور بے کار ہے۔

بے عمل کو قیامت میں افسوس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں:

اگر عمل نہ ہو تو کل قیامت میں سوائے افسوس کے اور کوئی چارہ نہیں ہو گا، قرآن پاک میں
اللہ تعالیٰ نے کافروں کا وہ قول نقل کیا ہے جو قیامت میں وہ کہیں گے:

”لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ“

”اگر ہم سنتے یا سمجھتے تو نہ ہوتے دوزخ والوں میں“

لیکن وہاں افسوس کا کیا فائدہ؟ اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سننے کے بعد اگر آدمی
نہ سمجھے اور عمل نہ کرے تو وہ بھرا، گونگا اور بدترین ہے، اور ظاہر ہے کہ یہاں بھرے ہونے سے
فریکلی بھرا ہونا مراد نہیں ہے، کیونکہ بھر اس کو کہتے ہیں جس کو سنائی نہ دے، اور یہاں ایسا نہیں
ہے، اس لئے یہاں بھرے سے مراد بات کو سن کر اس کو قبول نہ کرنا اور اس کا اثر نہ لینا مراد
ہے، مثلاً آپ نے اپنے بچے سے کوئی کام کہا، اور اس نے اس کو نہیں کیا، تو سب اس کو یہی کہتے
ہیں کہ یہ بات ہی نہیں سنتا، حالانکہ وہ تو سنتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا، اس لئے کہتے ہیں
کہ یہ سنتا ہی نہیں، پتہ چلا کہ سننے کے بعد اس کا اثر لینا اور اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل
کرنا ضروری ہے، اور سناتے ہیں اسی مقصد کے لئے تاکہ اس پر عمل کیا جاسکے، اور وعظ و نصیحت
اسی مقصد سے کرتے ہیں تاکہ اس کا اثر قبول کر کے اس کے مطابق چل سکے، اس لئے سننے کے

بعد اور کسی چیز کو جان لینے کے بعد اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے، اللہ پاک بندوں کو یہاں اسی کی نصیحت فرمائے ہیں کہ ہم نے تم کو عدل، احسان، رشته داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اور فخش، مکرات اور بُغی سے روکا ہے، اس نصیحت کو سن لو! اس کا اثر لو! اور اس پر عمل کرو! اسی لئے ہم نے یہ چیزیں تمہارے سامنے بیان کی ہیں۔

کثیر معلومات مقصود نہیں:

زیادہ معلومات مقصود نہیں، اگر آدمی کو ایسا لکھر دیا جائے کہ ہر مرتبہ اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے تو اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں ہو گا، جب تک کہ اس کی زندگی میں عمل نہ آئے، صرف معلومات کو لے کر وہ کیا کرے گا، معلومات کی کثرت اصل نہیں ہے، بلکہ معلومات پر عمل ضروری ہے، جب تک عمل نہ ہو وہ معلوم بے فائدہ ہے۔

صحابہ کا معلوم معمول تھا:

صحابہ کی زندگی دیکھیں، ان میں یہی چیز تھی، ایک ایک سورت سیکھنے میں سالہا سال لگ جاتے تھے، کسی کو صرف سورۃ بقرہ سیکھنے میں ڈھائی سال لگ رہے ہیں اور کسی کو آٹھ (۸) سال لگ رہے ہیں، کیوں؟ اس لئے کہ جتنا وہ سیکھتے تھے پہلے اس پر عمل کرتے تھے، جب سورت مکمل ہوتی تو اس سورت پر ان کا مکمل عمل بھی ہوتا تھا، ان کا علم ان کا عمل تھا، اور ان کا عمل ان کا علم تھا، اس لئے کہ علم کے حصول کے بعد عمل نہ ہو تو بڑی سخت پکڑ ہو گی، اور وہ علم آدمی کے لئے بغیر عمل کے وباں ہو گا۔

حضرت والد صاحب حَمْدَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا ایک ملفوظ:

اس موقع پر والد صاحب حَمْدَةُ اللَّهِ تَعَالَى کا ایک ملفوظ یاد آیا، وہ فرماتے تھے کہ معلومات کو معمولات بنانا چاہیے۔ فرماتے تھے کہ معلومات کی کوئی اہمیت نہیں ہے، معمولات کی اہمیت ہے کہ علم کے بعد عمل ہوا یا نہیں؟ کیونکہ عمل ہی اصل علم ہوتا ہے، بلکہ علم کی وہ تعریف کرتے تھے کہ اصل

علم وہ ہے جو علیم تک پہنچائے، اور علیم تک بندہ عمل کے ذریعہ پہنچتا ہے، اسی وجہ سے حضور ﷺ کا عمل صحابہ کا علم تھا، صحابہ کا عمل تابعین کا علم تھا، ان کے اعمال کے ذریعہ علم حاصل ہوتا تھا۔ اور عمل اس وقت پیدا ہوتا ہے جب علم کے بعد اس کا اثر اپنے اندر پیدا کریں، اور اس کا تاثر لیں۔

بے عمل سے جانور بہتر ہیں:

اگر ہمارے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو تو ہم میں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، جانور بھی کھاتے ہیں، پیتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں، جدھر جو چیز نظر آتی ہے ادھر اپنا منہ مارتے ہیں، ہمارا بھی یہی حال ہے، ہم بھی کھارے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، جدھر جو چیز نظر آتی ہم بھی ادھر منہ مار رہے ہیں، نہ حلال کی پرواہ ہے اور نہ حرام کی، بس دنیا اور دنیا کی مال و دولت کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں۔

زمین و آسمان کی ہر شئی ذکرِ خدا میں مشغول ہے:

بلکہ ہمارا حال تو جانور سے بدتر ہے، کیونکہ وہ تو اللہ پاک کی تسبیح کرتے رہتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا:

”وَلِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَقْعِدُهُنَّ تَسْبِيْحَهُمْ“ (الاسراء: ۳۳)

”اور کوئی چیز ایسی نہیں جو تعریف کے ساتھ اس کی پاکی (قالاً يَا حَالًا) بیان نہ کرتی ہو لیکن تم لوگ ان کی پاکی بیان کرنے کو سمجھتے نہیں ہو“

زمین و آسمان کی تسبیح حالی یا قائمی:

روئے زمین بلکہ آسمانوں اور زمینوں میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کی سب اور خود آسمان اور زمین بھی اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کی تسبیح زبانِ قائل سے ہوتی ہے زبانِ حال سے نہیں، یہی بات زیادہ صحیح ہے، اور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے۔ (تفسیر

کیونکہ اللہ پاک فرمار ہے ہیں: ”وَلِكُنْ لَا تَقْهِمُونَ تَسْبِيْحَهُمُّ“، یعنی زمین و آسمان اور ان میں پائی جانے والی مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں لیکن ہم ان کی تسبیح نہیں جانتے، اگر ان کی تسبیح قولی نہ ہوتی بلکہ حالی ہوتی تو آدمی اس کو تدبر اور تفکر سے جان لیتا، لیکن اللہ پاک فرمار ہے ہیں کہ تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے اور ظاہر ہے کہ ہم ان کی حقیقی تسبیح نہیں سمجھ سکتے اس لئے ان کی تسبیح کرنے سے حقیقت میں تسبیح کرنا مراد ہے۔

پہاڑوں کی تسبیح اور ان پر خوفِ خدا کا اثر:

اس کے علاوہ کئی آیاتِ مبارکہ اور احادیثِ مبارکہ سے حقیقتہ ان کی تسبیح ثابت ہوتی ہے، جیسے پہاڑوں کے بارے اللہ پاک نے فرمایا:

”إِنَّا سَخَّرْنَا الْجَبَالَ مَعَهُ يَسْبِحُونَ بِالْأَعْشِيٍّ وَالْأَشْرَاقِ“ (ص: ۱۸) یعنی ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ داؤد (علیہ السلام) کے ساتھ صبح و شام تسبیح کرتے ہیں، ایسے ہی سورہ بقرہ میں پہاڑوں کے اللہ کے خوف سے گرنے کا ذکر ہے: ”وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ“ (البقرة: ۲۷) یعنی پہاڑ کے بعض پتھر اللہ کے خوف سے نیچے گر جاتے ہیں۔

ایسے ہی ایک حدیث میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

”إِنَّ الْجَبَلَ يَنادِي الْجَبَلَ بِاسْمِهِ يَا فُلُانُ! هَلْ مَرِبَكُ الْيَوْمَ ذَاكِرٌ فَإِنْ قَالَ نَعَمْ اسْتَبَشَرَ“ (شعب

الایمان: العاشر من شعب الإيمان وهو باب في محبة الله العزوجل: ۵۳۸)

”ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے: اے فلاں کیا تیرے اوپر کوئی ایسا آدمی گذر رہے جو اللہ کو یاد کرنے والا ہو، اگر وہ کہتا ہے کہ ہاں تو یہ پہاڑ اس سے خوش ہوتا ہے“

کھانے کی تسبیح:

ایسے ہی ایک روایت میں حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

”كُنَّا نَسْمَعُ تَسْبِيْحَ الطَّعَامِ وَهُوَ يُؤْكَلُ“ (صحیح بخاری: کتاب المناقب: ۳۵۷۹)

ہم رسول کریم ﷺ کے ساتھ کھانا کھاتے تو کھانے کی تسبیح کی آواز ہم سناتے تھے، اسی طرح پتھروں کا سلام کرنا، کنکریوں کا کلمہ پڑھنا اور استوانہ حنانہ کارونا اس کے علاوہ کئی روایات اور واقعات سے ثابت ہوتا ہے کہ جمادات ہوں یا نباتات، سب میں ایک شعور ہوتا ہے، ایک احساس ہوتا ہے، حق تعالیٰ کا ان میں خوف ہوتا ہے، اور وہ حق تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول ہوتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ ہمیں ان کی تسبیح سمجھ میں نہیں آتی، اس شعور اور ادراک کے بعد ان کا حقیقت میں تسبیح کرنا مراد لیں تو یہ کوئی امر مستبعد بھی نہیں۔ غرض یہ سب چیزیں اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتی ہیں، جب کہ ان کو اس کے لئے نہیں پیدا کیا گیا، اور ہم کو عبادت کے لئے پیدا کیا گیا لیکن پھر بھی ہم عبادت نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جینے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس کھانے پینے کے لئے ہم کو پیدا کیا گیا۔ اللہ پاک فرمائے ہیں کہ اس جانوروں والی زندگی سے نکلو، عمل والی زندگی کو اپناو۔

اللہ کا ذکر کثرت سے کریں:

اس کے بعد خطبہ میں ایک نصیحت یہ کی جاتی ہے:

”أُذْكُرُوا اللَّهَ الْعَظِيْمَ يَذْكُرُكُمْ وَادْعُوهُ يَسْتَجِبُ لَكُمْ وَلَذْكُرُ اللَّهِ تَعَالَى أَوْلَى وَأَعَزُّ وَأَجَلٌ وَأَهَمُّ
وَأَتْمُّ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ“

کہ اللہ کو یاد کرتے رہا کرو، اور اس سے دعا مانگتے رہو، اس کا خاص الناس فائدہ یہ ہو گا کہ اگر تم اللہ کو یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں یاد کریگا، اور جب تم اس سے دعا مانگو گے تو وہ تمہاری دعا قبول کرے گا۔

ذکر اللہ کی حقیقت:

یاد رکھیں کہ ایک ذکر یہ ہے کہ اللہ کی تسبیح، تحمید، اور تکبیر بیان کی جائے، کلمہ کا ورد رکھا جائے، یہ تو ذکر ہے ہی لیکن اصل ذکر یہ ہے کہ اللہ پاک کی اطاعت کو یاد رکھا جائے، اس کے

علم کے بعد عمل ضروری ہے

احکام کو یاد رکھا جائے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے ذکر اللہ کی تفسیر اطاعت اور فرمانبرداری سے کی ہے، وہ فرماتے ہیں: ”مَنْ لَمْ يُطِعْهُ لَمْ يَذْكُرْهُ وَإِنْ أَكْثَرُ التَّسْبِيحَ وَالْتَّهْلِيلَ وَقِرَاءَةَ الْقُرْآنِ“ (تفسیر قرطبی: ۱۶۶/۲) یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی نہ کی اس نے اللہ کو یاد نہیں کیا اگرچہ ظاہر میں اس کی تسبیح، تہلیل اور قراءۃ قرآن کتنی بھی ہو۔

احکام الہی پر عمل نہ ہو تو ذکر و تسبیح کے باوجود انسان گنہ گار ہے:

ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

”مَنْ أَطَاعَ اللَّهَ فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ وَإِنْ أَقْلَ صَلَاةً وَصُومَةً وَصَبَّيْغَةً لِلْخَيْرِ وَمَنْ عَصَى اللَّهَ فَقَدْ نَسِيَ اللَّهَ وَإِنْ كَثُرَ صَلَاةً وَصَوْمَةً وَصَبَّيْغَةً لِلْخَيْرِ“

جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس نے اللہ کو یاد کیا، اگرچہ اس کی نفل نماز، روزہ وغیرہ کم ہوں اور جس نے احکام خداوندی کی خلاف ورزی کی اس نے اللہ کو بھلا دیا اگرچہ (بظاہر) اس کی نماز روزہ، تسبیحات وغیرہ زیادہ ہوں۔

نماز کا مقصد:

اور جتنی عبادتیں ہیں وہ بھی اللہ کی یاد کے لئے ہیں، جیسے نماز کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا: ”وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي“ (طہ: ۱۳) نماز کو قائم کرو میرے ذکر کیلئے اور میرے دھیان کیلئے، یعنی نماز سے یہ کیفیت پیدا کرلو کہ میں تمہیں یاد ہو جاؤں، اور ہر جگہ تم مجھ کو یاد رکھ سکو، اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی یاد کتنی اہم چیز ہے! نماز جیسی عظیم عبادت بھی اس کی یاد دلانے کے لئے ہے۔ تو اطاعتِ الہی اصل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تسبیح، تہلیل اور تحمید کو چھوڑ دیا جائے، وہ بھی بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم چیز ہے، اس کے بھی بہت سے فوائد ہیں، اسی وجہ سے قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا: ”وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ“ (العنکبوت: ۲۵)

اور اللہ کی یاد اور اس کا ذکر بڑی چیز ہے۔

ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ پاگل کہنے لگیں:

حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَكْثِرُهُو أَذِكْرُ اللَّهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ“ (مستدر ک حاکم: کتاب الدعاء: ۱۸۳۹)

ذکر اتنا کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں پاگل کہیں، مطلب یہ ہے کہ ذکر کو اپنا مشغله بنا لو، دیکھنے والے کہیں کہ یہ تو اس کا مشغله ہے، جس چیز کو آدمی کثرت سے کرنے لگتا ہے یا اس کا مشغله بنالیتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں اس چیز کا پاگل ہے، بعض لوگ کرکٹ کے پاگل ہوتے ہیں، رات اور دن اسی کی فکر پڑی رہتی ہے، اور راتوں میں خواب بھی اس طرح کے نظر آنے لگتے ہیں، کس نے کتنے چوکے مارے؟ کتنے چکے مارے؟ کس نے کتنا اسکور کیا؟ کون ہارا؟ کون جیتا؟ اگرچہ کہ اس میں ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، لیکن پوری فکر اور پورا وقت اسی میں صرف ہوتا ہے، ایسے ہی بعض لوگ گاڑیوں کے دیوانے ہوتے ہیں، کبھی یہ گاڑی خریدی، کبھی وہ گاڑی خریدی، کبھی اس کو بدلا، کبھی اس کو بدلا، یہ نیا ماذل ہے، وہ پرانا ماذل ہے، ایسے ہی کسی کو کھانے میں زیادہ دلچسپی ہوتی ہے، کس ہوٹل کا کھانا اچھا ہے؟ کہاں کہاں لزیذ کھانے ملتے ہیں؟ کیا کیا کھانے ملتے ہیں؟ وغیرہ وغیرہ، غرض کسی چیز کے ساتھ قلبی مشغولیت اور اس میں پوری توجہ اور اس میں وقت صرف کرنے کو پاگل اور جنون سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حدیث میں نبی ﷺ نے ذکر بھی اتنی ہی کثرت سے ذکر کا حکم دیا ہے۔

ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”أَكْثِرُهُو أَذِكْرُ اللَّهِ حَتَّى يَقُولَ الْمُنَافِقُونَ إِنَّكُمْ مُرَاوِرُونَ“ (شعب الانیمان: العاشر من شعب الإيمان وهو باب

فی محبة الله عز وجل: ۵۲۷)

یعنی ذکر اللہ اتنی کثرت سے کرو کہ منافقین یہ کہنے لگیں کہ تم دکھاوا کر رہے ہو۔ یہ تو آپ نے امت کو ترغیب دی، اور خود آپ ﷺ کا معمول بھی یہی تھا۔

ذکر اللہ اور حضور ﷺ کا معمول:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ ﷺ کے بارے میں فرماتی ہیں:

”کانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَذْكُرُ اللَّهَ عَلَى كُلِّ أَحْيَاءٍ“ (صحیح بخاری: کتاب الاذان، ۶۳۳)

”نبی ﷺ ہر وقت اللہ پاک کا ذکر کرتے تھے“

اس لئے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہئے، درود شریف ہے، استغفار ہے،
کلمہ طیبہ ہے، تلاوت قرآن ہے، تسبیح ہے، تکمیل ہے، اسماء حسنی ہے، غرض جو چاہے
ذکر کیا جاسکتا ہے۔

زبان کے ایک بول کی اہمیت:

ہمارے لئے یہ کتنا آسان ہے! بس زبان کے ذریعہ اسے کرنا ہوتا ہے، اور زبان سے ذکر
کرنے میں یہ سہولت ہے کہ اس میں وقت، از جی اور طاقت کم استعمال ہوتی ہے اور کام زیادہ
ہوتا ہے، مثلا جب آدمی نکاح کرتا ہے، اور جب ولی کی طرف سے آفر ہوتا ہے کہ میں اپنی بیچی کو
انتنے مہر کے بد لے میں ان گواہوں کی موجودگی میں آپ کے نکاح میں دیا، تو وہ کہتا ہے: ”میں
نے قبول کیا“ مرد کو کہنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چند سینڈس کا کام ہے! لیکن اس عورت کے
ساتھ اس کا زندگی بھر کا معاملہ ہو گیا، اب زندگی بھرا سے ساتھ رکھنا ہوتا ہے، اور زندگی بھر
اس کے تمام حقوق ادا کرنے پڑتے ہیں، اور اتنا کہنے سے ایک حرام رشتہ ہمیشہ کے لئے حلال
ہو جاتا ہے، ایسے ہی اگر مرد عورت کو طلاق دے دیتا ہے تو طلاق دینے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ کتنی
از جی لگتی ہے؟ بس ایک لفظ سے ایک حلال رشتہ حرام میں بدل جاتا ہے، ایسے ہی آدمی بڑے
بڑے بزنس زبان کے ایک بول کے ذریعہ انجام دیتا ہے، کسی نے کہا کہ میں نے یہ مکان
فروخت کر دیا، میں نے یہ مکان خرید لیا، حالانکہ بعض مرتبہ خریدنے والے کے پاس جو کچھ ہے
وہ اس کی زندگی بھر کی پونجی ہوتی ہے، پوری عمر محنت کر کے دو ڈھانی لاکھ ڈالر کمایا وہ پورے
انتا کہنے سے کسی اور کے ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ایک آدمی ستر ۰۷ سال تک غیر اللہ کی پوجا کرتا

ہے، اپنے معبود کی نافرمانی کرتا ہے، اور ستر سال نافرمانی کرنے کے بعد صرف ایک مرتبہ زبان سے کلمہ شہادت ادا کرتا ہے تو اس کے ستر سالہ کفر و شرک کے گناہ دھل جاتے ہیں، اور اس کی سابقہ زندگی بے غبار اور آئینہ کی طرح گناہوں سے صاف شفاف ہو جاتی ہے، حدیث میں ہے: ”أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهُ“ کہ اسلام پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، اسلام لانے کے بعد کسی چیز کا موآخذہ نہیں، نہ نماز کا، نہ روزے کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا۔

چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاۓ ضروری ہے:

اسی پر قیاس کر کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو نمازوں چھوٹ جائیں ان کی قضاۓ نہیں ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، کیونکہ غیر مسلم اسلام سے پہلے احکام کاذمہ دار نہیں ہوتا، جب تک وہ اسلام قبول نہیں کرتا اس سے صرف اسلام کا مطالبہ ہے، نماز، روزہ وغیرہ کا اس سے مطالبہ نہیں ہے، چونکہ اسلام سے پہلے وہ ان احکام کا مکلف نہیں ہوتا اس لئے اسلام کے بعد ان چیزوں کا اس سے مطالبہ بھی نہیں ہے، اور مسلمان کے ذمہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج فرض ہوتے ہیں، اس لئے ان کے چھوٹنے پر اس کی ادائیگی بھی مسلمان پر ضروری ہوتی ہے، جتنی نمازوں چھوٹ جائیں ان کی قضاۓ ضروری ہے، جتنے روزے چھوٹ جائیں ان کی قضاۓ ضروری ہے، جتنے سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اتنی ادا کرنا ضروری ہے، یہی وجہ تھی کہ حضور پاک ﷺ کی ایک مرتبہ نماز فوت ہو گئی تو آپ نے اس کی قضاۓ فرمائی، آپ کی نماز کہاں فوت ہوتی! وہ تو اللہ کی طرف سے فوت کروائی گئی تاکہ امت کو پتہ چلے کہ چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضاۓ ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ ایسے بے ہودہ بھی اس امت میں پیدا ہونے والے ہیں جو چھوٹی ہوئی نمازوں کو معاف سمجھیں گے۔

تبیح، تحمید اور تکبیر کی فضیلت:

بہر حال زبان میں کتنی نزاکت ہے، اور زبان کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اس کے ایک چھوٹی سے بول کی اہمیت کا اندازہ کرنا بھی مشکل ہے، ایک حدیث میں آپ ﷺ نے فرمایا:

”سُبْحَانَ اللَّهِ نِصْفُ الْمَيْزَانِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ يَعْمَلُ الْمَيْزَانَ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ يَعْمَلُ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ“ (سنن دار می: باب ماجاء فی الطہور: ۲۷۹)

سبحان اللہ آدھا ترازو بھر دیتا ہے، اور الحمد للہ مکمل ترازو بھر دیتا ہے، اور اللہ اکبر آسمان و زمین کے درمیان کو بھر دیتا ہے، دیکھنے میں تین چھوٹے بول ہیں، لیکن ان کا ثواب اور اجر کتنا بڑا ہے، چونکہ اس میں وقت نہیں لگتا، محنت نہیں لگتی، کہنے میں کوئی مشکل نہیں ہوتی اس لئے ہمارے پاس اس کی کوئی اہمیت نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا کچھ خاص فائدہ نہیں ہے، اس کا کوئی خاص نتیجہ نہیں ہے، لیکن اللہ کے ہاں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔

ہمارے اعضاء ریموت کنٹرول کی طرح ہیں:

اس کو ایک حسی مثال سے یوں سمجھو کہ انسان کے جسم کی ایک ایک حرکت ریموت کنٹرول کے بٹن کی طرح ہے، جو بہت اسموٹ ہوتا ہے، چھوٹا سا بچہ بھی اس کو دبا سکتا ہے، جب آپ اس کو دبائیں گے تو بڑی بڑی مشنریاں چلنے لگتی ہیں، پوری کمپنی اس ایک بٹن کے دبائے سے حرکت میں آجائی ہے، بچہ بھی اگر چاہے تو اس کو آن کر سکتا ہے، ہمارے جسم میں بھی یہ بٹن لگے ہوئے ہیں، ہماری آنکھ، ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پیر ہمارا دل، ہمارا دماغ یہ سب بٹن ہیں، ان کا کام بہت ہلاکا ہوتا ہے، لیکن نتیجہ اور ثمرہ بڑا ہوتا ہے، زبان کے بارے میں عربی زبان کا ایک مقولہ ہے، ”جزْمَةَ صَغِيرٍ، جُزْمَةَ كَبِيرٍ“ اس کی جسامت بہت چھوٹی ہوتی ہے لیکن اس کا جرم بڑا ہوتا ہے، اسی طرح ذکر اللہ بھی ہے، بس زبان سے ادا کرنا ہے، کہنے میں بھی آسان ہے، اور اس کو ادا کرنے میں کوئی وقت اور مشکل بھی نہیں ہوتی، لیکن اس کا ثواب بے انہماء ہے۔

اس لئے اللہ کا ذکر کثرت سے کرتے رہنا چاہیئے، بیٹھے ہوئے بھی، لیٹئے ہوئے بھی، جلوٹ میں بھی، اور خلوٹ میں بھی، چلتے پھرتے بھی اور کام کا ج کرتے ہوئے بھی، جیسا کہ صحابہ کے بارے میں اس سے قبل ایک جمعہ میں ذکر آیا تھا کہ بیع، تجارت و ملازمت اور دنیوی امور میں مشغولیت ان کو ذکر اللہ سے غافل نہیں کرتی تھی:

”رِجَالٌ لَا تُنْهَا يُهُمْ تِجَارَةٌ وَلَا يَسْعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ“ (النور: ٣)

(پچھے لوگ ایسے ہیں) جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے سے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خرید غفلت میں ڈالتی ہے اور نہ فروخت۔

ذکر اللہ کے فوائد:

کثرت ذکر کے فوائد اور فضائل بہت ہیں، جن میں سے چند آپ نے سنے ہیں، ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارا ذکر فرشتوں میں کرتے ہیں:

”مَنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَمَنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَائِكَةِ كَرْتُهُ فِي مَلَائِكَةِ مِنْ مَلَائِكَةٍ“

جو مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے نفس میں یاد کرتا ہوں، اور جو مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اسے ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو اس کی مجلس سے بہتر ہوتی ہے“
اللہ پاک کا ہم کو اپنی مجلس میں یاد کرنا فرشتوں میں ہمارا ذکر کرنا ہمارے لئے بڑی فضیلت، بڑی خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہے، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے قرب خداوندی بھی نصیب ہوتا ہے۔ اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کی برکت سے دنیوی امور بھی حل ہو جاتے ہیں۔ اور مصالح اور پریشانیوں کو اللہ پاک دور فرماتے ہیں۔

اعمال کا محاسبہ کریں:

یہ چند باتیں عمل اور ذکر سے متعلق عرض کی گئیں، جو جمعہ کے عربی خطبہ کا آخری جز ہے، جس کی ہر جمعہ خطیب تعلیم دیتا ہے اور لوگوں کو اس کی تلقین کرتا ہے۔ یہ مضامین آپ کو اس لئے سنائے گئے تاکہ جب خطیب خطبہ دے تو ہم ان مضامین کا استحضار کریں، اور عمل کا جذبہ لے کر اٹھیں، اور گذشتہ جمعہ سے اس جمعہ تک اس پر کتنا عمل ہوا اس پر غور کریں، اس کا مراقبہ کریں، کیونکہ مراقبہ سے احساس پیدا ہوتا ہے، اور احساس سے عمل آسان ہوتا ہے، اور ہماری زندگی کا مقصد عمل ہی ہے، اگر عمل ہی ہماری زندگی میں نہ آئے تو کیا فائدہ؟ اس لئے جو

کہا جاتا ہے اور جو سناجاتا ہے اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھال لیں، ذکر کا اہتمام کریں، صحیح و شام کی تسبیحات اور درودِ شریف کا اہتمام کریں، استغفار اور کلمہ طیبہ کا اہتمام کریں، چوتھا کلمہ اور مسنون اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ پاک مجھے اور آپ کو صحیح علم اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ (آمین)



عید کا پیغام

افادات: حضرت مفتی شاہ محمد نواں الرحمن صاحب دامت برکاتہم
ترتیب و تحریق: مفتی محمد عطاء الرحمن ساجد قاسمی
بمقام مسجد نور شکاگو، شوال، ۱۴۲۶ھ۔
ناشر: شریعہ بورڈ آف انڈیا۔

عید کا پیغام:

نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ
أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِي اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ اللَّهُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِهِ وَاصْحَابِهِ وَسَلَّمَ
تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا اَمَّا بَعْدُ۔

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔

”شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلِيَصُمِّمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخْرَى يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُّ
الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُّ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَأْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ“ (البقرة: ١٨٥)

”(وہ تھوڑے دن) ماہ رمضان ہے جس میں قرآن مجید بھیجا گیا ہے، جس کا (ایک) وصف یہ
ہے کہ لوگوں کے لیے (ذریعہ) ہدایت ہے اور (دوسراؤصف) واضح الدلالۃ ہے مجملہ ان
(کتب) کے جو (ذریعہ) ہدایت (بھی) ہیں اور (حق و باطل میں) فیصلہ کرنے والی (بھی) ہیں سو
جو شخص اس ماہ میں موجود ہو اس کو ضرور اس میں روزہ رکھنا چاہیے سو جو شخص بیمار ہو یا سفر میں
ہو تو دوسرے ایام کا (اتنا، ہی) شمار (کر کے ان میں روزہ رکھنا) (اس پر واجب) ہے اللہ تعالیٰ کو
تمہارے ساتھ (احکام میں) آسانی کرنا منظور ہے اور تمہارے ساتھ (احکام و قوانین مقرر کرنے
میں) دشواری منظور نہیں اور تاکہ تم لوگ (ایام ادا یا قضائی) شمار کی تکمیل کر لیا کرو (کہ ثواب

میں کسی نہ رہے) اور تاکہ تم لوگ اللہ تعالیٰ کی بزرگی (وشا) بیان کیا کرو اس پر کہ تم کو (ایک ایسا) طریقہ بتلادیا (جس سے تم برکات و ثمراتِ صیامِ رمضان سے محروم نہ رہو گے) اور (عذر سے خاص رمضان میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت اس لیے دیدی) تاکہ تم لوگ (اس نعمت آسمانی پر اللہ کا) شکر ادا کیا کرو۔“

عید کی حقیقت:

آج عید کا دن ہے، اللہ پاک سارے عالم کے مسلمانوں کیلئے عید کو مبارک فرمائے، اور سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے، اور سب کی لغزشوں کو معاف فرمائے، اور صحیح معنی میں عید کی خوشی ہم سب کو نصیب فرمائے، چونکہ مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم الشان حکم یعنی ایک مہینے تک روزوں کا اہتمام کیا اور اس ایک مہینے کی راتوں میں جاگ جاگ کر اللہ کے کلام کو پڑھا اور سننا، اور نمازوں میں مشغول رہے، اس خوشی میں اللہ پاک نے مسلمانوں کے لئے عید مقرر کی، اور تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہماری بڑائی بیان کرتے کرتے ایک میدان میں جمع ہو جاؤ، اور شکرانہ کے طور پر دور کعت ہمارے حضور ادا کرو، ہم تم کو اس ایک مہینے کی عبادت کرنے کا اجر دیں گے۔ گویا عید کی نماز ہم بطور شکرانہ بارگاہِ الہی میں ادا کرتے ہیں، اس سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اصل عید کسے کہتے ہیں؟ اصل عید اللہ کی بندگی کرنے اور اس بندگی پر اللہ کے خوش ہو جانے کا نام ہے، جو جتنا زیادہ بندگی کا حق ادا کرتا ہے اور جتنا زیادہ حضور ﷺ کی غلامی کا حق ادا کرتا ہے اور اس دنیا میں اپنے آپ کو پابند بناتا ہے، اور اپنے نفس پر آرے چلاتا ہے اور اپنی حسرتوں کو دفن کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو قابو میں کرتا ہے اور نفس و شیطان کے کہنے میں نہیں آتا ہے تو اصل عید اسی کی ہوتی ہے۔

اصل غلام کون؟

اسی لئے اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ سب سے بڑا غلام وہ ہوتا ہے جو نفس کا غلام ہوتا ہے، اور سب سے آزاد وہ ہوتا ہے جو نفس کی غلامی سے آزاد ہوتا ہے، کیونکہ نفس میں شر ہوتا ہے، نفس برائی کا حکم دیتا ہے، قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا:

”لَنَّ النَّفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُّوءِ لَا مَارِ حِمَرٍ إِنَّ رَبِّيْ غَفُورٌ رَّحِيمٌ“ (یوسف: ۵۳)

”(کیونکہ) نفس تو (ہر ایک کا) بری ہی بات بتلاتا ہے بجز (اس نفس کے) جس پر میر ارب رحم کرے، بلاشبہ میر ارب بڑی مغفرت والا بڑی رحمت والا ہے“

عجیب بات ہے کہ اسی نفس کی وجہ سے ہی انسان ترقی کرتا ہے، یہی تقویٰ کا حمام ہے، یہی تقویٰ کو گرم کرنے والا ہے، یہی فرشتوں سے آگے بڑھانے والا ہے، اسی کے ذریعہ آدمی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اگر نفس ہی نہ ہوتا تو ہم میں کیا فرق ہوتا؟ ہمیشہ ہم بھی نماز، ہی پڑھتے رہتے، چونکہ فرشتوں کے پاس نفس نہیں ہے، کوئی ان کو بہکنے والا نہیں ہے، کوئی ان کو گمراہ کرنے والا نہیں ہے، اس لئے سالہا سال سے وہ تسبیح پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، ہر فرشتہ ایک خاص عبادت میں لگا ہوا ہے، اور قیامت تک رہے گا، لیکن انسان کے ساتھ نفس بھی لگا ہوا ہے، اور شیطان بھی لگا ہوا ہے، جو اس کو برائی کا حکم دیتے ہیں، وسو سے ڈالتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بھلائی سے دور ہو جاتا ہے، اگر وہ ان وساوس کی طرف توجہ نہ دے، اور ان کے پھسلاوے میں نہ آئے اور ان پر کنٹرول کرے اور شریعت پر چلتا رہے تو اس کا مقام اور مرتبہ بھی فرشتوں سے بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ مقرب ہوتا رہتا ہے، رمضان کے روزے اللہ پاک نے اس نفس کو قابو میں کرنے کے لئے ہی دیئے ہیں، اس نفس میں خوفِ خدا پیدا کرنے کے لئے دئے ہیں۔

”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كِتَبٌ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ“ (آل بقرہ: ۱۸۳)

اے ایمان والو! تم پر روزے فرض کئے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے (امتوں کے) لوگوں پر فرض کئے گئے تھے اس توقع پر کہ تم (ان کی بدولت رفتہ رفتہ) متین بن جاؤ۔

عید و عید سے بچنے کا نام ہے:

غرض میرے دوستو! عید نئے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بلکہ عید و عید سے نئے جانے کا نام

ہے، ایک حدیث میں نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”رَغْمَ أَنْفُرَ جُلِّ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ ثُمَّ اسْلَخَ قَبْلَ أَنْ يُغَفَّرَ لَهُ“ (سنن ترمذی: کتاب الدعوات: ۳۸۹۰)

کہ جو رمضان کے مہینے کو پائے اور اس میں اللہ کی عبادت کر کے اور اللہ سے توبہ اور استغفار کر کے اپنے آپ کی مغفرت نہ کروالے اس پر لعنت ہے، اس سے پتہ چلا کہ رمضان کا اصل مقصد اللہ سے اپنی مغفرت کروالینا اور اس وعید سے بچ جانا ہے، اسی وجہ سے کسی کہنے والے نے کہا ہے:

”لَيَسَ الْعَيْدُ لِمَنْ لَبِسَ الْجَدِيدَ إِنَّمَا الْعَيْدُ لِمَنْ أَمِنَ الْوَعْيَدَ“ (مرقاۃ المفاتیح: ۱۲۳/۵)

عید اس کی نہیں ہوتی ہے جو نئے کپڑے پہن لے، بلکہ عید اس کی ہوتی ہے جو اس وعید سے بچ جائے اور اس عید کا اصل مظہر قیامت کا دن ہے، جس کی دنیا کی یہ عید قبول ہو گئی تو کل کے دن وہاں بھی اس کی عید ہو گی، وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، مسرتیں ہی مسرتیں ہوں گیں، ہر ایک کی طرف سے خوش آمدید ہو گی، اللہ رب العالمین کی طرف سے سلام پیش کیا جائے گا:

”سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ رَبِّ رَحِيمٍ“ (یس: ۵۸)

ان کو پروردگار کی طرف سے سلام فرمایا جاوے گا۔

وہاں کی خوشی اصل عید ہو گی، وہاں کی عزت اصل عزت ہو گی، وہاں کی ذلت اصل ذلت ہو گی، جو آدمی اس دن عزت پا گیا وہ عزت والا ہے، اور جو اس دن ذلیل ہو گیا اس سے بڑا کوئی ذلیل نہیں ہو گا۔

آخرت کی ذلت سے پناہ مانگیں:

اسی لئے حضور اکرم ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ قیامت کے دن ذلیل مت فرمائیے، قرآن پاک میں اس دعا کا ذکر ہے:

”رَبَّنَا وَآتَنَا مَا وَعَدْنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ“ (آل عمران: ۱۹۳)

”اے ہمارے پروردگار! اور ہم کو وہ چیز بھی دیجئے، جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے اور ہم کو قیامت کے روز رسوانہ کیجیے، یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے“

کیونکہ وہاں کی ذلت سب سے خطرناک ذلت ہے، اور وہاں کی عزت سب سے بڑی عزت ہے، اس ذلت سے بچنے اور اس عزت کے حاصل کرنے کی دعا کر رہے ہیں، یہ عزت آدمی کو ملتی ہے اللہ پاک کی بندگی پر، دین اسلام پر جنم جانے پر، دین کے احکام پر عمل کرنے پر، ہماری ترقی، ہماری کامیابی، ہمارا کمال سب اسی میں مضمرا ہے، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، دین میں بھی کامیابی ملے گی، اور دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، دین میں بھی عزت ملے گی اور دنیا میں بھی عزت ملے گی، دین میں بھی سر بلندی اور ترقی ملے گی، اور دنیا میں بھی سر بلندی اور ترقی ملے گی۔ غرض حقیقی عید اسی شخص کی ہو گی جس کا رمضان قبول ہو گیا، جس کے گناہ معاف ہو گئے، جس کو رمضان میں عبادتوں کی توفیق ملی، اس آیت میں ایک حکم اللہ پاک نے روزوں سے متعلق بیان کیا ہے، جس کی تتمیل پر عید کی خوشخبری سنائی گئی۔

احکام الہی یسرا پر مبنی ہیں:

اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا:

”يَرِيدُ اللَّهُ إِكْمَالَ يَعْسَرٍ وَلَا يَرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ“

اللہ تمہارے لئے یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لئے آسانی ہو، اور تم پر شکنگی نہ ہو، سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے روزے بھی فرض فرمائے ہیں اور پھر یہ بھی فرمارہے ہیں کہ اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے، حالانکہ اس میں آسانی کہاں ہے؟ صحیح سے شام تک کھانے سے پینے سے رکنا کیا آسانی ہے؟ بھوک لگ رہی ہے لیکن کھا نہیں سکتے، پیاس لگ رہی ہے لیکن پی نہیں سکتے، کیا یہ آسانی ہے؟ پھر رات میں ۲۰ رکعت نماز ادا کرنا کیا آسانی ہے؟ بظاہر یہ عبادات مشکل لگتی ہیں، لیکن اللہ پاک فرمارہے ہیں کہ اس میں آسانی ہے، وہ کیسے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آسانی اس معنی کر ہے کہ یہ احکام سب کے لئے ہیں، اور جب کوئی مشکل کام سب کے سپرد کر دیا جائے تو وہ مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، اور یہاں یہ حکم سب کے لئے ہے، اور سب اس کو انجام دیتے ہیں

اس لئے یہ مشکل نہیں ہے۔ ایک عربی مقولہ ہے: ”الْبَلَاءُ إِذَا عَمَّ طَابَتْ“ کہ مصیبت جب عام ہو جاتی ہے، سب اس میں بنتا ہوتے ہیں تو اچھی لگتی ہے، یعنی اس کو جھیلنا آسان ہو جاتا ہے، اگر کوئی رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں روزہ رکھے تو اس سے پوچھو کہ اس کے لئے روزہ رکھنا کتنا مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان میں بے آسانی بشاشت کے ساتھ لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں، اس اعتبار سے اللہ پاک نے فرمایا کہ اس حکم میں تمہارے لئے آسانی ہے، یا چونکہ ہم کو عادت نہیں ہے، یا حق تعالیٰ سے جیسی محبت ہونی چاہیے اور ہمارے قلوب میں ان کی جیسی عظمت ہونی چاہئے ویسی نہیں ہے اس لئے ان کا یہ حکم ہم کو گراں گزرتا ہے۔ ورنہ اگر محبت ہو تو پھر مشکل سے مشکل کام بھی آسان بلکہ مزے دار معلوم ہوتا ہے۔

عذر کی بنیاد پر روزہ چھوڑنا بھی یسرا میں داخل ہے:

دوسری بات یہ ہے کہ آسانی اس اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ پاک نے روزے تو فرض فرمادے، لیکن کوئی مریض ہے یا مسافر ہے تو اس کو رخصت بھی دے دی کہ وہ اس وقت تو روزے چھوڑ دے، لیکن بعد میں اس کی قضا کر لے، شریعت کے اس حکم میں ہمارے لئے آسانی ہے، اگر حکم یہ ہوتا کہ مریض ہو یا مسافر ہو روزہ رکھ سکتا ہو یا نہ رکھ سکتا ہو ہر ایک کے لئے روزہ رکھنا ہی ضروری ہے تو امت کے لئے بڑی مشکل ہو جاتی، لیکن اللہ پاک نے رخصت دے دی کہ اگر یہماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جاسکتا، یا سفر میں ہونے کی وجہ سے روزہ رکھنا مشکل ہے تو مت رکھو بعد میں قضا کر لینا، یہ بہت بڑی آسانی ہے، اس لئے فرمایا کہ اللہ پاک تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے، تنگی نہیں چاہتا۔

روزوں کی تعداد اور وقت کا تعین بھی یسرا ہے:

تیسرا آسانی اس معنی کے اعتبار سے بھی ہے کہ اللہ پاک ہمارے مزاج کو اور اس کی خصوصیات کو جانتے ہیں، اور پھر اس امت میں اعدالت بھی ہے، اس اعتبار سے روزوں کی تعداد

کو اور ان کے وقت کو اللہ پاک نے متعین کر دیا کہ اتنے روزے رکھنے ہیں اور ان دنوں میں رکھنے ہیں، اور وہ رمضان کے دن ہیں، اگر روزوں کی تعداد متعین نہ ہوتی اور ان کا وقت متعین نہ ہوتا تو روزے رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا کہ کتنے روزے رکھیں؟ اور کب رکھیں؟ اور پھر وقت اور تعداد متعین نہ ہوتی تو شریعت کے اس حکم میں تسلیم ہوتا، اور اس کی وقعت اور عظمت ہمارے دلوں میں کم ہو جاتی، اس لئے روزوں کی تعداد کی وجہ سے اور ان کے وقت کی تعین کی وجہ سے ہمارے لئے بہت آسانی کر دی گئی۔

رمضان کی تکمیل بھی نعمتِ خداوندی ہے:

غرض رمضان کا مہینہ ہمارے لئے خوشی کا مہینہ ہے، اس میں عبادت ہمارے لئے خوشی کا سبب ہے، اور اس میں عبادت ہی کہ وجہ سے ہمیں عید کی خوشی اور عید کی فرحت ملتی ہے، جیسے اس کا آنا ہمارے لئے بہت بڑی نعمت ہے، ایسے ہی اس مہینہ کا مکمل ہو جانا بھی بہت بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس مہینے میں عبادت کی ذمہ داری اللہ پاک نے ہم پر ڈالی ہے، اگر ہماری وہ ذمہ داری ختم ہی نہیں ہوتی تو ہم بے اطمینانی میں مبتلا رہتے، اور چونکہ یہ حکم دیگر احکام کی بہ نسبت کچھ مشکل بھی ہے، اس لئے اس کو مسلسل ادا کرنا بھی ہمارے لئے مشکل ہوتا، جب ایک مہینہ اس کا وقت متعین کر دیا گیا تو ایک مہینہ عبادت کرنے کے بعد ایک اطمینان اور تسلی ہو جاتی ہے اور ایک خوشی حاصل ہوتی ہے جس کا احادیث میں ذکر کیا گیا:

”لِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ فَرْحَةٌ حِينَ يُفْطَرُ وَ فَرْحَةٌ حِينَ يَلْقَى رَبَّهُ“ (صحیح بخاری: ٧٣٩٢)

روزہ دار کے لئے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت، افطار کے وقت خوشی کے دو مطلب ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو کر شوال کا مہینہ شروع ہو جائے تو اس وقت یہ خوشی ہم کو ملتی ہے، اور اس وقت فرحت ملتی ہے، اگر اللہ پاک اس کی تحدید نہ کرتے تو یہ خوشی کیسے حاصل ہوتی؟ یہ فرحت

کیسے حاصل ہوتی؟ یہ اطمینان اور تسلی کیسے حاصل ہوتی؟ اس لئے اس ماہ مبارک کی تکمیل بھی حق تعالیٰ کی جانب سے ایک نعمت ہے، اور ہمارے لئے بڑی خوشی اور فرحت کا باعث ہے۔

روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کا مدار رُوئیت ہلال پر ہے:

اس کے بعد فرمایا: ”وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ“

کہ اگر کسی کے یماری کی وجہ سے یا سفر میں ہونے کی وجہ سے روزے چھوٹ جائیں تو وہ ان کو گن کر مکمل کر لے، جتنے دن کا مہینہ ہے اس اعتبار سے اتنے دنوں کے روزوں کی قضا کر لے۔ ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اگر ۲۹ تاریخ کو چاند نظر آئے تو ٹھیک ہے مہینہ ۲۹ کا ہو گا، اور اگر ۲۹ تاریخ کو چاند نظر نہ آئے تو مہینہ ۳۰ دن کا ہو گا، اس وقت ۳۰ دن مکمل گن کر روزے رکھے جائیں، کیونکہ قمری مہینہ اٹھائیں یا اکتیس دن کا نہیں ہوتا، مہینوں میں تخمینے کا حکم نہیں ہے، حساب سے اور اندازے سے مہینے کی تعداد متعین نہیں کی جاسکتی، چاند اگر انتیس (۲۹) کو نظر آئے تو مہینہ ختم ہو جائے گا، اور اگر چاند نظر نہ آئے تو تیس (۳۰) دن مکمل کرنا ہو گا، حسابات کی روشنی میں انتیس (۲۹) دن کا مہینہ قرار دینا صحیح نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں تو ان کا کچھ اعتبار بھی نہیں کیا جائے گا۔

اور پھر یہ اللہ پاک کی مہربانی ہے کہ مہینہ چاہے تیس (۳۰) دن کا ہو چاہے انتیس (۲۹) دن کا، ثواب پورے ۳۰ دن کا ملے گا۔ (تفسیر قرطبی: ۲۹۳/۲)

یہ بھی عجیب بلکہ خوشی کی بات ہے کہ اس مرتبہ جو عید ہے وہ ہمارے شکاگو کے عینی شاہدین کی بیس (Base) پر ہے، کہیں سے کوئی انفار میشن نہیں ملی، اس لئے اس دفعہ تفرقہ بازی اور دو ٹکروں میں تقسیم ہو کر عید نہیں منائی جا رہی ہے، یہاں امت کا ایک ایسا طبقہ پایا جاتا ہے جو اپنی ہلال کمیٹی کی اتباع کے بجائے دوسرے ممالک کی اتباع کرتا ہے، اور اس میں کیا خرا بیاں ہیں اس سے پہلے میں نے ذکر کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے اس مرتبہ اس تفرقہ سے ہم کو دور رکھا۔

عید کے دن تکبیرات کا اہتمام کریں:

آیت مبارکہ میں ایک حکم یہ ارشاد فرمایا:

”وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَأْكُمْ“

کہ اللہ پاک نے جو ہدایت دی اس بنیاد پر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔

یہاں بڑائی کرنے سے مراد عید کے دن اللہ کی بڑائی بیان کرنا مقصود ہے، صاحب روح المعانی نے لکھا ہے: ”الْمُرَادُ بِهِ التَّكْبِيرُ يَوْمَ الْعُيْدِ“ (روح المعانی: ۱۳۰/۲)

ہم جو عید کی نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی اللہ پاک ہی کی بڑائی بیان کی جاتی ہے خاص طور پر اس میں کچھ تکبیرات کا اضافہ کیا جاتا ہے، ہمارے نزدیک چھ تکبیرات زائد ہوتے ہیں، پہلی رکعت میں تین اور دوسری رکعت میں تین، پہلی رکعت میں تین تکبیرات قرأت سے پہلے ہوتی ہیں، اور دوسری رکعت میں قرأت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔

اور یہ تکبیرات اور بڑائی کا اظہار صرف نماز کی حد تک خاص نہیں ہے، بلکہ یہ تکبیرات عیدین کے خطبوں میں بھی پڑھنے کا حکم ہے، اور خطبوں کے علاوہ عید کی نماز کیلئے آتے اور جاتے وقت بھی پڑھنے کا حکم ہے۔ البتہ عید الاضحی میں تکبیرات کا زور سے کہنا مسنون ہے، بازاروں میں، گلی کوچہ میں مسلمان زور زور سے اللہ اکبر کہیں، اور عید الفطر کے موقع پر آہستہ کہیں۔

تکبیرات کا حکم کیوں؟

سوال یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی کیوں کی جائے؟ وہ اس لئے کہ اللہ نے ہدایت سے نوازا، کس چیز کی ہدایت سے نوازا؟ وہ ہدایت ہے احکام الہی پر عمل پیرا ہونے کی ہدایت، اللہ کے منشا کے مطابق اور حضور پاک ﷺ کی تعلیمات کے مطابق چلنے کی ہدایت، بالخصوص روزوں کی ادائیگی کی ہدایت، قرآن پاک اور ذکر و اوراد کی ہدایت، تراویح اور تہجد کی ہدایت، یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ ہم کو ان کی ہدایت ملی اور اس کی توفیق ملی، اس بنیاد پر اللہ پاک حکم دے رہے ہیں کہ میری بڑائی بیان کرو۔

توفیق الٰہی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں:

کیونکہ دنیا میں اس توفیق کے مل جانے سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، کوئی بادشاہت اس سے بڑی نہیں ہے، کوئی وزارت کا عہدہ اس سے بڑا نہیں ہے، دنیا بھر کا مال اگر کسی کو مل جائے تو اس توفیق کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگر اللہ پاک کی جانب سے ہدایت اور رہنمائی نہیں ملتی تو ہم کیسے اس کی عبادت کرتے؟ اسی وجہ سے حضور ﷺ نے فرمایا:

”وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا، وَلَا صَمْنَانَا وَلَا صَلَّيْنَا، فَأَنِّي لَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا، وَثِيتَ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا، وَالْمُشْرِكُونَ قَدْ بَغَوا عَلَيْنَا، إِذَا أَرَادُوا افْتَنَنَّاهُ أَبْيَنَا“ (صحیح بخاری: کتاب القدر، ۲۶۲۰)

اللہ کی قسم اگر اللہ پاک کی ہدایت نہ ہوتی تو ہم ہدایت یافتہ نہ ہوتے، نہ روزہ رکھتے اور نہ نماز پڑھتے، اے اللہ! ہم پر سکینہ نازل فرماء اور دشمنوں سے مد بھیڑ کے وقت ہم کو ثابت قدم رکھ، اور مشرکین نے ہم پر چڑھائی کی ہے، اور جب بھی انہوں نے فتنہ کا ارادہ کیا تو ہم نے انکار کیا۔

محض علم کافی نہیں:

اگر احکام شرع ہم کو معلوم ہوں لیکن عمل کی توفیق نہ ہو تو کیا فائدہ؟ صرف معلوم ہو جانے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ معلوم ہونے کے بعد اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے ڈاکٹر سے کسی نے مرض کی تشخیص کروائے دوا کھوائی، لیکن دوالاتا ہی نہیں، یا لاتا تو ہے لیکن کھاتا نہیں تو اس سے کیا فائدہ ہو گا؟ ظاہر ہے کہ کچھ فائدہ نہ ہو گا، دوا کا علم ہونا الگ چیز ہے اور اس کو استعمال کرنا الگ چیز ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کا معلوم ہو جانا الگ چیز ہے اور اللہ پاک کے احکام پر عمل پیرا ہونا الگ چیز ہے، محض علم سے کام نہیں چلتا، بلکہ عمل اس کے لئے ضروری ہوتا ہے۔

عمل کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری ہے:

پھر محض عمل بھی کافی نہیں ہوتا، بلکہ عمل کے بعد اس کی حفاظت بھی ضروری ہوتی ہے، اس کو ضائع ہونے سے بچانا بھی ضروری ہوتا ہے، اگر ہم عمل تو کریں لیکن گناہ کر کے یا کسی

دوسرے اسباب کی بنیاد پر اس عمل کو ضائع کر دیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں، اس لئے اس عمل کو محفوظ رکھنا اور اس کو بچانا بھی ضروری ہوتا ہے، بہت سے لوگ دنیا کماتے ہیں، پھر جوئے خانے میں بیٹھ کر اپنی ساری کمائی گنوادیتے ہیں، اس کمائی کا کیا فائدہ؟ اس لئے میرے دوستو! اللہ پاک نے ہم کو اس رمضان میں جن اعمال کی توفیق دی ہے، اور جن نیکیوں کی توفیق دی ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی حفاظت کریں، گناہ کر کے ان کو ضائع نہ کریں، عجب، فخر اور غرور میں مبتلا ہو کر ان کو ضائع نہ کریں، اور اس بنیاد پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اور اس کی بڑائی بیان کریں۔

مسلم اور غیر مسلم کی عید:

اور اس بڑائی بیان کرنے اور اس کے شکر کرنے کی صورت عید کی نماز ہے، ہماری عید بھی در اصل اللہ کی یاد کا نام ہے، اس کی بڑائی بیان کرنے کا نام ہے، اس کے سامنے گڑگڑانے کا نام ہے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے کا نام ہے، اس سے مانگنے کا نام ہے، عید میں بھی اللہ پاک نے ہم کو آزاد نہیں رکھا کہ جو چاہے کر لیں، بلکہ اپنی بڑائی بیان کرنے کو ہماری عید اور خوشی قرار دیا، غیروں کی عید کو دیکھیں کہ کہیں بھجن نج رہا ہے، کہیں ناج گانا اور بے ہودہ حرکتیں چل رہی ہیں، کہیں رنگ رلیاں اور مستیاں چل رہی ہیں، کہیں فاشی و عربانیت چل رہی ہے، کہیں رنگ پھینکا جا رہا ہے، کہیں معبدوں کی عبادت کے بجائے انہیں کوپانی میں پھینکا جا رہا ہے اور اس کو گالیاں دی جا رہی ہیں، کہیں پٹانے پھوڑے جا رہے ہیں، کسی کا جسم جل رہا ہے، کسی کا ہاتھ جل رہا ہے، کسی کی جلنے سے موت ہو رہی ہے، آنے جانے والوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے، اور ان کی آوازوں سے ایک شور مچا ہوا ہے، بچے اور بوڑھے پریشان ہو رہے ہیں، کیا عید اس بیہودہ پن، ننگے پن، گالی گلوچ اور دوسروں کی ایذا رسانی کا نام ہے، گویا ان کی عید دوسروں کی ایذا رسانی کا نام ہے؟ اسلام کی عید دیکھیں کتنی سیدھی سادھی ہے؟ بلکہ اس عید کو دیکھ کر

غیر بھی خوش ہوتے ہیں، ہم اپنے ملک میں غیر مسلموں کے تھواروں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ عید میں بھی ہم پر اللہ کی کتنی مہربانی ہے؟

شکر کس چیز کا ادا کریں؟

”وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ“

”تاکہ تم لوگ (اس نعمتِ آسمانی پر اللہ کا) شکر ادا کیا کرو“

یعنی اللہ نے تم پر روزے فرض فرمائے جو رفع درجات کا سبب ہیں، اس لئے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، یا پھر اگر کوئی مريض ہے، یا مسافر ہے اور روزہ رکھنا دشوار ہے تو شریعت میں اس کی بھی اجازت ہے کہ اس وقت روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضاء کر لے۔ تو اللہ کی طرف سے یہ رخصت بھی بڑی نعمت ہے، اس لئے اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔

شکر کی دو صورتیں:

یہ شکر مالی بھی ہوتا ہے اور بدنسی بھی، مالی شکر یہ ہے کہ غرباء فقراء اور مساکین میں مال صدقہ کر دیا جائے، اور صدقہ فطر ادا کیا جائے، جس کی وجہ سے ہماری عبادتوں میں جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی ہو جائے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نذرانہ بھی ہو جائے، اور فقراء اور مساکین کی مدد بھی ہو جائے۔

صدقہ فطر کس پر واجب ہے؟

شکر کی دوسری صورت یہ ہے کہ بارگاہ رب العزت میں دور کعت ادا کی جائے، جس کو ہم صلاة الفطر کہتے ہیں، یہ نماز اصل میں بدنسی شکرانہ ہے، اور مالی شکرانہ صدقۃ الفطر ہے، اور یہ شکرانہ اپنی طرف سے بھی ادا کرنا ضروری ہے اور اپنے چھوٹے بچوں کی جانب سے بھی ادا کرنا ضروری ہے۔ بالغ اولاد کا یا صاحبِ نصاب بیوی کا صدقہ فطر ان پر واجب ہو گا باب یا شوہر پر واجب نہیں ہو گا، لیکن اگر باب یا شوہر تبرعاً ان کی جانب سے ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔

زکوٰۃ اور صدقہ فطر کا نصاب:

لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ صدقہ فطر کے واجب ہونے لئے بھی صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، جیسے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لئے صاحب نصاب ہونا ضروری ہے، اسی طرح صدقہ فطر کے لئے بھی نصاب کے بقدر مال کا مالک ہونا ضروری ہے، اور سونے کا نصاب عربی اوزان کے اعتبار سے بیس مشقال ہے، اور چاندی کا دوسو درہم ہے، اور موجودہ زمانے میں تلوں کے اعتبار سے ساڑھے سات تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی اور گراموں کے اعتبار سے ۷۸۰ گرام اور ۳۸۰ گرام، سونا، اور ۶۱۲ گرام اور ۳۸۰ گرام چاندی ہے، اگر کسی کے پاس سونا چاندی نصاب کو نہیں پہنچ رہے ہوں تو دونوں کو ملا کر قیمت لگائی جائے گی، اگر دونوں کی قیمت مل کر سونے یا چاندی کے کسی نصاب کو پہنچ جائے تو زکوٰۃ واجب ہو جائے گی، تو جیسے زکوٰۃ واجب ہونے کے لئے اتنی مقدار کا مالک ہونا ضروری ہے، ایسے ہی صدقہ فطر کے لئے بھی اتنی مقدار کا مالک ہونا ضروری ہے، البتہ زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں کچھ فرق ہے، صدقہ فطر میں مالِ نامی کا ہونا ضروری نہیں ہے، اگر کسی کے پاس ضروریات سے زائد اتنا مال ہو چاہے پسیے ہوں، کتابیں ہوں، یا زائد کپڑے ہوں یا اس جیسی دوسری غیر ضروری چیزیں ہوں اور ان کی مجموعی رقم شرعی نصاب (جو اوپر مذکور ہے) کو پہنچ جائے تو اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ لیکن زکوٰۃ واجب نہیں ہو گی۔

صدقہ فطر کتنا ادا کیا جائے؟

ایک فرد کا صدقہ فطر ایک صاع کھجور یا کشمش یا جو، یا نصف صاع گیہوں ہے، اور موجودہ زمانے کے اعتبار سے نصف صاع کی مقدار ایک کلو، ۷۵ گرام، اور ۳۰ گرام ہوتی ہے، یا تو اتنی مقدار گیہوں دیدیں، یا اس کی قیمت دیدیں، احتیاطاً عام طور پر پونے دو کلو گیہوں یا اس کی قیمت بتلاتے ہیں، ہمارے اعتبار سے اس کے کم و بیش پانچ ڈالر ہوتے ہیں، اگرچہ یہ بہت کم

لگتے ہیں، اور بعض لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ بہت کم ہیں، اگر آپ کو کم لگ رہے ہیں تو زیادہ دے دیں، تاکہ غریب کے لئے کچھ اور وسعت ہو جائے، لیکن یہ ضروری ہے کہ شریعت کی جو لمحت ہے اس میں کمی نہ آنے پائے۔

غیر منصوص اشیاء کے صدقہ فطر کا حکم؟

اگر گیہوں کے علاوہ دوسری غیر منصوص چیزوں کے ذریعہ صدقہ فطر ادا کر رہے ہیں تب بھی نصف صاع گیہوں یا ایک صاع جو یعنی پونے دو کلو گیہوں وغیرہ کی قیمت میں جو چیز جتنی آئے اس کو لے کر صدقہ کر دیا جائے۔ اس غیر منصوص چیز کے پونے دو کلو ہونے کا یا اس کی قیمت کا اعتبار نہیں ہو گا۔ (در مختار: ۳۶۳/۲)

صدقہ فطر اتنا کم کیوں؟

اب سوال یہ ہے کہ یہ اتنا کم کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اللہ پاک ہی کو معلوم ہے دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک اس میں بندوں پر شفقت چاہتے ہیں کہ کچھ مالی خرچ کرو اکران کی عبادت کو صاف ستر کر دیا جائے، اور اس کو ڈیکوریٹ کر دیا جائے، اور یہ بھی خالص اللہ کی مہربانی ہے۔

تیسرا بات یہ ہے کہ ہم نے جو مہینہ بھر عبادت کی ہے، ظاہر ہے کہ اس میں کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، اور کچھ خامیاں رہ جاتی ہیں، اور ان کی تلافی کی اور ان کو صاف ستر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ امیر ہوں یا غریب سب نے اس فریضہ کو انجام دیا ہے، اور سب کو اپنی کوتاہیاں دور کرنے کی ضرورت ہے، اگر زیادہ مقدار متعین کر دی جاتی تو غرباء اس کو ادانہ کر پاتے، اس لئے تھوڑی سی مقدار متعین کر دی، تاکہ سب اس کو ادا کر سکیں، امیر بھی اور غریب بھی، اور کسی پر بوجھ بھی نہ ہو، اور سب کی عبادتوں کی تطہیر بھی ہو جائے۔

نیز اس کا ایک مقصد غرباء اور فقراء کی مدد اور نصرت بھی ہے، اور جو غریب اپنی غربت کی بنیاد پر عید کی خوشی میں شامل نہ ہو سکتے ہوں تو ان کی کچھ مدد بھی ہو جائے جس سے ان کا

چو لہا جل جائے اور اپنے لئے وہ کچھ انتظام کر لیں، اس لئے ایک مختصر سی مقدار متعین کی، تاکہ دینے والے کو بھی حرج نہ ہو اور غریب کی ضرورت بھی پوری ہو جائے، اور عید کی خوشیوں میں وہ بھی شریک ہو جائے۔

صدقة فطر کب واجب ہوتا ہے؟

ایک مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عید کے دن صح صادق کے ہوتے ہی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، اور بہتر یہ ہے کہ عید کی نماز ادا کرنے سے قبل ہی اس کو ادا کر دیں، اور رمضان میں دینا بھی صحیح ہے، لیکن اگر کوئی رمضان میں یا عید سے قبل اس کو ادا نہ کیا ہو تو عید کے بعد اس کو ادا کر دے۔ عید گزرنے سے وہ ساقط نہیں ہو گا۔

زکوٰۃ اور صدقات کا اولین مصرف:

اور اس کو خرچ کرنے میں اولاً اپنے خاندان کے غریب رشتہ داروں کو ترجیح دے، اس کے بعد غیروں میں اس کو تقسیم کرے، بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں زکوٰۃ و صدقات کا مصرف نہیں ہے، حالاں کہ یہاں بھی اس کا مصرف ہے، جو آدمی صاحبِ نصاب نہیں ہے، یا مقروض ہے، یا بیمار ہے یا اسٹوڈنٹ ہے اور فیس کی ادائیگی کے لئے پیسے نہیں ہیں اس قسم کے سب لوگ اس کا مصرف ہیں، یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس کو لینا پسند نہیں کرتے ہیں، غرض اس کا اولین مصرف رشتہ دار ہوتے ہیں، اس کے بعد دوسرا لوگ اس کے حق دار ہوتے ہیں۔

صدقہ فطر کی ادائیگی میں غریب کا احترام ملحوظ رکھیں:

صدقہ فطر کی ادائیگی میں ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کو ادا کرتے وقت اس غریب کی تحریر کا خیال بالکل نہ لائیں، بلکہ پورے ادب و احترام کے ساتھ اس کو ادا کریں، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ مسجد نماز کا مصلی ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس لئے وہ قابل احترام ہے، ایسے ہی زکوٰۃ اور صدقہ کا مصلی غریب ہے، اس لئے وہ بھی قابل احترام ہے، اس لئے اس کا بھی

ادب و احترام کرنا چاہیے اور اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کو حقیر یا کمتر سمجھنا، یا احسان جتنا ناجائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لینے پر ہمیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر یہ زکوٰۃ نہ لیتا تو ہم اپنایہ فرض کہاں ادا کرتے؟ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرتے وقت یہ نہیں کہنا چاہیے کہ یہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ اس طرح کہنے سے اس کے دل کو چوٹ لگے گی، اس کو شرمندگی ہو گی، اور اس کے دل میں اپنی غربت کا احساس ہو گا، اور وہ بھی یہ تمنا کرنے لگے گا کہ کاش میں بھی زکوٰۃ دینے والا ہوتا، اس لئے زکوٰۃ ادا کریں تو اس طرح ادا کریں کہ لینے والے کو شرمندگی نہ ہو، اور اس کو غربت کا احساس نہ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ (آمین)



جمعہ اور عیدین کے
آداب و احکام

جمعہ اور عیدین کے آداب و احکام:

یوم جمعہ کی فضیلت اور جمعہ کے ترک سے متعلق چند احادیث مبارکہ اس سے پہلے ذکر کی گئیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ شرائط، سنن اور آداب ہیں جو جمعہ اور خطبہ جمعہ کے لئے ضروری ہیں، اس لئے چند باتیں اس تعلق سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جمعہ کے صحیح ہونے کے لئے چند شرطیں ہیں:

صحیح جمعہ کے شرائط:

(۱) بڑی آبادی کا ہونا۔ دیہات میں جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور اس کی حد میں فقهاء کا اختلاف ہے، لیکن ان سب کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں روزِ مرہ کی ضروریات پوری ہوتی ہوں، دو کا نیں وغیرہ موجود ہوں، اور حکومت کا ایسا نظام بھی ہو جس سے مظلوم کے لئے مدد حاصل کی جاسکتی ہو، اور عام طور پر یہ سہولتیں تقریباً تین ہزار کی آبادی میں مہیا ہو جاتی ہیں اس لئے اتنی بڑی تعداد کسی جگہ ہو تو وہاں جمعہ قائم کر سکتے ہیں، اور اگر اس سے کم آبادی ہو تو وہاں جمعہ قائم نہیں کر سکتے، وہاں کے لوگوں کو ظہراً داکر ناضروری ہو گا۔

”عَنْ أَبِي حَيْفَةَ أَنَّهُ بَلَدَةٌ كَبِيرَةٌ فِيهَا سِكْكَ وَأَسْوَاقٌ وَلَهَا رَسَاتِيقٌ وَفِيهَا وَالْيَقِيدَرُ عَلَى إِنْصَافِ الْمَظْلُومِ مِنَ الظَّالِمِ بِحَسْمَتِهِ وَعِلْمِهِ أَوْ عِلْمِ غَيْرِهِ يَرْجِعُ النَّاسُ إِلَيْهِ فِيمَا يَقْعُدُ مِنَ الْحَوَادِثِ وَهَذَا هُوَ الْأَصْحُ“ (رد المحتار: ۸۰۳)

(۲) حاکم یا اس کے قائم مقام کا ہونا۔ (اور جہاں حاکم وغیرہ نہ ہوں تو مسلمانوں پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کسی خطیب وغیرہ کو جمعہ کے لئے مقرر کریں۔ (رد المحتار: ۵۳۰۱)

(۳) ظہر کا وقت پایا جانا۔ (۴) خطبہ پڑھنا۔ (۵) خطبہ کا جمعہ سے پہلے ہونا۔ اور اتنے لوگوں کے سامنے خطبہ پڑھنا جن سے جمعہ قائم ہو سکے۔ (۶) کم از کم تین مردوں کا جمعہ میں شامل ہونا۔ (۷) جمعہ میں شرکت کی عام اجازت ہونا۔

”وَيُشَرِّطُ لِصِحَّتِهَا سَبْعَةُ أَشْيَاءٍ - الْأَوَّلُ : الْمِصْرُ ... وَالثَّانِيُّ الْشَّرْكَانُ ... وَالثَّالِثُ وَقْتُ الظُّهُرِ فَتَبَطَّلُ الْجُمُوعَةُ بِخُرُوجِهِ ... وَالرَّابِعُ الْخُطْبَةُ فِيهِ فَلَوْ خَطَبَ قَبْلَهُ وَصَلَّى فِيهِ لَمْ تَصْحَّ وَالْخَامِسُ كَوْنُهَا قَبْلَهَا لِأَنَّ شَرْطَ الشَّيْءِ سَابِقٌ عَلَيْهِ بِحَضْرَةِ جَمَاعَةٍ تَعْقِدُ وَالسَّادِسُ الْجَمَاعَةُ وَالْقَلْهَا ثَلَاثَةُ رَجَالٍ ... وَالسَّابِعُ الْأَذْنُ الْعَامُ“ (الدر المختار: باب صلاة الجمعة)

ذکورہ بالاشرات جمعہ کے صحیح ہونے کے لئے ہیں، لیکن کچھ شرات وہ ہیں کہ اگر وہ کسی میں پائے جائیں تو جمعہ اس پر فرض ہو جاتا ہے اور اگر ان میں سے ایک بھی شرط مفقود ہو تو ایسے آدمی پر جمعہ فرض نہیں ہوتا، ان کی تفصیل ملاحظہ ہو۔

جمعہ کن پر فرض ہے اور کن پر نہیں؟

(۱) بڑی آبادی میں مقیم ہونا۔ مسافر پر جمعہ فرض نہیں۔ (اللباب فی شرح الكتاب: ۱/۵۲)

(۲) تندرست ہونا مریض پر جمعہ فرض نہیں۔

(۳) آزاد ہونا، غلام پر جمعہ فرض نہیں۔

(۴) مرد ہونا، عورت پر جمعہ فرض نہیں۔

(۵) عاقل ہونا۔ بچہ اور پاگل پر جمعہ فرض نہیں۔

(۶) بینا ہونا، نابینا پر جمعہ فرض نہیں۔

(۷) چلنے پر قادر ہونا۔ اپانچ پر جمعہ فرض نہیں۔

(۸) قید اور خوف کا نہ ہونا، کیونکہ ان دونوں صورتوں میں جمعہ فرض نہیں۔

(۹) سخت بارش اور یکچھ رکانہ ہونا۔ اگر یہ ہوں تو جمعہ فرض نہیں۔

اگر کسی کو ان میں سے کوئی عذر ہو تو اس پر جمعہ فرض نہیں وہ ظہر کی نماز ادا کرے گا۔

”وَشَرْطٌ لِّا فِتْرٍ أَصِهَا تِسْعَةٌ تُخْتَصُّ بِهَا إِقَامَةٌ بِمِضْرِّ... وَصِحَّةٌ... وَحُرْيَةٌ... وَذُكُورَةٌ... وَبُلُوعٌ وَعَقْلٌ... وَوُجُودٌ بَصَرٌ... وَقُدْرَةٌ عَلَى الْمَسْيِ... وَعَدَمٌ حَبْسٍ وَعَدَمٌ خَوْفٍ وَعَدَمٌ مَطَرٌ“ (الدر المختار: ۱۵۳ او ۱۵۴)

جمعہ کے سنن، آداب اور مستحبات:

جمعہ کے اركان اور شرائط کے علاوہ کچھ سنن، مستحبات اور آداب ہیں، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے چند آداب لکھے ہیں:

(۱) جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ الہ سجدہ اور سورہ دھر پڑھی جائے۔

(۲) جمعہ کے دن اور رات میں نبی ﷺ پر کثرت سے درود بھیجا جائے۔

(۳) موچھ اور اس کے علاوہ بال اور ناخن کاٹے جائیں۔ (معجم طبرانی: ۸۲۲)

(۴) غسل کیا جائے۔

(۵) مسواک کیا جائے۔

(۶) عمدہ کپڑے پہنے جائیں۔ (زاد المعاد لابن قیم: ۱/۲۹)

(۷) خوشبو لگائی جائے۔ (صحیح بخاری: ۸۲۳)

(۸) تیل لگایا جائے۔ (حوالہ سابق)

یوم جمعہ مسجد جلد جانے کی فضیلت:

(۹) جمعہ کے لئے جلد ہی مسجد روانہ ہو کر مسجد میں ذکر اللہ وغیرہ میں اپنے آپ کو مشغول رکھا جائے۔ کیونکہ جو شخص جتنا پہلے مسجد میں حاضر ہوتا ہے اتنا ہی وہ زیادہ ثواب اور اجر کا مستحق ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”إِذَا كَانَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَقَفَتِ الْمَلَائِكَةُ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ فَيُكْتَبُونَ الْأَوَّلَ فَالْأَوَّلَ وَمَثْلُ الْمُهَجِّرِ كَمَثْلِ الَّذِي يُهَدِّي بَدْنَهُ ثُمَّ كَالَّذِي يُهَدِّي بَقَرَهُ ثُمَّ كَبَشًا ثُمَّ دَجَاجَهُ ثُمَّ تَيْصَنَّهُ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ طَوَّ اصْحَافَهُمْ وَيَسْتَمْعُونَ إِلَيْهِ“ (صحيح بخاری: كتاب الجمعة: ٩٢٩)

جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور پہلے آنے والوں کے نام بالترتیب لکھتے ہیں، سب سے پہلے آنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی اونٹ کی قربانی کرے، اس کے بعد آنے والوں کی مثال بالترتیب گائے، دنبہ، مرغی اور انڈا صدقہ کرنے والے کی طرح ہے، پھر جب امام خطبہ دینے کے لئے نکل آتا ہے تو فرشتے اپنے فائنس پیسٹ دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔

(۱۰) جمعہ کے لئے پیدل جایا جائے۔

(۱۱) صف اول میں یا امام کے قریب بیٹھا جائے۔ (فتاویٰ بندهیہ: ۱۲۹/۱)

(۱۲) خطبہ خاموشی سے سنا جائے۔

دورانِ خطبہ توجہ امام کی طرف کی جائے۔ جب آپ ﷺ خطبہ دیتے تو سارے صحابہؓ کرام آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ (زاد المعا德: ۳۹/۱)

(۱۳) نمازِ جمعہ میں سورۃ المنافقون یا سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ پڑھا جائے۔

(۱۴) مسجد کو دھونی دی جائے، اور خوشبو سے معطر کیا جائے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ باضابطہ اس کا اہتمام کرتے تھے۔ (اللمعة في خصائص الجمعة: ۳۲/۱)

جمعہ کے دن سورۃ کھف پڑھنے کی فضیلت:

(۱۵) سورۃ کھف کی تلاوت کی جائے۔ احادیث شریفہ میں اس کی بھی بہت سی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں۔ ایک حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ فِيهِ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَضَاءَ لَهُ مِنَ النُّورِ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ“ (ابن کثیر کامل: ۸۰۳،

المتجر الرابع: ۱۱۹)

جو شخص جمعہ کے دن سورہ کھف پڑھے اس کے لئے دونوں جمیعوں کے درمیان زمانہ میں روشنی ہی روشنی کر دی جائے گی۔ نیز سورہ کھف پڑھنے کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے پڑھنے والے کو ہر فتنہ بشمول فتنہ دجال سے حفاظت کی بشارت سنائی گئی ہے۔ چنانچہ ارشاد نبوی ہے:

”مَنْ قَرَأَ سُورَةَ الْكَهْفِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَهُوَ مَعْصُومٌ إِلَى ثَمَانِيَّةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ فِتْنَةٍ وَإِنْ خَرَجَ الدَّجَالُ

عَصِيمٌ مِّنْهُ“ (ابن کثیر عن الحافظ المقدس: ۸۰۳)

جو شخص جمعہ کے روز سورہ کھف پڑھے وہ اگلے آٹھ دن تک ہر فتنہ سے محفوظ رہے گا، حتیٰ کہ اگر دجال نکل آئے تو اس کے فتنہ سے بھی محفوظ رہے گا۔

اور بعض صحیح احادیث کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص سورہ کھف کی اول یا (بعض روایات میں) آخری دس آیتیں یاد کر کے پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا۔ (ابن کثیر: ۸۰۳)

آپ ﷺ کے خطبہ کی کیفیت:

یوم جمعہ میں ایک اہم فریضہ خطبہ ہے، اس کے بھی چند احکام اور آداب ہیں، علامہ ابن قیم جو بنۃ اللہی نے آپ ﷺ کے خطبہ کی چند کیفیتیں بیان کی ہیں، جو ہر خطیب کو ملحوظ رکھنی چاہیے، وہ مندرجہ ذیل ہیں:

(۱) جب آپ مسجد تشریف لاتے تو سب کو سلام کرتے۔ (۲) اور جب منبر پر تشریف لے جاتے تو سب کو سلام کرتے۔ منبر پر چڑھنے کے بعد سلام کرنے کا مسئلہ مختلف فیہ ہے، امام شافعی جو بنۃ اللہی کے نزدیک جائز اور احناف کے نزدیک نہیں، کیونکہ جس روایت سے آپ ﷺ کا سلام ثابت ہے اس کے بارے میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا چاہئے کہ امام تیہقی اور دیگر محدثین نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔

دوسری بات یہ ہے کہ بعض علماء نے تعدد طرق سے مردی ہونے کی وجہ سے اس کو مشروع مانا ہے لیکن اکثر علماء احناف نے اسے دوسری روایات کے مخالف ہونے کی وجہ سے اس پر عمل

کو ترک کیا ہے، کیونکہ جب امام منبر پر جانے کے بعد سلام کرے گا تو سامعین اس کا جواب دیں گے، اور حدیث میں آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا، ”أَذَا خَرَجَ الْإِمَامُ فَلَا صَلَاةَ وَلَا كَلَامَ“ (کنز العمال: ۲۱۲) بحوالہ معجم طبرانی) تو امام کا سلام اور سامعین کا جواب اس روایت کے مخالف ہے، کیونکہ یہاں کلام سلام کی شکل میں پایا جا رہا ہے، اور آپ ﷺ نے اس سے روکا ہے۔ (اس مضمون سے متعلق کچھ اور احادیث بیان: ”نماز جمعہ اور خطبہ سے متعلق چند غلط فہمیوں کا ازالہ میں“ ذکر کی جا چکی ہیں)

اس روایت پر سند کے اعتبار سے محدثین نے اگرچہ کلام کیا ہے لیکن اس کا مضمون دوسری صحیح روایات سے ثابت ہے۔

(۳) تیسرا بات یہ ہے کہ یہاں ایک روایت اباحت اور ایک روایت حرمت اور ممانعت کو بتارہی اور اصول یہ ہے کہ جب اباحت اور حرمت کا ٹکراؤ ہو تو حرمت اور ممانعت کو ترجیح دی جاتی ہے اس لئے یہاں سلام نہ کرنے کو ہی ترجیح دی جائے گی۔

(۴) چوتھی بات یہ ہے کہ علماء نے اس روایت کو منسوخ مانا ہے، ابتداء میں نماز اور خطبہ میں بات کرنے کی ممانعت نہیں تھی، بعد میں جب نماز اور خطبہ میں بات کرنے کی ممانعت نازل ہوئی تو یہ بھی حکم ختم ہو گیا۔

(۵) خطبہ کے لئے جب آپ آتے تو آپ کے آگے نہ کوئی عصا بردار ہوتا تھا اور نہ کوئی خاص قسم کا لباس آپ پہنتے تھے۔ (۶) خطبہ کچھ تاخیر سے دیتے تاکہ لوگ جمع ہو جائیں۔

(۷) اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر تعوذ فرماتے۔ (۸) لوگوں کو پھلاندنے سے روکتے (۹) حضرت بلاں رضی اللہ عنہ اذان دیتے اس کے بعد آپ ﷺ خطبہ دیتے اور اذان و خطبہ میں فصل

(۱۰) خطبہ میں کبھی کمان اور کبھی عصا پر سہارا لیتے۔ (۱۱) خطبہ میں آپ اصول اسلام اور احکام شریعت سکھلاتے۔ (۱۲) حالات کے اعتبار سے خطبہ دیتے۔ (۱۳) جب آپ خطبہ

دیتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتیں، آواز بلند ہو جاتی، اور غضب شدید ہو جاتا، اور ایسا محسوس ہوتا جیسا کہ آپ لشکر سے لوگوں کو ڈار ہے ہوں۔ اور آپ خطبہ میں تحریم اور شناور تشهید کے بعد یہ ارشاد فرماتے ”إِنَّ أَصْدِقَ الْحَدِيثَ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدِيَّ هَذِئِي مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَّاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَّةٍ بُدْعَةٌ وَكُلُّ بُدْعَةٍ ضَلَالٌ وَكُلُّ ضَلَالٌ نَارٌ“ (صحیح ابن خزیمہ: کتاب الجمعة، ۱۷۸۵) (۱۲) آپ ﷺ دو خطبے دیتے اور دونوں خطبوں کے درمیان میں خفیف ساقعود فرماتے۔ (۱۳) آپ خطبہ مختصر دیتے تھے اور نماز اس کی بنسیت طویل ادا فرماتے تھے۔ (۱۴) دوران خطبہ کوئی امر و نہی کی بات پیش آتی تو اس کی تعلیم کرتے۔ (۱۵) دوسرے خطبے کے بعد حضرت بلال اذان دیتے اور آپ لوگوں کو قریب ہونے اور خاموش ہونے کا حکم فرماتے۔ (زاد المعاد: ۳۹/۱) اور خطبے کے کلمات مختلف روایات میں مختلف الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ مردی ہیں۔

خطبہ کے اركان:

خطبہ میں سب سے اہم چیز خطبہ کے اركان ہیں، جن کے بغیر خطبہ صحیح نہیں ہوتا، علماء نے لکھا ہے کہ خطبہ کے دوار کان ہیں:

أَمَّا الْحُطُبُّ فَتَسْتَعِمُ عَلَى فَرِضٍ وَسِنَةٍ فَأَمَّا الْفُرْضُ فَشَيْئًا لِلْوَقْتِ وَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى۔ (البحر الرائق: ۱۵۹/۲، وفتاویٰ ہندیہ: ۱۳۶/۱)

(۱) وقت کا ہونا، اور اس کا وقت زوال کے بعد ہے، اس سے پہلے خطبہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور نہ دینے سے وہ ادا ہو گا۔

(۲) خطبہ میں اللہ کی حمد، تسبیح، تہلیل اور بڑائی بیان کرنا۔ اور اس کی کم از کم مقدار ایک مرتبہ الحمد للہ، سبحان اللہ، يالا اللہ الا اللہ کہنا ہے، لیکن تین آیات کی مقدار سے کم خطبہ دینا مکروہ ہے۔ اور امام محمد اور امام ابو یوسف عَلِیِّی فرماتے ہیں کہ خطبہ کی کم از کم مقدار تشهید کے بقدر ہے، اس سے کم مقدار میں خطبہ دینا مکروہ ہے۔ (البحر الرائق: ۱۶۱/۲)

خطبہ کے سنن اور آداب:

خطبہ کے ارکان کے بعد وہ امور جن کی خطیب کو رعایت کرنی چاہیئے وہ خطبہ کے سنن اور آداب ہیں جو مندرجہ ذیل ہیں:

- (۱) طہارت: پاکی کی حالت میں خطبہ دینا۔
- (۲) کھڑے ہو کر خطبہ دینا۔
- (۳) حاضرین کی طرف متوجہ ہو کر خطبہ دینا۔
- (۴) خطبہ سے قبل آہستہ سے اعوذ باللہ پڑھنا۔
- (۵) خطبہ اتنی بلند آواز سے دینا کہ لوگوں تک آواز پہنچ جائے۔
- (۶) خطبہ حمد سے شروع کرنا۔
- (۷) خطبہ میں اللہ پاک کی حمد و ثناء بیان کرنا۔
- (۸) کلمہ شہادت پڑھنا۔
- (۹) درود شریف پڑھنا۔
- (۱۰) لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنا۔
- (۱۱) قرآن کریم کی کوئی آیت پڑھنا۔
- (۱۲) دوسرے خطبہ میں دوبارہ حمد و ثناء اور درود شریف پڑھنا۔
- (۱۳) تمام مسلمانوں کے لئے دعائیں۔
- (۱۴) خطبہ کو زیادہ طویل نہ کرنا، بہتر ہے کہ طوال مفصل کی کسی صورت کے بقدر ہو۔
- (۱۵) دونوں خطبوں کے درمیان بیٹھنا۔ اور اس کی مقدار یہ ہے کہ قرآن پاک کی تین آیات پڑھی جاسکیں۔
- (۱۶) منبر پر چڑھ کر خطبہ دینا۔

(۱۷) دورانِ خطبہ عصا ہاتھ میں لینا۔ لیکن نہ لینے والے پر ملامت کرنا عن طعن کرنا صحیح نہیں ہے۔

(۱۸) خطبہ میں خلفاء راشدین رضی اللہ عنہم اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا ذکر کرنا۔ (فتاویٰ ہندیہ: ۱/۱۳۶ و ۲/۱۲۸، والبحر الرائق: ۲/۱۰، ورد المحتار: باب الجمعة، ۲/۱۳۷)

خطبہ کے مکروہات اور خلافِ ادب امور:

خطبہ میں چند امور مکروہ اور خلافِ ادب ہیں، جن سے خطیب حضرات اور سامعین کو بچنا چاہیئے، وہ یہ ہیں:

(۱) بغیر طہارت کے خطبہ دینا۔

(۲) بلا عذر بیٹھ کر خطبہ دینا۔

(۳) قبل رخ ہو کر خطبہ نہ دینا۔

(۴) غیر عربی میں خطبہ دینا۔

(۵) دونوں خطبوں کے درمیان نہ بیٹھنا۔

(۶) خطبہ کے دوران بات کرنا چھینک کا جواب دینا، یا خطبہ سننے کے علاوہ دیگر امور کی طرف متوجہ ہونا۔ حتیٰ کہ کسی کو اپنی زبان سے تک روکنا منع ہے، ہاں اگر اپنے ہاتھ سے یا آنکھوں سے اشارہ کے ذریعہ روکے تو کوئی حرج نہیں ہے۔

(۷) دورانِ خطبہ لوگوں کا بلند آواز سے درود شریف پڑھنا۔

(۸) قرأتِ قرآن کا ترک کرنا۔

(۹) طویل خطبہ دینا۔

(۱۰) خطبہ کے دوران امام کا بات کرنا، ہاں امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو تو کوئی حرج نہیں۔

(۱۱) دورانِ خطبہ دعا میں ہاتھ اٹھانا۔

(۱۲) امام کے قریب ہونے کے لئے لوگوں کی گردنوں کو پھلانگنا۔

(۱۳) دورانِ خطبہ کسی خاص ہیئت میں بیٹھنا ثابت نہیں ہے، جس طرح چاہے آدمی اپنی سہولت سے بیٹھ سکتا ہے، لیکن فقہاء نے لکھا ہے کہ نماز میں جس طرح بیٹھا جاتا ہے اس طرح بیٹھنا مستحسن ہے۔ (فتاویٰ ہندیہ: ار ۷۱۳۸ و ۱۳۸۷) البته احادیث میں آپ ﷺ نے حجہ (سرین کے بل بیٹھ کر گھٹنے کھڑے کر کے ان کے گرد سہارا لینے کے لئے دونوں ہاتھ باندھ لینا، یا کمر اور گھٹنوں کے گرد کپڑا باندھ لینا) مار کر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے۔



عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مسنونات اور مستحبات:

یہ جمعہ اور خطبہ سے متعلق فضائل اور مسائل کا بیان تھا، اب عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مسنونات اور مستحبات بھی ذکر کئے جا رہے ہیں، ان میں سے چند تو حضرت کے خطبہ میں مذکور تھے اور چند کا حکم حضرت اضافہ کیا گیا ہے، اور ان کو علاحدہ سپرد قرطاس لایا گیا ہے، تاکہ مرتب اور مزین طور پر بیکجا ہونے سے قارئین کے لئے پڑھنے اور عمل کرنے میں سہولت ہو۔

عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے مسنونات اور مستحبات یہ ہیں:

(۱) صحیح سویرے اٹھنا۔ اور عید گاہ جلد جانا۔ (ہندیہ: ج ۳، ص ۳۲۳ و شرح السنۃ: ۱۱۰۳)

(۲) شرع کے موافق اپنی آرائش کرنا۔ (من احکام العید: ۱۵/۱)

(۳) غسل کرنا۔ (زاد المعاد: ۳۲۶ و شرح السنۃ: ۱۱۰۲)

(۴) مسوک کرنا۔ (ہندیہ: ج ۳، ص ۳۲۳)

(۵) عمدہ سے عمدہ کپڑے جو پاس موجود ہوں پہنانا۔ (زاد المعاد: ج ۱، ص ۳۲۵)

ایک مرتبہ حضرت عمر نے آپ ﷺ کے لئے ایک جبہ لیا، اور اس کو رسول اللہ ﷺ کے پاس لے آئے، اور کہا کہ یا رسول اللہ یہ لے لیجئے تاکہ عید کے لئے زینت ہو جائے۔ (من احکام العید: ۱۵/۱) اس سے عید کے روز عمدہ کپڑے پہننے کا استحباب معلوم ہوتا ہے۔

(۶) خوشبو لگانا۔ (شرح السنۃ: ۱۱۰۲ و ہندیہ: ج ۳، ص ۳۲۳)

(۷) عید الفطر میں عید گاہ جانے سے قبل کوئی شیریں چیزیں مثل چھوارے وغیرہ کھانا۔ (زاد

المعاد: ج ۱، ص ۳۲۵ و شرح السنۃ: ۱۱۰۳)

(۸) عید الاضحیٰ میں عید گاہ جانے سے قبل کچھ نہ کھانا۔ اگر قربانی کرے تو اس سے کھانے کی

ابتدأ کرنا۔ (زاد المعاد: ج ۱، ص ۳۲۶، و شرح السنۃ: ۱۱۰۳)

(۹) جس پر صدقہ فطر واجب ہے نماز سے قبل اسے ادا کرنا۔ (ہندیہ: ج ۳، ص ۳۲۳)

(۱۰) عید کی نماز عیدگاہ میں جا کر پڑھنا یعنی شہر کی مسجد میں بلا عذر نہ پڑھنا۔ (زاد المعا德: ج، ص ۳۲۵)

(۱۱) جس راستہ سے جائے اس کے سوا دوسرے راستہ سے واپس آنا۔ (زاد المعا德: ج، ص ۳۳۲، و صحیح بخاری: کتاب العیدین، ۹۸۶)

علماء نے اس کی کئی حکمتیں نقل کی ہیں۔

(۱) اس میں شعائر اسلام کا اظہار ہوتا ہے۔

(۲) دونوں راستے کل قیامت میں اس آدمی کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ (۳) اللہ کے ذکر کا اظہار ہوتا ہے۔ (۴) منافقین اور یہود کا سر نیچا ہوتا ہے۔ (۵) دونوں راستے والوں کو سلام کا موقع ملتا ہے۔ (۶) ان کی تعلیم ہوتی ہے۔ (۷) ان کو صدقہ دیا جاسکتا ہے، اور ان کے ساتھ صلح رحمی ہوتی ہے۔ وغیرہ۔ (من احکام العید)

(۱۲) پیدل جانا۔ (زاد المعا德: ج، ص ۳۲۶) اگر عیدگاہ دور ہو تو سواری پر جانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(۱۳) عیدگاہ جاتے وقت بلند آواز سے ”اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ اللَّهُ الْحَمْدُ“ پڑھتے ہوئے جانا اور عیدگاہ پہنچ کر ختم کر دینا۔ (زاد المعا德: ج، ص ۳۲۷)

(۱۴) نماز عید الاضحی جلد ادا کرنا۔ نماز عید الفطر تاخیر سے ادا کرنا۔ (زاد المعا德: ج، ص ۳۲۷)

(۱۵) عیدگاہ میں نماز عید کے علاوہ کوئی نمازنہ پڑھنا۔ (ابوداؤد: ج، ص ۳۰۱)

(۱۶) حسبِ استطاعت صدقہ و خیرات کثرت سے کرنا۔

(۱۷) عیدگاہ وقار اور اطمینان سے جانا، اور جن چیزوں کا دیکھنا جائز نہیں ہے ان سے آنکھیں پنجی رکھنا۔

(۱۸) فرحت و خوشی کا اظہار کرنا۔ اور اس دن اپنے اہل و عیال پر وسعت کرنا جس سے ان کے نفس کو خوشی حاصل ہو۔ (فتح الباری: ۲/ ۳۳۳)

(۱۹) مبارکباد دینا۔ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا۔ (من احکام العید: ۱/ ۷، وشعب الایمان: ۶۰۸۸)

عید کے دن مصافحہ اور معانقہ کا حکم:

(۲۰) عام طور پر عید کے دن نماز کے بعد مصافحہ اور معانقہ کا شرعی حکم لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، اور لوگ اس کو عید کی سنت سمجھتے ہیں جب کہ شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ ﷺ سے یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ فقہاء نے اسے رواض کا طریقہ بتایا ہے، اس لئے اگر اس کو سنت سمجھا جائے اور ضروری سمجھا جائے اور نہ کرنے والوں پر لعن طعن کیا جائے تو وہ بدعت ہے، اور اس صورت میں مصافحہ اور معانقہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر عید کی میل ملاپ اور خوشی میں مصافحہ اور معانقہ کر لے اور اس کو سنت نہ سمجھے تو اس کی گنجائش ہے۔ لیکن چونکہ عوام میں یہ ایک رسم بن چکی ہے، اور پھر اس کو عید کا حصہ، نماز کا تتمہ اور اور ضروری اور دینی امر سمجھ کر کیا جاتا ہے، اس لئے اس سے بچنا اولی ہے۔ مستفاد از: (فتاویٰ دارالعلوم زکر یا: ۵۹۳/ ۲ و فتاویٰ فریدیہ: ۱/ ۳۰۲ و فتاویٰ محمودیہ: ۲/ ۵۲۳ و امداد الفتاوی: ۱/ ۳۸۱ و احسن الفتاوی: ۱/ ۳۵۳ و فتاویٰ رحیمیہ: ۱/ ۲۸۰ و فتاویٰ رشیدیہ: ۷/ ۱۳۷)

جمعہ، عیدین، نکاح اور استسقاء کے
عربی خطبات

جمعہ، عیدین، نکاح اور استسقاء کے عربی خطبات:

چونکہ اس مجموعہ کے مضامین جمعہ اور خطبہ سے متعلق ہیں اس لئے اخیر میں جمعہ، عیدین، نکاح اور استسقاء کے خطبے ذکر کئے گئے ہیں، اس میں بالخصوص حضرت تھانوی حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ کی کتاب سے استفادہ کیا گیا، سب سے پہلے حضور ﷺ کا سب سے پہلا خطبہ جو آپ نے جمعہ کے دن دیا تھا، وہ پیش ہے، تاکہ منقول خطبہ بھی بطور اسوہ ہمارے سامنے رہے۔ علامہ ابن قیم حَفَظَ اللَّهُ عَنْهُ نے مورخین کے حوالہ سے اس کو نقل کیا ہے کہ آپ جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو بنو عمرو بن عوف کے پاس مقام قبائلی ٹھہرے، اور پیر، منگل چہارشنبہ اور جمعرات وہیں قیام کیا، اور مسجد کی بنیاد رکھی، اس کے بعد جمعہ کے دن نکلے، درمیان میں جب جمعہ کا وقت ہوا تو بنو سالم بن عوف کے پاس بطن وادی میں آپ نے جمعہ ادا کیا، ابن اسحاق کہتے ہیں یہ اسلام کا سب سے پہلا خطبہ تھا جو آپ نے دیا تھا اور نماز ادا کی تھی، وہ خطبہ اگلے صفحہ پر درج ہے۔

اسلام کا پہلا خطبہ:

اس خطبہ میں اولاً آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء بیان کی جیسا کہ اس کی شان ہے، اس کے بعد فرمایا:

أَمَّا بَعْدُ : أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كُنْتُ مُؤْمِنًا وَاللَّهُ لَيَصْرِفَنَّ أَحَدَكُمْ ثُمَّ لَيَدَعَنَّ عَنْهُ نَعْمَةً لَيْسَ لَهَا رَأْيٌ ثُمَّ
لَيُقُولُنَّ لَهُ رَبُّهُ وَلَيَسَ لَهُ تَوْجِهٌ وَلَا حَاجَةٌ يَحْجِبُهُ دُونَهُ إِلَّا مَا يَأْتِكَ رَسُولِنَا فَبَلَغَكَ وَآتَيْتَكَ مَا لَكَ
وَأَفْضَلُكَ عَلَيْكَ فَمَا قَدَّمْتَ لِنَفْسِكَ فَلَيَنْظُرْنَ يَمِينًا وَشِمَالًا فَلَا يَرَى شَيْئًا ثُمَّ لَيَنْظُرْنَ قُدَامَهُ فَلَا يَرَى
غَيْرَ جَهَنَّمَ فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَقُولَ وَجْهَهُ مِنَ النَّارِ وَلَوْ بِشَيْءٍ مِنْ تَمَرٍ فَلَيَقُولُ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فِي كَلْمَةٍ
طَيِّبَةً فَإِنْ بِهَا تَجُزِي الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِمِائَةِ ضِعْفٍ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

آپ ﷺ کا خطبہ ثانیہ:

پھر آپ ﷺ نے دوسرا خطبہ دیا:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ أَحَمْدُهُ وَأَسْتَعِينُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرِّ وَرَأْفَعِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ إِنَّ أَحْسَنَ
الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَيَّنَهُ اللَّهُ فِي قَلْبِهِ وَأَدْخَلَهُ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ الْكُفْرِ فَاخْتَارَهُ عَلَى مَا
سَوَاهُ مِنْ أَحَادِيثِ النَّاسِ، إِنَّهُ أَحَسَنُ الْحَدِيثِ وَأَبْلَغُهُ أَحْبُبُ اللَّهِ، أَحْبَبُوا اللَّهَ مِنْ كُلِّ قُلُوبِكُمْ
وَلَا تَمْلُأُ كَلَامَ اللَّهِ وَذِكْرَهُ، وَلَا تَقْسِمَ عَنْهُ قُلُوبَكُمْ فَإِنَّهُ مِنْ كُلِّ مَا يَخْلُقُ اللَّهُ يَخْتَارُ وَيَصْطَرُ، قَدْ سَمَّاهُ
اللَّهُ خَيْرَتَهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَمُضْطَفَاهُ مِنَ الْعِبَادِ وَالصَّالِحِ مِنَ الْحَدِيثِ وَمِنْ كُلِّ مَا أُوتِيَ النَّاسُ مِنَ الْحَلَالِ
وَالْحَرَامِ فَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَاتَّقُوهُ حَقَّ تَقَاتِهِ، وَاصْدِقُوا اللَّهَ صَالِحَ مَا تَقْوُلُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ
وَتَحَبُّو بِرَوْحِ اللَّهِ يَيْئَنُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ يَعْصِبُ أَنْ يَنْكُثَ عَهْدَهُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ .

(زاد المعاد: ۱/۳۷۷ و ۲/۳۷۷ و الزہد لہناد: ۲۹۲)



جمعہ کا خطبہ اولیٰ:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرِّ وِرَأْفَقِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ ﴿١﴾ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً أَعْبُدُهُ وَرَسُولُهُ، أَوْ سَلَةٌ بِالْحَقِّ بِشَيْرٍ أَوْ نَذِيرٍ أَيْمَنَ يَدِي السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ، وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَصْرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَصْرُّ اللَّهُ شَيْئاً ﴿٢﴾ (سنن ابو داود: کتاب النکاح، ۲۱۲۰ و ۲۱۲۱)

أَمَّا بَعْدُ! فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ، وَأَوْثَقَ الْعُرْبِيَّ كَلِمَةُ التَّقْوَىٰ، وَخَيْرُ الْمِلَلِ مِلَلَ إِبْرَاهِيمَ، وَأَحْسَنُ الْقَصَصِ هَذَا الْقُرْآنُ، وَأَحْسَنُ السُّنَّنِ سُنْنَةُ مُحَمَّدٍ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ)، وَأَشْرَفَ الْحَدِيثُ ذِكْرُ اللَّهِ، وَخَيْرُ الْأُمُورِ عَزَّائِمُهَا، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثُّا تُهَا، وَأَحْسَنُ الْهُدُىٰ هُدُىُّ الْأَنْبِيَا، وَأَشْرَفَ الْمَوْتِ قَتْلُ الشُّهَدَاءِ، وَأَغْرَى الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ بَعْدَ الْهُدُىٰ، وَخَيْرُ الْعِلْمِ مَا فَاعَ، وَخَيْرُ الْهُدُىٰ مَا تَابَعَ، وَشَرُّ الْعِلْمِ عَمَى الْقُلُوبَ، وَالْيَدَ العُلِيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَىٰ، وَمَا قَلَّ وَكَفَىٰ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَأَلْهَىٰ، وَنَفْسٌ تُنْجِيْهَا خَيْرٌ مِنْ أَمَارَةٍ لَا تُحْصِيْهَا، وَشَرُّ الْعَدْلَةِ عِنْدَ حَضُورِ الْمَوْتِ، وَشَرُّ النَّذَامَةِ نَذَامَةُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَأْتِي الصَّلَاةَ إِلَّا دُبْرَا، وَمِنَ النَّاسِ مَنْ لَا يَذْكُرُ اللَّهَ إِلَّا مَهَا جَرَأَ، وَأَعْظَمَ الْخَطَايَا الْلِسَانُ الْكَذُوبُ، وَخَيْرُ الْغُنْيَى عَنِ النَّفْسِ، وَخَيْرُ الرَّازِدِ التَّقْوَىٰ، وَرَأْسُ الْحِكْمَةِ مَخَافَةُ اللَّهِ، وَخَيْرُ مَا أُقْيِي فِي الْقُلُوبِ الْيَقِيْنُ، وَرَأْسُ الْكُفَّارِ، وَالنُّوحُ مِنْ عَمَلِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَالْعُلُوُّ مِنْ جَهَنَّمَ، وَالْكُتْرَ كَيْيٌّ مِنَ النَّارِ، وَالشِّعْرُ مَرَأْمِيرٌ إِبْلِيسُ، وَالْخَمْرُ جُمَّاعُ الْإِثْمِ، وَالسِّنَاءَ حَبَائِلُ الشَّيْطَانِ، وَالشَّبَابُ شُعْبَةُ مِنَ الْجَنَّوْنِ، وَشَرُّ الْمَكَاسِبِ كَسْبُ الرِّبَا، وَشَرُّ الْمَآكِلِ أَكْلُ مَالِ الْيَتَيْمِ، وَالسَّعِيدَمَنْ وَعَظَّ بِغَيْرِهِ، وَالشَّقِيقَيْ مِنْ شُقِيقِيْ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَإِنَّمَا يَكْفُيْ أَحَدُكُمْ مَا قَنَعَتْ بِهِ نَفْسُهُ، وَإِنَّمَا يَصِيرُ إِلَى مَوْضِعِ أَرْبَعَةِ أَذْرِعٍ وَالْأُمْرُ بَآخِرِهِ، وَمِلَأَ الْعَمَلَ بِهِ خَوَاتِمَهُ، وَشَرُّ الرِّوَايَا رَوَايَا الْكَذِبِ، وَكُلَّ مَا هُوَ آتٍ قَرِيبٌ، وَسَبَابُ الْمُؤْمِنِ فُسُوقٌ، وَقِتَالَةُ كُفُّرٌ، وَأَكْلُ لَحْمِهِ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ، وَحُزْمَةَ مَالِهِ كُحْزَمَةَ دَمِهِ، وَمَنْ يَتَأَلَّى عَلَى اللَّهِ يُكَذِّبُهُ، وَمَنْ يَعْفُ يَغْفِرُ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ يَعْفُ يَعْفُ اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ يَكْظِمِ الْغَيْظَ يَأْجُرُهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَصْبِرُ عَلَى الرَّازِيَا يُعْقِبُهُ اللَّهُ، وَمَنْ يَعْرِفُ الْبَلَاءَ يَصْبِرُ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا يَعْرِفُهُ يُنْكِرُهُ، وَمَنْ يَسْتَكْبِرُ

يَضْعُفُ اللَّهُ، وَمَنْ يَقْتَنِي السُّمْعَةَ يُسْمِعِ اللَّهَ بِهِ، وَمَنْ يَنْوِ الدُّنْيَا تُعْجِزُهُ، وَمَنْ يُطِعِ الشَّيْطَانَ يُغْصِ اللَّهُ، وَمَنْ يَغْصِ اللَّهُ يُعَذِّبُهُ، أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَا مُتَبَّيِّ، أَللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلَا مُتَبَّيِّ، أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ ﴿٣٩﴾

(الزہد لہناد: ۷۹ و مصنف ابن ابی شیبۃ: کتاب الزہد، ۳۵۶۹)

شروع میں حمد صلاۃ اور اخیر میں استغفار کو چھوڑ کر بقیہ خطبہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مردی ہے۔ البته حمد و صلاۃ اور استغفار کے الفاظ دوسری احادیث سے منقول ہیں، اور یہی خطبہ حضور ﷺ سے بھی منقول ہے جو آپ نے غزوۃ تبوک کے موقع پر دیا تھا۔ (زاد المعاڈ: ۱/۳۱ و سبل الہدی والرشاد: ۵/۲۵) (اس روایت کے بارے میں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: وهذا حديث غريب وفيه نكارة وفي

إسناده ضعف (سیرت ابن کثیر: ۲۵/۳)



جمعہ کا خطبہ ثانیہ:

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعْوَذُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ ﴿١﴾ وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿٢﴾ وَأَشْهُدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً أَعْبُدُهُ وَرَسُولَهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بِشَيْرًا وَنَذِيرًا بَيْنَ يَدِي السَّاعَةِ ﴿٣﴾ مَنْ يُطِيعُ اللّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَإِنَّهُ لَا يَصْرُّ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يَصْرُّ اللّهُ شَيْئًا ﴿٤﴾ أَعْوَذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٥﴾ بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٦﴾ إِنَّ اللّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٧﴾ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ وَصَاحِبِهِ أَجْمَعِينَ ﴿٨﴾

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْحَمْ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللّهِ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاةً عُثْمَانَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وَأَقْضَاهُمْ عَلَيَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، وَفَاطِمَةُ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا، وَالْحُسْنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، وَحَمْرَةُ أَسْدِ اللّهِ وَأَسْدُرِ رَسُولِهِ ﴿٩﴾ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْعَبَاسِ وَوَلِيْدِهِ مَغْفِرَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً لَا تَعَادُ ذَنْبًا، اللَّهُ اللَّهُ فِي أَصْحَابِي لَا تَتَخَذُ وَهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِي ﴿١٠﴾ فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّي أَحَبَّهُمْ وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِعَيْضِنِي أَبْغَضَهُمْ، وَخَيْرُ أُمَّتِي قَرْنَى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ﴿١١﴾ وَالسُّلْطَانُ (الْعَادِلُ) ظِلُّ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ مَنْ أَهَانَ سُلْطَانَ اللَّهِ فِي الْأَرْضِ أَهَانَهُ اللَّهُ ﴿١٢﴾

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَا عَنِ الْفُحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبُغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٣﴾ فَإِذْكُرُوهُ اللَّهَ يَذْكُرُكُمْ وَإِذْعُوهُ يَسْتَجِبُ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى أَعْلَى وَأَوْلَى وَأَعْزَى وَأَجْلَى وَأَتَمُّ وَأَهْمَّ وَأَعْظَمُ وَأَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ﴿١٤﴾



عید الفطر کا پہلا خطبہ:

أَمَّا بَعْدُ! فَاعْلَمُوا أَنَّ يَوْمَ مَكْمُونٍ هَذَا يَوْمٌ عِيدٌ، لِلَّهِ عَلَيْكُمْ فِيهِ عَوَادُ الْحُسَانِ، وَرَجَاءُ نَيْلِ الدَّرَجَاتِ
وَالْعَفْوُ وَالْغُفرَانُ ◆ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ◆ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا ◆ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ◆
وَقَدْ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ يَعْنِي يَوْمَ فِطْرِهِمْ بِاهِي بِهِمْ مَلِئَكَتَهُ فَقَالَ يَا مَلَائِكَتَي
مَا جَزَاءُ أَجِيرٍ وَفِي عَمَلَةٍ؟ قَالُوا: رَبَّنَا جَزَاءُهُ أَنْ يُؤْفَى أَجْرُهُ، قَالَ: مَلَائِكَتِي! عَبْيَدِي وَإِمَائِي قَضَوَا
فِرِيْضَتِي عَلَيْهِمْ ثُمَّ خَرَجُوا يَعْجَجُونَ إِلَى الدُّعَاءِ وَعَزَّتِي وَجَلَّتِي وَكَرَمِي وَعُلُوِّي وَارْتَفَاعُ مَكَانِي لَا
جِيْنَيْنَهُمْ فَيَقُولُ إِنْ جَعْوَانَ قَدْ عَفَرَتْ لَكُمْ وَبَدَلَتْ سَيِّاتُكُمْ حَسَنَاتِ، فَيَرِجُعُونَ مَغْفُورًا لَهُمْ ◆ اللَّهُ
أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ◆ وَهَذَا الَّذِي ذُكِرَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ كَانَ
فَضْلَهُ، وَأَمَا أَحْكَامُهُ فَمِنْهَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: صَاعُ مِنْ بُرٍّ أَوْ قَمْحٍ عَنْ
إِثْنَيْنِ، صَعِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ، حُرِّ أَوْ عَبَدٍ، ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى، وَعَنْ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ زَكْوَةُ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، وَأَمْرَ بِهَا أَنْ تُؤْدِيَ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى
الصَّلَاةِ، وَمِنْهَا الصَّلَاةُ وَالْخُطْبَةُ: فَقَدْ كَانَ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى إِلَى
الْمُصَلَّى، فَأَوْلُ شَيْءٍ يَبْدأُ بِهِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُولُ مُقَابِلَ النَّاسِ، وَالنَّاسُ جُلُوسٌ عَلَى
صُفُوفِهِمْ، فَيَعْظُمُهُمْ، وَيُؤْصِيْهِمْ، وَيَأْمُرُهُمْ. وَمِنْهَا التَّكْبِيرُ فِي أَثْنَاءِ الْخُطْبَةِ: فَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

يُكَبِّرُ بَيْنَ أَصْعَافِ الْخُطْبَةِ، وَ يُكَبِّرُ التَّكْبِيرُ فِي خُطْبَةِ الْعِيدَيْنِ، وَ مِنْهَا صِيَامُ سِتَّةِ آيَاتِ مِنْ شَوَّالٍ، فَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثُمَّ أَتَبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ
 اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَ لِلَّهِ الْحَمْدُ
 أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ قَدْ أَفْلَحَ
 مَنْ تَرَكَهُ وَ ذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
 بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَ لَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَ نَفَعَنَا وَ إِيَّاكُمْ بِالآيَاتِ
 وَ الذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَ لَكُمْ وَ لِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُ وَ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔



أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ -

عید الاضحیٰ کا پہلا خطبہ:

اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ﴿١﴾ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ الْأَصَاحِيُّ يَوْمَ بَعْدَ يَوْمِ الْأَضْحَى ﴿٢﴾ وَهَذَا بَعْضُ
مِنَ الْفُضَائِلِ، وَتَعَلَّمُوا مِنَ الْعُلَمَاءِ الْمُسَائِلَ ﴿٣﴾ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ
الْحَمْدُ ﴿٤﴾ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٥﴾ لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلِكُنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ
كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَى كُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴿٦﴾ بَارَكَ اللَّهُ لَنَا وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ
الْعَظِيمِ وَنَفَعَنَا وَإِيَّاكُمْ بِالآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ۔ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ
إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ (خطبات جمعہ و عیدین: ۳۰، ۳۱، ۳۲)



عبدالاً ضحى كادوسرا خطبه:

الله أَكْبَرُ، إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ
وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ وَرَأْفَقِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا
مُضِلٌّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلَا هَادِي لَهُ ﴿١﴾ وَنَشَهِدُ أَنَّ لِإِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ﴿٢﴾ وَنَشَهِدُ أَنَّ مُحَمَّداً
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آٰلِهِ وَآصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا كَثِيرًا - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ - آمَّا بَعْدُ !

فَإِنَّ أَعْصَدَ قَالْ حَدِيثَ كِتَابِ اللَّهِ ﴿٣﴾ وَأَحْسَنَ الْهَدِيَّ هُدُى مُحَمَّدٌ (صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) ﴿٤﴾ وَشَرَّ الْأُمُورِ
مُحَدَّثَاتُهَا ﴿٥﴾ وَكُلَّ مُحَدَّثَةٍ بُدْعَةٌ وَكُلَّ بُدْعَةٍ ضَلَالٌ لَهُ وَكُلَّ ضَلَالٍ لِهِ فِي النَّارِ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ ﴿٦﴾

أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٧﴾ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلِّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٨﴾ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبَ وَدَوِّئْهَا
وَعَافِيَةَ الْأَبْدَانِ وَسِفَائِهَا وَنُورَ الْأَبْصَارِ وَضِيَائِهَا ﴿٩﴾ وَعَلَى إِلَهِ وَصَحِّبِهِ أَجْمَعِينَ ﴿١٠﴾

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَمَّنْ هُوَ أَفْضَلُ الْبَشَرِ بَعْدَ الْأَنْبِيَاٰ بِالْتَّحْقِيقِ رَفِيقَةَ فِي الْغَارِ وَأَنِيسَةَ أَبْوَبِكُرِ الصِّدِيقِ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿١١﴾ وَعَنِ النَّاطِقِ بِالصِّدِيقِ وَالصَّوَابِ الْفَارِقِ بَيْنِ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ الْأَوَاهِ الْأَوَابِ
عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿١٢﴾ وَعَنْ كَامِلِ الْحَيَاةِ وَالْإِيمَانِ جَامِعِ آيَاتِ الْقُرْآنِ عُثْمَانَ بْنِ
عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿١٣﴾ وَعَنْ أَمَامِ الْمَسَارِقِ وَالْمَغَارِبِ أَسَدِ اللَّهِ الْغَالِبِ عَلَيِّ بْنِ أَبْيَ طَالِبِ كَرَمِ
اللَّهِ وَجَهَهَ ﴿١٤﴾ وَعَنِ السَّعِيدَيْدِينَ الشَّهِيْدَيْدِينَ سَيِّدِي شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا ﴿١٥﴾ وَعَنْ أُمِّهِمَا الْبَتُولِ الزَّهْرَاءِ بِضَعْعَةِ جَسَدِ النَّبِيِّ الْكَرِيمِ الْعَزِيزِ الْغَرَاءِ سَيِّدِ تَنَافَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُمَا ﴿١٦﴾ وَعَنْ عَمَيْهِ الْمُكَرَّمَيْنِ أَبِيهِ عُمَارَةَ سَيِّدِنَا حَمْزَةَ وَأَبِيهِ الْفَضْلِ الْعَبَاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ﴿١٧﴾ وَعَنِ
السِّتِّيْةِ الْبَاقِيَّةِ مِنَ الْعَشَرَةِ الْمُبَشِّرَةِ الْكَرِامِ الْبُرَّةِ ﴿١٨﴾ وَعَنْ سَائِرِ الصَّحَابَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَأَتَبَاعِهِمْ
وَتَابِعِيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ رِضْوَانَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ ﴿١٩﴾ اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ -

جمعہ، عیدین، نکاح، اور استسقاء کے عربی خطبات



خطباتِ عیدین کے آغاز و اختتام پر تکمیرات کی تحقیق:

خطبہ عیدین میں تکبیرات زیادہ سے زیادہ کہنا چاہئے، کھڑے ہوتے ہی پہلے نو دفعہ ”الله اکبر“ کہہ کر خطبہ شروع کرنا چاہیے، اور دوسرے خطبہ کے شروع میں سات تکبیریں کہہ کر خطبہ شروع کرنا چاہیے، اور اس کا اختتام ۱۲ تکبیروں سے کرنا چاہیے۔ یہ سنت ہے، لیکن اکثر لوگ اس سنت پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ نیز اس بات کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے کہ عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحی میں تکبیرات زیادہ کہنا چاہیے۔ ان مسائل کے حوالے مندرجہ ذیل ہیں:

(٩٦/٨) "قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَالْأَوَّلُ مِنْ أَهْلِ الْمُسْلِمِ: زَيْنُ أَعْيَادَكُمْ بِالْتَّكْبِيرِ" (المعجم الصغير للطبراني: ٥٩٩) واعلاء السنن:

”عَنْ مَسْرُوِّقِ قَالَ: كَانَ أَبْدُ اللَّهِ يُكَسِّرُ فِي الْعِيدَيْنِ تِسْعَاعَ تِسْعَاعًا يَتَسَعَ بِالْتَّكْبِيرِ وَيَحْتَمِلُهُ“ (سِنَنُ كَبْرَىٰ بِيَهْقِىٰ ٦٢١٥) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْتَةَ قَالَ: ”السُّنْنَةُ فِي التَّكْبِيرِ يَوْمَ الْأَصْحَاحِ وَالْفُطْرِ عَلَى الْمُسْبِرِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ أَنْ يَتَبَدَّلَ إِلَيْهَا الْإِمَامُ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَى الْمُسْبِرِ يَتَسَعُ تَكْبِيرَاتٍ تَشْرِى لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِكَلَامٍ ثُمَّ يَحْطُبُ، ثُمَّ يَجْلِسُ جِلْسَةً، ثُمَّ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ الثَّالِثَةِ فَيَفْتَسِحُهَا بِسَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ تَشْرِى لَا يَفْصِلُ بَيْنَهَا بِكَلَامٍ ثُمَّ يَحْطُبُ“

واضح رہے کہ یہ روایت مرسلاً ہے، اور عبد اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ سے مروی ہے، جو ایک تابعی، محدث اور فقیہ ہیں، مدینہ منورہ کے فقہاء سبعة میں سے ہیں، امام زہری اور حضرت عمر بن عبد العزیز رض کے استاذ ہیں، (تکمیلہ فتح

الملهم: کتاب النذر، ۱۲۹) اور مرسل روایت جب ثقہ راوی سے مروی ہو تو احناف کے نزدیک جھٹ ہے۔ بالخصوص جب کہ راوی من السنۃ وغیرہ جیسے الفاظ سے نقل کرے۔

”وإذ أقبل عند التابعي يرفعه أو سائر الألفاظ المذكورة فمرفوع مرسلاً“ (تدریب الرأوى للسيوطى: ۱۹۲/۱)

قلت وسائل الالفاظ المذکورة مثل قوله من السنة كذا، وامر نابكذا، او نهينا عن كذا، او امر فلان بكذا نحوه، ويدخل فيه ايضا مالا يقال من قبل الرأى، لا مجال للاجتهاد فيه، فيحمل على السماع، فإذا جاء عن الصحابي فهو في حكم المرفوع المتصل، وإذا جاء عن التابع فمرفوع مرسلاً، اي مرفوع معنى ومرفوع لفظاً۔ (اعلاء السنن: ۲۰۳)

”أخبرنا الشافعی قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد قال: حدثني اسماعيل بن أمية، أَنَّه سمعَ أَنَّ التكبيرَ في الأولىِ مِنَ الْخُطبَيْنِ يَتَسَعُ، وَفِي الْآخِرَةِ يَسْبِعُ“ (معرفة السنن والآثار للبيهقي: ۸۸/۵، وسنن بيهقي: ۲۲۱۶)

”ويبدأ بالتكبيرات في خطبة العيدين ويستحب أن يستفتح الأولى يتسع تكبيرات تترى والثانى يسع قائل عبد الله بن عتبة بن مسعود: هو من الشنة ويكبر قبل أن ينزل من المنبر أربع عشرة۔ (البحر الرائق: ۲۸۲/۲ والدر المختار: ۱۲۰/۲)

”ويكبير في عيد الأضحى أكثر مثافي خطبة الفطر۔ (مراقب الفلاح: باب أحكام العيدین، ۲۱۶)



تکبیرات کے درمیان تہلیل و تحمید مستحب ہے:

ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہئے کہ تکبیرات کے درمیان تحمید اور تہلیل کا ذکر مستحسن ہے، امام شافعی عَلَيْهِ السَّلَامُ نے ”كتاب الأم“ میں اس کو ذکر کیا ہے، چونکہ یہاں تکبیرات تشریق کی جاتی ہیں، اور اس میں چار مرتبہ اللہ اکبر کا کلمہ موجود ہے، اس لئے اگر پہلے خطبہ کے شروع میں دو مرتبہ تکبیر تشریق پڑھ کر ایک مرتبہ مزید اللہ اکبر کہہ دیا جائے اور دوسرے خطبہ کے شروع میں ایک مرتبہ تکبیر تشریق پڑھ کر تین مرتبہ مزید اللہ اکبر کا کلمہ پڑھا جائے اور دوسرے خطبہ کے اختتام پر تین مرتبہ تکبیر تشریق پڑھ کر دو مرتبہ مزید اللہ اکبر کہہ دیا جائے تو آسانی کے ساتھ اس مستحسن طریقے پر عمل ہو جائے گا۔ چنانچہ کتاب الام میں ہے:

فَإِنَّ أَدْخَلَ بَيْنَ التَّكْبِيرَتَيْنِ الْحَمْدَ وَالْتَّهْلِيلَ كَانَ حَسَنًا وَلَا يَنْقُضُ مِنْ عَدَدِ التَّكْبِيرِ شَيْئًا۔ (كتاب الام: ۲۳۹/۱)



خطبہ نکاح:

حضرت عبد اللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہ خطبہ منقول ہے:

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شَرِّ وِرَانِفِسِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلٌّ لَّهُ وَمَنْ يُضْلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ وَأَشْهُدُ أَنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهُدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بِشِيرًا وَأَنْذِيرًا بِئْنَ يَدِ السَّاعَةِ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ، وَمَنْ يَعْصِيهِمَا فَإِنَّهُ لَا يُصْرِرُ إِلَّا نَفْسَهُ وَلَا يُصْرِرُ اللَّهُ شَيْئًا يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

(النساء: ۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاةٍ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمُ مُسْلِمُونَ ﴿آل عمران: ۱۰۲﴾
 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا- يُصْلِحُ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿الاحزاب: ۷۰ و ۷۱﴾

(سنن ابی داؤد: کتاب النکاح، ۲۱۲۰ و ۲۱۲۱، و سنن دارمی: کتاب النکاح: ۲۲۵۷، والجامع الصحیح للسیسی

والمسانید: النکاح، ۲۱۳۵، و ابن ماجہ: ۱۸۹۲)



خطبہ استسقاء:

الْحَمْدُ لِلّهِ الَّذِي قَالَ فِي كِتْبِهِ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشِّرًا بَيْنَ يَدَيِ رَحْمَتِهِ، وَأَنْزَلَنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِنُحْيِي بِهِ بَلْدَةً مَيِّتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا آنَعَامًا وَآنَاسِيَ كَثِيرًا ﴿الفرقان: ٣٨ و ٣٩﴾ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدَهُ وَرَسُولَهُ، الَّذِي كَانَ يُسْتَسْقَى الْعَمَامُ بِوَجْهِهِ، صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى الْهُدَى وَاصْحَابِهِ الَّذِينَ وَصَلَوَوا مِنَ الدِّينِ إِلَى كُنْهِهِ، وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا ﴿أَمَّا بَعْدُ فَيَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ إِنَّكُمْ شَكُورُونَ إِنَّكُمْ شَكُورُونَ جَدْبَ دِيَارِكُمْ وَاسْتِيغَ خَارِ الْمَطَرِ عَنْ أَبَانِ زَمَانِهِ عَنْكُمْ وَقَدْ أَمْرَكُمُ اللّهُ أَنْ تَدْعُوهُ وَوَعَدْكُمْ أَنْ يَسْتَجِيبَ لَكُمُ الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ أَتَرَ حَمْنَ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللّهُ يَفْعُلُ مَا يُرِيدُ۔ اللَّهُمَّ أَنْتَ اللّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ أَنْزَلْ عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا آنَزْلْتَ لَنَا قُوَّةً وَبَلَاغًا إِلَى حَيْنٍ﴾ (سنن ابی داود: باب الاستسقاء: ١١٧٥) اللَّهُمَّ اسْقِ عَيْنَا مَرِيَّنَا، مُرِيعًا طَبَقًا، عَاجِلًا غَيْرَ رَائِعٍ، نَافِعًا غَيْرَ ضَارٍ ﴿سنن ابن ماجہ: باب ما جاء في الدعاء في الاستسقاء، ١٢٦٩﴾ اللَّهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَانْشُرْ رَحْمَتَكَ وَأَخْبِرْ بَلَدَكَ الْمِيَّتَ ﴿سنن ابی داود: باب الاستسقاء، ١١٧٦﴾ اللَّهُمَّ اسْقِنَا عَيْنَا مُغَيْثًا هَنِيَّا مَرِيَّنَا مُرِيعًا عَدْقًا مُجَلَّلاً عَامًا طَبَقًا سَحَادَاءِمَا، اللَّهُمَّ اسْقِنَا الْغَيْثَ وَلَا تَجْعَلْنَا مِنَ الْقَانِطِينَ، اللَّهُمَّ إِنَّ بِالْعِبَادِ وَالْبِلَادِ وَالْبَهَائِمِ وَالْخَلْقِ مِنَ الْلَا وَآءِ وَالْجَهَدِ الصَّنْكِ مَا لَا نَشْكُورُهُ إِلَّا إِلَيْكَ، اللَّهُمَّ أَنْبِتْ لَنَا الزَّرْعَ وَأَدْرِنَا الصَّرْعَ وَاسْقِنَا مِنْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَأَنْبِتْ لَنَا مِنْ بَرَكَاتِ الْأَرْضِ اللَّهُمَّ ارْفَعْ عَنَّا الْجُهْدَ وَالْجُوْعَ وَالْعَرَى وَأَكْشِفْ عَنَّا مِنَ الْبَلَاءِ مَا لَا يَكُشِفُهُ غَيْرُكَ، اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعْفِرُكَ إِنَّكَ كُنْتَ عَفَّارًا فَارْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْنَا مِدْرَارًا ﴿معرفة السنن للبيهقي: باب الدعاء في الاستسقاء، ٢٠١٥﴾ أَعُوذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ، وَهُوَ الَّذِي يُنْزِلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيُنْشِرُ رَحْمَتَهُ، وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ﴿ما خواذ: خطبات الأحكام لجماعات العام: ٣٣٦ و ٣٣٧﴾





ادارہ کی دیگر مطبوعات



طبع افادات
موضوعاتی درس قرآن

سورہ طہ
سورہ یس
سورہ آنبواء
خطببات جمعہ
مجالس تصوف

ISBN 978-0-9910344-1-3

9 780991 034413 >